

# مومن کے ماہ و سال

اردو ترجمہ مع عربی متن

مَا تَبْتَكَ بِالسُّنَّةِ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں ہر مسلمان کے لئے  
اعمال و اشغال، نماز و روزہ، دُعا و استغفار کا ایک مکمل دستور العمل

عارف باللہ شیخ عبدالرحمن محدث دہلوی

دارالاشاعت کراچی



2014/11/14

# مومن کے مسائل

اردو ترجمہ مع عربی متن

مَاتِبَتِ بِالسُّنَّةِ فِي أَيَّامِ السَّنَةِ

عربی تصنیف

عارف باللہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی

اردو ترجمہ

مولانا اقبال الدین احمد صاحب

رسول اکرم ﷺ کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں ہر مسلمان کے لئے پورے سال کے اعمال کا مشغال، نماز، روزہ، دُعا و استغفار کا ایک مکمل دستور العمل ہر مسلمان کو چاہئے کہ اپنی زندگی اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے لئے ہر ماہ کے متعلق رسول اللہ ﷺ کی تعلیمات کے مطابق عمل کر کے اپنے دین و دنیا کو کامیاب بنائے

دائرہ اشاعت

اڈو بازار ایم ایس جیل روڈ  
کراچی پاکستان 2213788

جملہ حقوق طباعت و اشاعت بحق ناشر محفوظ ہیں

297.9921

م 28 اق  
159499

باہتمام : خلیل اشرف عثمانی

طباعت : ۲۰۰۵ء علمی گرافکس کراچی

ضخامت : 352 صفحات

### قارئین سے گزارش

اپنی حتی الوسع کوشش کی جاتی ہے کہ پروف ریڈنگ معیاری ہو۔ الحمد للہ اس بات کی نگرانی کے لئے ادارہ میں مستقل ایک عالم موجود رہتے ہیں۔ پھر بھی کوئی غلطی نظر آئے تو ازراہ کرم مطلع فرما کر ممنون فرمائیں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست ہو سکے۔ جزاک اللہ

### ..... ملنے کے پتے .....

ادارۃ المعارف جامعہ دارالعلوم کراچی  
بیت القرآن اردو بازار کراچی  
ادارۃ اسلامیات موہن چوک اردو بازار کراچی  
ادارۃ القرآن والعلوم الاسلامیہ B-437 ویب روڈ سبیلہ کراچی  
بیت القلم مقابل اشرف المدارس گلشن اقبال بلاک ۲ کراچی  
بیت الکتب بالمقابل اشرف المدارس گلشن اقبال کراچی  
مکتبہ اسلامیہ امین پور بازار۔ فیصل آباد

ادارہ اسلامیات ۱۹۰۔ انارکلی لاہور  
بیت العلوم 20 تاج روڈ لاہور  
مکتبہ سید احمد شہید اردو بازار لاہور  
مکتبہ امدادیہ ٹی بی ہسپتال روڈ ملتان  
یونیورسٹی بک ایجنسی خیبر بازار پشاور  
کتب خانہ رشیدیہ۔ مدینہ مارکیٹ راجہ بازار راولپنڈی  
مکتبہ سلامیہ گامی اڈا۔ ایبٹ آباد

مکتبہ المعارف محلہ جنگلی۔ پشاور

### انگلینڈ میں ملنے کے پتے

Islamic Books Centre  
119-121, Halli Well Road  
Bolton BL 3NE, U.K.

Azhar Academy Ltd.  
At Continenta (London) Ltd.  
Cooks Road, London E15 2PW

## مقدمہ

از حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حق تعالیٰ جل شانہ نے سال کے بارہ مہینوں میں مختلف مہینوں اور اس کے مختلف دنوں اور راتوں میں خاص خاص برکات اور خاصیات رکھی ہیں۔ جو آدمی ان کو معلوم کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر راتوں اور دنوں میں کام کرے، وہ دنیا و آخرت کے اپنے مقاصد میں بڑی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ان میں تھوڑی محنت اور معمولی کوشش سے وہ ثواب اور دینی و دنیوی فوائد ہو جاتے ہیں جو دوسرے اوقات میں بڑی محنت اور طویل مشقت سے بھی حاصل ہونا دشوار ہیں۔ مگر افسوس ہے کہ آج کل عموماً مسلمانوں کو شریعت اور سنت کے عمل سے غفلت و لاپرواہی کی بنا پر ان خاص اعمال و افعال اور ان کے آداب کا علم نہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں۔ اس لئے ان کی برکات سے محروم رہتے ہیں۔

اور صرف اتنا ہی ہوتا تو زیادہ جرم نہ تھا۔ ہونے یہ لگا کہ لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سی رسمیں گڑھ لیں جن میں بہت سی چیزیں خلاف شرع بھی ہیں۔ اس کے نتیجہ میں وہ ان مبارک راتوں اور دنوں میں عظیم ثواب حاصل کرنے کے بجائے اور گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

مبارک راتوں اور دنوں میں جس طرح نیک عمل کا ثواب بڑا ہے اسی طرح ان میں اگر کوئی گناہ کرے تو وہ گناہ بھی بڑا ہے۔

اس لئے علماء امت نے مہینہ کی خاص راتوں اور دنوں سے متعلق جو قرآن و حدیث میں فضائل اور احکام وارد ہوئے ہیں ان کو مستقل کتابوں کی صورت میں لکھ دیا ہے۔ جو ہر زمانہ ہر خطہ اور ہر زبان میں شائع ہوتی رہی ہیں۔

انہیں کتابوں میں سے ایک بہت اہم کتاب ماثبت بالنتہ ہے۔ اس کے مصنف

معتبر اور بلند پایہ ہونے کی ضمانت ہے۔ اہل علم میں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس کتاب میں اس معاملے کے متعلق وارد شدہ روایات حدیث کو جمع بھی کیا گیا ہے اور ان کے مستند یا غیر مستند ہونے کی تحقیق بھی کی گئی ہے اور مزید ضروری اور مفید معلومات کا اضافہ بھی کیا گیا ہے۔ یہ کتاب عرصہ سے نایاب تھی۔ اب برخوردار عزیز مولوی محمد رضی سلمہ نے اس کا اصل متن عربی اور شروع میں اس کا اردو ترجمہ اپنے مکتبہ دارالاشاعت سے شائع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور دین و دنیا میں سب کے لئے نافع و مفید بنا دے۔

بندہ محمد شفیع

دارالعلوم۔ کراچی

۲۶۔ ذی القعدہ ۱۳۸۵ھ

۱۔ پہلے یہ کتاب لیتھو میں کئی بار چھپ کر مقبول عام ہو چکی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اب ہم اس کا عکسی ایڈیشن پیش کر رہے ہیں۔ فقط ناشر

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۵	شادی	۶۷	مرض مستعدی (چھوت)
۹۶	تاریخ نبوت	۷۳	<b>ماہ ربیع الاول</b>
۹۶	عمر شریف	۷۳	باب اول
۹۷	باب دوم	۷۳	ولادت باسعادت
۹۷	وصال سرور عالم ﷺ کے حالات	۷۳	سال فراتی و مسرت
۹۸	ابتداءِ علالت	۷۴	انتقال حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلب
۱۰۳	شدت مرض کے حالات	۷۵	ولادت رسالتِ آبِ بحالتِ مجہدہ
۱۰۵	امامت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ	۷۶	خاتم النبیین
۱۱۱	حالات وصال	۷۷	عجائبات و اللات
۱۱۵	سن وصال	۷۷	مہرِ نبوت
۱۱۶	وقت رخصت	۷۷	کرشمہ و لات
۱۲۰	دوموتیں	۷۸	مختون و نافع بریدہ
۱۲۳	وصال شریف	۷۹	مسئلہ ختنہ
۱۲۳	عسل شریف	۸۰	ختنہ کا زمانہ
۱۲۳	کیفیت عسل شریف	۸۰	تاریخ ولادت رسالتِ آبِ ﷺ
۱۲۴	عسل دینے والے	۸۱	بارہویں ربیع الاول
۱۲۵	آبِ عسل	۸۲	وقت ولادت رسالتِ آبِ ﷺ
۱۲۶	آبِ عسل کی برکت	۸۳	انفلیتِ شب و لات
۱۲۶	کفن مبارک	۸۵	رضاعت
۱۲۹	غماز جنازہ	۸۹	شق صدر
۱۳۱	قیم مبارک کی نوعیت	۹۰	عسل قلبِ اطہر
۱۳۱	مقام مزار شریف	۹۰	وفات ولدہ ماجدہ
۱۳۲	کوائف تدفین	۹۲	واذا کا انتقال
۱۳۳	میت کے لئے بچھونا	۹۳	بچا کی کنفالت
۱۳۳	قبر پر چھڑکاؤ	۹۵	سفر شام

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۱	<b>ماہ شعبان</b>	۱۳۳	نوعیت قبر مبارک
۱۸۱	پہلا مقالہ	۱۳۵	پرستش قبور کی ممانعت
	دیگر احادیث فضیلت مندرجہ جامع	۱۳۵	سبز گنبد میں تدفین عیسیٰ
۱۸۳	کبیر	۱۳۵	وقت تدفین
۱۸۵	دوسرا مقالہ	۱۳۶	دفن میں تعویق کا سبب
۱۸۸	معانی الفاظ احادیث	۱۳۷	گریہ و مرثیہ
۱۹۱	تیسرا مقالہ	۱۴۱	مرثیہ صفیہؑ
۱۹۳	اس شب کی بہترین دعا	۱۴۳	مرثیہ صدیق اکبرؑ
	شعبان کی پندرہویں شب میں شب	۱۴۳	مرثیہ حسان بن ثابتؓ
۱۹۳	بیداری کا حکم	۱۴۵	مطالبہ حضرت فاطمہؑ
۱۹۷	بدعتیں	۱۴۵	حضرت فاطمہؑ کی رضامندی
۱۹۹	<b>ماہ رمضان</b>	۱۴۶	زیارت مزار اقدس
۱۹۹	رکعات تراویح	۱۴۷	زار کے لئے احکام
۲۰۱	تراویح میں نشست	۱۵۰	دیدار سرورِ عالم ﷺ
۲۰۱	نشست ترویج	۱۵۴	خواب میں کلام فرمائی
۲۰۲	مستحب قرأت	۱۵۵	خواب میں رسول اکرم ﷺ کا دیدار
۲۰۲	نیت تراویح	۱۵۹	<b>ماہ ربیع الآخر</b>
۲۰۳	مقدار قرأت	۱۶۰	مناقب غوثِ اعظم
۲۰۵	رکعات میں مقدار قرأت	۱۶۰	عرشِ غوثِ اعظم
۲۰۵	مسئلہ تلاوت غیر مرتبہ	۱۶۳	<b>ماہ رجب</b>
۲۰۶	تراویح میں لقمہ دینے کا حکم	۱۶۳	فضائل ماہ رجب
۲۰۶	امامت خوش الحان	۱۶۴	تقید روایات فضیلت
۲۰۶	یوازمات امام	۱۷۲	نماز شب رغائب
۲۰۶	دعائے ماثورہ	۱۷۸	شب معراج
۲۰۷	ترتیب تلاوت	۱۷۸	رجب میں قربانی



صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲۱	نماز عید سے پہلے اور بعد میں نوافل	۲۰۷	تراویح باجماعت
۲۲۳	نماز عید کی قضاء	۲۰۸	گھر میں جماعت
۲۲۷	<b>ماہ ذی الحجہ</b>	۲۰۹	اجرت پر امام
۲۲۷	فضیلت روز و شب کی وجہ	۲۰۹	دو امام
۲۲۷	عشرہ ذی الحجہ کے روزے	۲۱۰	ایک امام دو مساجد
۲۲۸	متروکہ سنتیں	۲۱۰	بیٹھ کر تراویح پڑھنا
۲۲۹	عرفہ کی فضیلت	۲۱۰	بیٹھ کر تراویح پڑھانا
۲۲۹	عرفہ کا روزہ	۲۱۱	تراویح میں بیٹھے رہنا
۲۳۰	قیام عرفات	۲۱۱	مسائل و تر باجماعت
۲۳۰	تصرف و تعریف	۲۱۲	دعائے قنوت
	خاتمہ اردو ترجمہ	۲۱۳	چند تراویح چھوٹ جانے پر وتر
	فہرست مضامین عربی متن	۲۱۳	رکوع قبل قنوت
۲۳۵	دیباچہ از حضرت مصنف	۲۱۳	مسبق اور وتر
۲۳۷	<b>شہر المحرم</b>	۲۱۳	مقدار رکعات میں شبہ
۲۳۵	ذکر ناسیدنا الامام حسینؑ	۲۱۳	جماعت نوافل
	ذکر مصالحة امام الاحسنؑ	۲۱۳	ایک ترویجہ دو امام
۲۳۷	ومعاویہؓ	۲۱۳	وقت تراویح
۲۵۳	<b>شہر صفر</b>	۲۱۵	تراویح کی قضا
۲۵۹	باب الاول فی الطیرہ	۲۱۷	<b>ماہ شوال</b>
۲۶۰	احادیث جامع الاصول		عید گاہ جانے سے پہلے مسنون
۲۶۳	الباب الثانی فی العدوی	۲۱۷	افطار
۲۶۹	<b>شہر ربیع الاول</b>	۲۱۸	ستہ شوال
۲۶۹	الباب الاول فی مولد ﷺ	۲۱۹	نماز عید سے پہلے غسل
۲۸۰	الباب الثانی فی وفاتہ ﷺ	۲۱۹	راستہ میں تکبیرات پڑھنا
۲۸۱	ذکر ابتداء مرضہ ﷺ	۲۲۰	عید گاہ جانے کا راستہ

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۲۷	المقالة الثانية	۲۸۴	و كيفية ذكر اشتداد مرضه ﷺ
۳۲۹	شرح الفاظ	۲۹۶	ذكر سنه ﷺ
۳۳۲	المقالة الثالثة	۲۹۱	ذكر وقت وفاته ﷺ
۳۳۷	<b>شهر رمضان</b>	۲۹۴	ذكر غسله ﷺ
۳۳۷	الفصل الاول عدد ركعاته	۲۹۶	ذكر تكفينه ﷺ
	الفصل الثاني في نية	۲۹۸	ذكر الصلوة عليه ﷺ
۳۳۹	التراويح	۲۹۸	ذكر دفنه وكيفية قبره ﷺ
	الفصل الرابع في قدر القراءة	۳۰۱	ذكر وقت دفنه ﷺ
۳۳۹	في التراويح	۳۰۱	ذكر الندابة عليه و مرثيته ﷺ
	الفصل الخامس في اداء		ذكر ميراثه و تركته و حكمه
۳۴۱	التراويح بجماعة	۳۰۴	فيها ﷺ
۳۴۲	الفصل السادس		ذكر زيارة قبره الشريف علي
۳۴۳	الفصل السابع	۳۰۵	ساكنه و التحية و السلام
	الفصل الثامن في وقت		و لتجتم الرسالة بذكر رؤيته
۳۴۴	التراويح	۳۰۷	ﷺ في المنام
۳۴۶	<b>شهر شوال</b>	۳۱۱	تذييل
		۳۱۵	<b>شهر رجب</b>
۳۵۰	<b>شهر ذي الحجة</b>	۳۲۵	<b>شهر شعبان</b> (مقاله اولی)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

## دیباچہ از مصنف

تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔ جس نے متبرک اوقات کو حسنات و برکات کا مقام دیا نیز پرہیزگاروں اور عابدوں کے لئے سبب فخر و عزت قرار دیا۔ تاکہ شب و روز کے اوقات میں اپنی تجارتوں سے استفادہ کریں دُگنے صلے پائیں اور چند در چند مرادیں حاصل کریں نیز اچھے اعمال کے ذریعہ قبولیت دعا کے امیدوار بنیں۔ یاد رہے کہ جو کوئی مواقع تجارت سے استفادہ نہ کرے وہی نقصان اٹھانے والا ہے اور حد سے تجاوز کرنے والا ہی سب سے زیادہ نقصان اٹھاتا ہے۔ بیش در بیش درود و سلام ہو رسولوں کے سردار متقیوں کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر جن کی تعلیمات و اتباع سے علم و عمل حاصل ہوتے اور آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی کے احسان و شفاعت سے دنیا و آخرت میں آرزوئیں و امیدیں پوری ہوتی ہیں۔ آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہی سب کے استاد، موجودات عالم کے امام و سربراہ علوم کی کان اور جو دو سخا کے سرچشمہ ہیں۔ درود و سلام ہوں آپ پر آپ کے آل واصحاب پر اور ان تمام فرمانبرداروں پر جو راہ راست کے رہبر اور علوم دین کے حامل ہیں۔

بعد حمد و صلوة، اللہ تعالیٰ کا بندہ فقیر عبدالحق ابن سیف الدین دہلوی بخاری عرض پرداز ہے کہ رسول اکرم کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ یقین کی دولت سے مالا مال کرے اور راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔

شب و روز کے اور ادو وظائف اور نماز روزہ کی تعداد میں، حضرات محدثین اور صاحبان طریقت کے باہمی اختلافات رونما ہیں۔

اگرچہ محدثین نے اہل طریقت کے قول پر عمل اور پیش کردہ دلائل پر تفصیلی بحث کی اور نہایت شدت سے ان کے دلائل کا انکار کیا اور اہل طریقت جو احادیث و اخبار پیش کرتے ہیں ان کو باطل قرار دیا ہے۔

قبل ازیں ہم نے ایک فارسی زبان کے رسالہ میں ان دونوں فریقوں کے درمیان اتحاد باہمی پر بحث کی اور دونوں کے راستوں کے درمیان ایک محفوظ راستہ اختیار کیا ہے اور اجمالی و تفصیلی بیانات دیئے ہیں۔ درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی راست و صحیح کہتا ہے اور وہی رہبر راہ ہے۔

لیکن اب پھر ہم نے اس کتاب میں عنوانات کی تفصیل میں احادیث صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع لکھی ہیں۔ کیونکہ احادیث کی یہ اقسام اور ان کی جانچ پڑتال انہی حضرات کے ہاتھ ہے۔

ساتھ ہی اس کتاب میں بلحاظ ضرورت لطیف تحقیقات اور فوائد تحریر کئے ہیں۔ خاص طور پر ماہ ربیع الاول میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں ماہ محرم سے ابتداء کر کے ماہ ذی الحجہ پر اعمال کا اختتام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں تکمیل کا رہے۔

میں نے اس کتاب کا نام ”ما ثبت بالسنۃ فی ایام السنۃ“ سال بھر کے اعمال رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے کبھی اُوکھ اور نیند نہیں آتی اسے مقبول فرمائے۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی

۹۹۹ھ

# ماہِ مُحَرَّم

## ماہِ مُحَرَّم کے فضائل اور عاشورہ کے روزہ کی فضیلت

### جامع الاصول کی احادیث

ام المومنین حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ ماہِ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا رواج تھا۔ لیکن جب ماہِ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو سرورِ عالم نے ارشاد فرمایا۔ عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔

ایک روایت حضرت صدیقہؓ سے منسوب کر کے یہ بیان کی جاتی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ (الحدیث)

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منسوب ایک روایت یہ ہے کہ ماہِ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مگر رمضان کے روزوں کی فرضیت کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عاشورہ کا روزہ جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے چھوڑ دے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور رسول اکرم ﷺ بھی قبل نبوت یہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں آپ ﷺ نے دسویں محرم کو روزہ رکھا اور دوسروں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا اور وہ یہ دن تھا جس میں خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ لیکن جب رمضان کے روزے فرض کئے گئے تو آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک کر دیا اور دسویں محرم کا روزہ اختیاری ہے جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی چاہے نہ رکھے۔

(مسلم و بخاری)

یہی حدیث امام مالک، ابو داؤد اور ترمذی نے بھی لکھ کر آخر میں تحریر کیا ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو عاشورہ کا روزہ رکھنا یا نہ رکھنا فرض نہیں ہو سکتا۔

حضرت ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ رسول اللہ ﷺ اور دوسرے مسلمانوں نے یہ روزہ قبل از فرضیت رمضان رکھا۔ لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ کے دنوں میں سے ماہِ محرم کا دسواں دن بھی ہے جس کا جی چاہے اس دن روزہ رکھے۔ (ابوداؤد)

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی زبانی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں ایک دن دسویں محرم کا تذکرہ کیا گیا تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، عاشورہ وہ ہے جس میں لوگ بڑا زمانہ جاہلیت روزہ رکھتے تھے۔ اب جس کا جی چاہے رکھے اور جس کا جی نہ چاہے نہ رکھے۔ (بخاری و مسلم)

بخاری کی حدیث ہے کہ عاشورہ کا روزہ خود رسول اللہ ﷺ نے رکھا اور دوسروں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض قرار دیئے گئے تو آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرمادیا اور عبداللہ ابن عمرؓ اتفاق پڑنے پر عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ مسلم میں اس حدیث سے متعلق لکھا ہے کہ جس کو پسند ہو عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو ناپسند کرے وہ نہ رکھے۔

حضرت ابو موسیٰ اشعریؓ کا بیان ہے کہ دسویں محرم کی یہودی بڑی تعظیم کرتے تھے اور اسے عید کا دن مانتے تھے۔ اس پر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے مسلمانو! تم روزہ رکھو۔ ایک روایت ہے کہ خیبر والے عاشورہ کا روزہ رکھتے، اس دن عید مناتے، اپنی خواتین کو زیور اور اچھے لباس پہناتے، ان حالات کے پیش نظر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا: اے مسلمانو! تم عاشورہ کے دن روزہ رکھو۔ (بخاری و مسلم)

حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مدینہ تشریف لا کر یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو ان سے دریافت فرمایا: ”یہ کیا بات ہے؟“ ان یہودیوں نے جواباً کہا کہ یہ وہ اچھا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰؑ اور بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے چھٹکارا دلایا اور اس یوم نجات کے شکر یہ میں حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا۔ یہ جواب سن کر آپ ﷺ نے فرمایا ”تمہاری بہ نسبت حضرت موسیٰؑ کی پیروی کے ہم

۱۔ چونکہ آپ ﷺ اکثر و بیشتر ایام میں روزہ دار رہتے تھے۔ آپ ﷺ کے روزوں کے دنوں میں اتفاقاً اگر عشرہ محرم کا دن آجاتا تو اسی دن بھی روزہ رکھ لیتے۔ (ازترجم ۱۲)

۲۔ یہ خیبر والے یہودی تھے۔ (ازترجم ۱۲)

زیادہ مستحق ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لئے فرمایا۔

ایک روایت ہے کہ خیبر کے باشندے یہودیوں سے جو مدینہ منورہ تھے رسول اکرم ﷺ نے دریافت کیا عاشورہ کے دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا۔ یہ وہ بڑا دن ہے جس میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی، اسے اور اس کے گروہ کو دریا میں غرق کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ نے اللہ کی شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھا، اور یہ ماہ محرم کا دسواں دن تھا۔ اس لئے ہم اس عظمت کے پیش نظر اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ (بخاری، مسلم، ابوداؤد)

حضرت جابر بن سمرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ خود عاشورہ کا روزہ رکھتے ہم کو بھی اسی دن کا روزہ رکھنے کی رغبت دلاتے اور ہم سے قول و قرار لیتے تھے لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ ﷺ نے ہمیں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم نہیں دیا اور ممانعت بھی نہیں فرمائی نیز ہم سے کوئی قول قرار نہیں لیا۔ (مسلم)

حضرت علقمہؓ کا بیان ہے کہ اشعث بن قیس، حضرت عبداللہ کے پاس عاشورہ کے دن آئے۔ جو کھانا کھا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اشعث بن قیس نے کہا اے ابو عبد الرحمن! آج عاشورا کا دن ہے، اس پر حضرت عبداللہ نے جواباً کہا رمضان کے روزوں کی فرضیت سے پہلے عاشورا کا روزہ رسول اللہ ﷺ رکھا کرتے تھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہونے کے بعد آپ ﷺ نے عاشورہ کا روزہ رکھنا ترک فرما دیا۔ اگر تم روزہ دار نہیں ہو تو لو کھانا کھاؤ۔ (بخاری و مسلم)

سلمہ بن اکوعؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ایک دن قبیلہ بنو اسلم کے ایک شخص سے فرمایا ”جاؤ اعلان کر دو کہ جس نے سحری کھائی ہو یا نہ کھائی ہو وہ آج کے دن روزہ رکھے کیونکہ آج عاشورہ محرم ہے۔“

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم نے قبیلہ بنو اسلم کے ایک آدمی سے فرمایا اپنی قوم میں اعلان کر دو یا لوگوں کو مطلع کر دو۔ ان الفاظ کے رو بدل میں خود راوی کو شک و شبہ ہے۔ (بخاری، مسلم ہنسائی)



نیز عبد الرحمن بن سلمہ نے یہی روایت کی ہے جو ابو داؤد میں ہے۔

حضرت ربیع بنت معوذہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ان دیہاتی انصاریوں کے پاس جو مدینہ کے اطراف میں رہا کرتے عاشورہ محرم کی صبح میں کہا بھیجا آج جس نے روزہ رکھا ہو تو وہ پورا کرے اور جس نے نہ رکھا ہو وہ روزہ داروں کی مانند پورا دن گزارے۔ اس حکم کے بعد ہم سب خود روزہ رکھتیں اور چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتیں تھیں۔ اور ہم عبادت وغیرہ کے لئے مسجد جاتی تھیں۔ اگر کوئی بچہ کھانے کے لئے روتا تو اسے بہلانے کے لئے وہ اونی گڑیا جو ہم خود بناتی تھیں اس بچہ کو دے دیتی تھیں، یہاں تک کہ افطار کا وقت آجاتا تھا۔ (بخاری و مسلم) اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے۔

قیس بن سعد بن عبادہ کا بیان ہے کہ عاشورہ کے دن ہم روزہ رکھتے اور نہ رکھنے کی صورت میں صدقہ فطر دیا کرتے، لیکن ماہ رمضان کے روزے فرض ہونے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم الہی آنے کے بعد، رسول اللہ نے عاشورہ کا روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا اور ہم لوگ عاشورہ کا روزہ رکھتے رہے۔ (نسائی)

محمد بن صفی کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عاشورہ کے دن لوگوں سے دریافت کیا کیا تم میں سے کسی نے آج کچھ کھایا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم میں سے بعض روزہ دار ہیں اور بعض بے روزہ اس پر سرور عالم ﷺ نے فرمایا تم سب لوگ روزہ پورا کرو۔ اور گردنوں کے باشندوں کو مطلع کر دو کہ وہ باقی ماندہ دن یونہی پورا کریں۔

امام مالک نے لکھا ہے: مجھے معلوم ہوا ہے کہ حضرت عمرؓ نے حارث بن ہشام کو کہلا بھیجا کہ کل عاشورہ کے دن تم روزہ رکھو اور اپنے متعلقین کو حکم دو کہ وہ بھی روزہ رکھیں۔ (موطأ)

عبداللہ بن ابی یزید کا بیان ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباسؓ سے زیادہ سنا ہے کہ ان سے لوگوں نے عاشورہ کے روزہ کی بابت پوچھا انہوں نے جواب دیا۔ ”مجھے معلوم ہے کہ رسول اللہ نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور عاشورہ کے دن کو دوسرے دنوں پر افضل و برتر قرار دیا ہے اور اسی طرح ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں سے اعلیٰ و افضل فرمایا ہے۔“

عبداللہ بن موثیٰ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عاشورہ کے روزہ کو دوسرے دنوں کے روزہ پر فضیلت دینے کی سعی فرماتے اور ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر برتر قرار دیتے تھے۔ (بخاری و مسلم)

ابوقتادہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میرا گمان ہے کہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ سال گذشتہ کے سیئات (جرائم خفیف) کا کفارہ بنا دیگا۔ (ترمذی)

ابن عباسؓ نے رسول اکرم کا یہ ارشاد بھی بیان کیا کہ اگر میں سال آئندہ زندہ رہا تو نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھوں گا۔

نیز ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عاشوا کا روزہ رکھ کر دوسرے مسلمانوں کو بھی اس دن روزہ رکھنے کے لئے فرمایا جس پر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ یہ وہ دن ہے جس کی یہودی سچی عزت کرتے اور اسے بڑا دن مانتے ہیں۔ اس پر ارشاد عالی ہوا آئندہ سال انشاء اللہ دسویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا مگر آئندہ سال کا ماہ محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ ﷺ نے رحلت فرمائی۔ (ابوداؤد)

حکم بن اعرج کا بیان ہے کہ میں ابن عباسؓ کی خدمت میں اس وقت پہنچا جب کہ وہ چادر لپیٹے چاہ زمزم سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے ان سے کہا عاشورہ کے روزہ کی معلومات بہم پہنچائیے۔ جواب دیا حرم کا چاند دیکھ کر پہلی محرم کو کھاؤ پیو اور نویں محرم روزہ رکھو، میں نے پوچھا کہ سرور کائنات کیا اسی طرح روزہ رکھتے تھے؟ جواب دیا ہاں اسی طرح۔ (مسلم و ابوداؤد)

رزیں نے عطا کی زبانی بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن عباسؓ کو فرماتے سنا ہے ”یہودی مخالفت کرتے ہوئے نویں اور دسویں محرم کو روزہ رکھا کرو۔“

ام المومنین حضرت حفصہؓ کا بیان ہے کہ عاشوراء شوال کے دس دن اور ہر ماہ کے تین روزے اور نماز فجر سے پہلے کی دو رکعتیں یہ چار اعمال رسول اکرم ﷺ نے کبھی ترک نہیں فرمائے۔ (نسائی)

## افضل نماز

حضرت ابو ہریرہؓ نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ ماہ رمضان کے افضل ترین روزوں کے بعد ماہ محرم میں عاشورا کا روزہ ہے۔ اور پنج وقتہ نمازوں کے بعد صلوٰۃ اللیل (نماز تہجد) افضل ہے۔ (ترمذی نسائی)

## افضل روزہ

ایک روایت ہے کہ راوی نے رسول اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ

فرض نمازوں کے بعد کون سی نماز افضل ہے؟ ارشاد عالی ہوا تہجد کی نماز۔ پھر پوچھا رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ افضل ہے؟ ارشاد گرامی ہوا ماہ محرم کا روزہ۔ (مسلم و ابوداؤد)

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ ایک شخص نے مجھ سے پوچھا۔ ماہ رمضان کے بعد آپ کس ماہ میں مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیتے ہیں؟ جواب دیا اس مسئلہ کو ایک شخص نے رسول اکرم ﷺ سے اس وقت دریافت کیا تھا جبکہ میں آپ کے پاس تھا۔ اس آدمی نے پوچھا تھا۔ یا رسول اللہ ﷺ! ماہ رمضان کے روزوں کے بعد مجھے کس مہینہ میں روزے رکھنے کا حکم ہے؟ ارشاد عالی ہوا تھا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اسی دن ایک دوسری قوم کی بھی توبہ قبول فرمائے گا۔ (ترمذی)

احادیث مذکورہ بالا صحاح ستہ میں موجود اور جامع الاصول میں مرقوم ہیں۔

### جامع کبیر کی احادیث

جامع کبیر وہ کتاب ہے جو ہمارے سردار و آقا عارف حق الشیخ علی متقیؒ کی تالیف ہے اور اس کی مندرجہ احادیث کو ترتیب دے کر علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں تحریر کیا ہے اگرچہ مذکورہ احادیث دوسری اسناد کے ساتھ مروی ہیں جن کے اعادہ کی چنداں اس لئے ضرورت نہیں کیونکہ وہ صحاح ستہ کی اسناد سے بیان کی گئی ہیں اور بخدا اگر ان احادیث کے الفاظ کچھ اور ہوتے جو جامع الاصول میں نہ ہوتے تو ہم لازمی طور پر ان کی اسناد قلمبند کر دیتے۔ جامع الاصول کی مندرجہ احادیث کے علاوہ دیگر احادیث یہ ہیں۔

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا ماہ رمضان کے روزوں کے بعد اگر روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کا روزہ رکھو کیونکہ محرم اللہ کا وہ مہینہ ہے جس کے ایک دن اللہ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور اسی دن اللہ تعالیٰ دوسری قوم کی توبہ قبول فرمائے گا۔ نیز سرور عالم ﷺ نے لوگوں کو رغبت دلانی کہ عاشورہ کے دن گناہوں سے رکنے کے عہد کی تجدید کریں اور قبول توبہ کے خواہاں رہیں۔ اس کے علاوہ عاشورہ کے دن جو کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کا طلب گار ہوگا تو اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا کیونکہ اسی دن پہلے زمانہ میں اللہ نے کچھ لوگوں کی توبہ قبول کی اور یہی وہ دن ہے جس میں آئندہ لوگوں کی توبہ کو درجہ قبولیت دے گا۔ (ترمذی)

حضرت ابن عباسؓ نے سرور عالم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ یہودیوں کے خلاف تم نویں دسویں گیارہویں محرم کا روزہ رکھو۔ (امام احمد بن حنبل)

حضرت ابن عباسؓ کا یہ بھی بیان ہے کہ سرور عالم ﷺ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو نویں اور دسویں محرم کا روزہ رکھنے کا حکم دوں گا۔ (شعب الایمان از امام بیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا زمانہ ماضی کے باشندے عاشورہ کے دن عید مناتے تھے اس لئے اے مسلمانو! تم اس دن روزہ رکھو۔ (بزار و بیہقی)

### موضوع روایات

حضرت انسؓ کا بیان ہے جس نے ماہ محرم میں جمعرات جمعہ اور ہفتہ ان تین دن کا روزہ رکھا اس کے نام دو سال کی عبادت لکھی گئی۔

حضرت ابن عباسؓ نے رسول اکرمؐ کا ارشاد بیان کیا ہے۔ آئندہ سال ہم نویں محرم کا روزہ رکھیں گے۔

ابن عباسؓ سے یہ بھی مروی ہے کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا اگر ہم زندہ رہے تو یہودیوں کے عمل کے خلاف نویں محرم کا بھی روزہ رکھیں گے۔

حضرت عبداللہ ابن عمرؓ نے سرور عالمؐ کا یہ ارشاد بیان کیا کہ جس نے یوم زینت یعنی عاشورہ کے دن روزہ رکھا گویا اس نے سال بھر کے فوت شدہ روزے حاصل کر لئے۔

ابو شیخ نے اپنی کتاب ”الثواب“ میں رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد تحریر کیا ہے کہ عاشورہ کے دن حضرت نوحؑ کوہ جودی پر اپنی کشتی سے اترے اور اس دن روزہ رکھا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں کو بھی اس روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ نیز عاشورا کے دن ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی اور حضرت یونس علیہ السلام کے شہر والوں کی بھی اسی دن توبہ قبول فرمائی۔ اسی دن اسرائیل کے لئے سمندر کو چیر دیا گیا۔ اسی دن حضرت ابراہیمؑ اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا عاشورہ کے دن جس نے اپنے اہل و عیال پر روزی و سبغ رکھی تو انشاء اللہ تمام سال اس کے لئے فراخی رہے گی۔

حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ تمام انسانوں کے بہر دار حضرت آدمؑ ہیں اور رسول اکرم ﷺ سید العرب ہیں۔ اور مشہور صحابی حضرت صہیبؓ روم کے سردار ہیں سرزمین فارس کے سردار

حضرت سلیمانؑ فارسی اور حبش کے سردار بلالؑ ہیں۔ پہاڑوں کا سردار طور سینا اور درختوں کا سردار درخت سدرۃ المنتہیٰ ہے۔ مہینوں کا سردار ماہ محرم اور ایام (دنوں) کا سردار جمعہ ہے۔ اسی طرح کلام کا سردار قرآن کریم، اور قرآن کریم کا خلاصہ سورۃ بقرہ سورۃ بقرہ کا مغز آیۃ الکرسی ہے۔ واضح رہے کہ آیۃ الکرسی میں پانچ خصوصی کلمات ہیں اور ہر کلمہ میں پچاس برکتیں ہیں۔ (مسند فردوس از دیلمی) اور حضرت سے یہ منسوبہ روایت ضعیف ہے۔

### افضلیت و برتری

بندہ ضعیف کا بیان ہے کہ افضلیت و برتری سے متعلق اکثر احادیث میں ہے کہ افضل ترین مہینہ ماہ رمضان ہے طبرانی نے حضرت ابن عباسؓ کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا میں تم سب کو مطلع کرتا ہوں کہ فرشتوں میں افضل حضرت جبرئیل ہیں۔ دنوں میں برتر جمعہ کا دن ہے، مہینوں میں افضلیت ماہ رمضان کو حاصل ہے، برتر شب لیلة القدر ہے۔ اور خواتین میں حضرت مریم برتر ہیں۔

اے اللہ تو جانتا ہے کہ اس برتری افضلیت اور سرداری میں کافی فرق ہے۔ لوگو! اسے سمجھو اور غور و فکر کرو۔ اور اللہ تعالیٰ ہی توفیق دیتا ہے۔

شیخ الفقہاء و محدثین شیخ شہاب الدین ابن حجر پیشی مصری مفتی مکہ معظمہ نے اپنی تالیف ”صواعق محرقة“ میں عاشوراء کے ضمن میں لکھا ہے لوگو! اچھی طرح سمجھ لو کہ عاشوراء کے دن حضرت حسینؑ مصائب سے دوچار ہوئے اور آپ کی شہادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کے مراتب و درجات کی رفعت کا ثبوت ہے۔ اس شہادت کے ذریعہ اہل بیت اطہار کے درجات بلند کرنا بھی اللہ کے پیش نظر تھا۔ اس لئے عاشوراء کے دن جو شخص مصائب کا تذکرہ کرے تو اسے لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری میں انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے میں مشغول رہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ثواب کا مستحق ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

اولئک علیہم صلوة من ربہم ورحمة واولئک ہم المہتلون  
(یہی وہ شخصیتیں ہیں جن پر منجانب پروردگار رحمت و کرم ہوتا ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں)  
عاشورہ کے دن انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھتے رہنے یا بڑی سے بڑی نیکی روزہ رکھنے کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔

خبردار و افش کی بدعتوں میں مشغول نہ رہو۔ گریہ و زاری، آہ و بکا سینہ کو بی ماتم، غم و الم کے ظاہری اظہار وغیرہ میں مصروف و مشغول نہ ہو۔ کیونکہ یہ مندرجہ بالا امور دراصل مسلمانوں کے اخلاق عالیہ سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے۔

### ماتم و نوحہ

اگر ماتم و نوحہ کی اجازت ہوتی تو رسول اکرم ﷺ کی رحلت کا دن نوحہ و ماتم کا زیادہ سزاوار اور مستحق آہ بکا ہوتا۔ نیز خارجیوں سے احتراز کرو کیونکہ یہ اہل بیت سے تعصب کرتے ہیں۔ اور جاہلوں کی بدعتوں سے بھی علیحدہ رہو کیونکہ یہ تباہی کا بربادی سے، بدعت کا اسلام میں نئی رسموں سے اور بدی کا برائیوں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اور اس تقابل پر خوشی و مسرت کا اظہار کرتے ہیں۔ نیز دسویں محرم کو عید کا دن مانتے ہیں۔ اس دن زیب و زینت کرتے خضاب و سرمہ لگاتے، نئے کپڑے پہنتے، خوب خرچ کرتے، خلاف عادت متفرق کھانے اور کھچڑا وغیرہ پکواتے ہیں۔ اور یہ تمام کام ان کے اعتقاد کے مطابق قدیم دستور اور سنت ہوئے۔

حالانکہ ان تمام خرافات کو ترک کر دینا ہی سنت ہے اور مذکورہ بالا امور کی انجام دہی کے لئے قابل اعتماد روایت یا ثبوت نہیں پایا جاتا۔

بعض محدثین اور علماء سے عاشورا کے دن سرمہ لگانے، نہانے، مہندی لگانے کھچڑا پکانے نئے کپڑے زیب تن کرنے اور خوشی و مسرت کا اظہار کرنے کا مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا ان امور کی انجام دہی کے لئے رسول اکرم ﷺ کی کوئی حدیث نہیں۔ نیز کسی صحابی سے کوئی روایت مروی نہیں۔ مسلمانوں کے کسی امام یا ائمہ اربعہ اور دوسرے امام نے ان امور کو مستحب اور پسندیدہ قرار نہیں دیا۔ حدیث کی کسی قابل اعتماد کتاب میں ان امور کی انجام دہی کے لئے کوئی صحیح یا ضعیف حدیث نہیں ہے۔

### موضوع احادیث

بعض لوگ کہتے ہیں کہ عاشورا کے دن سرمہ لگانے سے سال بھر آنکھیں نہیں آتیں، عاشورا کے دن نہانے سے سال بھر بیماری نہیں آتی۔ اور عاشورا کے دن اپنے بال بچوں پر فراخی کرنے والے کو اللہ سال بھر وسعت و فراخی دیتا ہے۔ اور اسی طرح کی باتیں کہ اس دن کی نماز افضل و برتر ہے یا اس دن حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت نوح کی کشتی اسی دن کوہ جودی پر ٹھہری، اسی دن حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی اسی دن حضرت اسمعیل کے

ذبح کے وقت آسمان سے دنبہ آ کر فدیہ بنا، یا اسی دن حضرت یعقوب کے پاس حضرت یوسف لوٹ کر آئے۔ یہ تمام تراحدیث موضوع اور خود ساختہ ہیں۔

رہی بال بچوں پر دل کھول کر خرچ کرنے سے سال بھر تک فراخی کی حدیث جس کے بعض راوی ثقہ نہیں ہیں۔

خارجی جاہلوں نے عاشورہ کے دن کو سرور و انبساط کا دن اس لئے بنا لیا کیونکہ رافضیوں نے اسے ماتم کا دن مقرر کر لیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ دونوں خطا کار و خاطی ہیں اور سنت نبوی کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ وہ عبارت ہے جسے حافظین حدیث نے بیان کیا ہے۔ حاکم نے صراحت کی ہے کہ عاشورہ کے دن سرمہ لگانا بدعت ہے۔ اور لکھا ہے کہ ”عاشورہ کے دن پتھر کا سرمہ لگانے سے مدت العمر کبھی آنکھیں نہیں آتیں“۔ یہ قول و روایت سراسر غلط اور تعجب خیز ہے

نیز امام ابن جوزی نے بھی اپنی کتاب موضوعات میں اس قسم کی روایت کو حاکم کی مستدرک کے فیصلہ کے موافق غلط و بے معنی ہی تحریر کیا ہے۔ علاوہ ازیں دیگر محدثین نے کئی طریقوں سے ان مہمل اقوال کو بے سرو پا بیان کیا ہے۔

علامہ مجدالدین مؤلف القاموس نے حاکم کے حوالہ سے لکھا ہے کہ روزہ کے سوائے دیگر اعمال مثلاً یوم عاشورا کی فضیلت، اس دن دل کھول کر خرچ کرنا خضاب، تیل اور سرمہ لگانا اور کھچڑا پکانا وغیرہ یہ سب موضوع و خود ساختہ روایات ہیں اور اتر پردازی ہے۔

نیز امام ابن قیم نے صراحت سے تحریر کیا ہے کہ عاشورا کے دن سرمہ، تیل اور خوشبو لگانے کی روایات دراصل جھوٹوں کی وضع کردہ ہیں اور خاص کر عاشورا کے دن سرمہ لگانے کی روایت ان کی اپنی من گھڑت ہے اور اس کی اساس و بنیاد اس روایت کو بناتے ہیں کہ عاشورا کے دن لوگوں کو کھلانے پلانے سے رزق میں فراخی ہوتی ہے۔

حافظ الا سلام زین عراقی نے اپنی کتاب ”امالی“ میں امام بیہقی کی اسناد کے حوالہ سے رسول اکرم ﷺ سے منسوب یہ حدیث لکھی ہے کہ عاشورا کے دن جو شخص اپنے بال بچوں وغیرہ کو خوب کھلائے پلائے تو اللہ سال بھر تک اس کی روزی میں وسعت و کشادگی کر دیتا ہے۔

۱۔ تفصیل کے لئے دیکھئے کتاب السعادة کے آخری اوراق۔ مؤلف علامہ مجدالدین۔

پھر اس حدیث کے خاتمہ پر تحریر کیا ہے کہ اس حدیث کی اسناد نرم و کمزور ہیں۔ تاہم ابن حبان کے نزدیک یہ حدیث حسن ہے اور حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر نے دوسری اسناد کے تحت اس حدیث کو صحیح گردانا ہے حالانکہ اس کی اسناد کی اکثریت تعدادی سراسر غلط ہے۔

امام بیہقی نے کشادگی رزق کی حدیث کو ابن حبان کی رائے کے علاوہ بھی حدیث حسن لکھا ہے کیونکہ صحابہؓ کی زبانی مرفوعاً مروی ہے اور آخر میں لکھا ہے کہ کشادگی رزق کی حدیث کے راوی اگرچہ ضعیف ہیں لیکن اگر ان کو باہم یکجا کر لیا جائے تو ان میں قوت پیدا ہو جاتی ہے۔

کشادگی رزق کی روایت کے حدیث ہونے سے امام ابن تیمیہ نے انکار کیا ہے اور ان کا یہ انکار دراصل ان کا وہ وہم و شک ہے جو اوپر تحریر کیا گیا ہے۔ نیز امام احمدؒ نے اس حدیث کو صحیح بالذات نہیں مانا ہے اور کسی چیز کو صحیح بالذات نہ ماننے سے اس کے حسن لغیرہ کی نفی لازم نہیں آتی۔ اور یہ وہ اصول ہے جسے علم فن حدیث میں حجت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

شیخ محمد سخاوی نے اپنی کتاب ”مقاصد حسنہ“ میں یہ حدیث لکھی ہے کہ عاشورہ کے دن جس نے پتھر کا سرمہ لگایا اس کی مدت العمر آنکھیں نہ آئیں گی، اس حدیث کو حاکم اور بیہقی نے شعب الایمان کی تیسویں فصل میں لکھا ہے نیز ویلی نے حضرت جبرؓ کی روایت کو ضحاک کے ذریعہ ابن عباسؓ کی زبانی مرفوعاً تحریر کیا ہے۔ اس کے بعد حاکم نے لکھا ہے کہ حدیث صرف موضوع و خود ساختہ ہی نہیں بلکہ منکر اور سراسر غلط ہے جیسا کہ اس کے موضوع ہونے کو ابن جوزی نے اپنی کتاب موضوعات میں قلمبند کیا ہے اور حضرت ابو ہریرہؓ سے اسی کی روایت اس لئے ضعیف و کمزور ہے کہ اس کا ایک راوی احمد بن منصور شونیزی بھی ہے۔ جو احادیث میں اپنی طرف سے الفاظ داخل کرتا ہے۔ ”جس نے عاشورہ کے دن اپنے بال بچوں وغیرہ کو خوب کھلایا پلایا اسے اللہ پورے سال بھر خوب وسعت و فراخی دے گا۔“ رسول اکرم ﷺ کی اس حدیث کو طبرانی نے فضائل اوقات اور بیہقی نے شعب الایمان میں تحریر کیا ہے۔ اور لکھا ہے کہ یہ حدیث ابوالشیخ نے حضرت ابن مسعودؓ کے حوالہ سے کی ہے۔

نیز فضائل اوقات میں یہ حدیث ابوسعید سے مروی ہونا تحریر ہے اور شعب الایمان میں اس حدیث کو ابوسعیدؓ، حضرت جابرؓ اور حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہونا قلمبند کیا گیا ہے۔



اور اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن جب ایک کو دوسری حدیث سے ملائیں تو توت کا فائدہ ہو پیدا ہوتا ہے۔

حافظ الاسلام زین عراقی نے اپنی کتاب امالی میں لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیث کے بعض راویوں کو حافظ ابن ناصر نے صحیح بتایا ہے۔

لیکن ابن جوزی نے اس حدیث کو موضوعات میں شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مذکورہ بالا حدیث کا ایک راوی سلیمان بن ابی عبید اللہ ہے جو مجہول ہے۔ اور اس سلیمان راوی کو ابن حبان نے ثقہ قرار دے کر اس حدیث کو حسن کہا ہے۔

نیز یہ حدیث ایک دوسری سند کے ساتھ حضرت جابرؓ کے واسطے سے مسلمان ہونے کی شرط پر عبد اللہ ابن عبد البر نے اپنی کتاب استیعاب میں درج کی ہے اور جس کی روایت ابن ابی زبیر کی زبانی تحریر کی ہے۔ اور یہ سند بہت زیادہ صحیح ہے۔

علاوہ ازیں یہی دارقطنی میں جید سند کے ساتھ حضرت عمرؓ سے بطریقہ موقوف بیان کی گئی ہے۔ اور یہی حدیث بیہقی نے اپنے شعب الایمان میں محمد بن منشر کی سند سے قلمبند کی ہے۔

اس نوبت پر میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کہتا ہوں کہ اس حدیث کی تصدیق کے بارے میں ہمارے استاد و شیخ نے بکثرت مواخذہ کیا ہے جس کا میں تذکرہ نہیں کرنا چاہتا۔

ابن جوزی نے اپنی موضوعات میں عقیلی کے قول کے بعد لکھا ہے کہ حضرت ابن مسعودؓ کی حدیث میں ہصیم بن شداد راوی بالکل مجہول ہے لیکن ابن حبان نے اسے ضعیف و ثقہ تحریر کیا ہے۔

شیخ وقت و عالم مدینہ منوہ امام حافظ الشیخ علی بن محمد بن عراقی نے اپنی کتاب "تنزیہہ الشریعت فی احادیث الموضوعہ" میں یہ حدیث لکھی ہے کہ جس نے یکم سے نویں محرم تک کاروزہ رکھا اس کے لئے اللہ نے فضا میں چار میل مربع ایک قبہ بنا دیا جس کے چار دروازے ہیں اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ حدیث ابو نعیم نے حضرت انسؓ کی زبانی بیان کی ہے جس میں ایک راوی موسیٰ طویل بھی ہے اور موسیٰ طویل وہ آفت کا پر کالا ہے جو حدیث گھڑتا ہے۔

۱۔ یہ حدیث کہ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ساٹھ سال کی عبادت لکھ دی جس میں نماز روزے بھی ہیں۔

۲۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ تعالیٰ نے دس ہزار فرشتوں کی عبادت کا ثواب دیا۔

۳۔ جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا اسے اللہ نے ہزار حاجیوں اور عمرہ کرنے والوں کا ثواب دیا۔

۴۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ دس ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے۔

۵۔ عاشورہ کا روزہ رکھنے والے کو اللہ سات آسمانوں کا ثواب عنایت کرتا ہے۔

۶۔ عشرہ محرم کے دن جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو گویا اس نے امت محمدیہ کے تمام فقیروں کو کھانا کھلا کر شکم سیر کیا۔

۷۔ جس نے عاشورہ کے دن کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے ہر بال کے عوض ہاتھ پھیرنے والے کو جنت میں بلند مراتب دیئے جائیں گے۔

۸۔ عاشورہ کے دن اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا۔

۹۔ اللہ نے عاشورہ کے دن لوح و قلم پیدا کئے۔

۱۰۔ عاشورہ کے دن اللہ نے جبریلؑ، فرشتوں، آدم، اور حضرت ابراہیمؑ کو پیدا کیا۔

۱۱۔ عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو ناز و نمرود سے نجات دی۔

۱۲۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ نے ذنبہ کی صورت میں حضرت اسمعیلؑ کا فدیہ دیا۔

۱۳۔ عاشورہ کے دن فرعون کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کیا۔

۱۴۔ عاشورہ کے روز اللہ نے حضرت ادریسؑ کو رفیع الدرجات بنایا۔

۱۵۔ عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی۔

۱۶۔ عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت داؤد کی بھول چوک معاف کی۔

۱۷۔ عاشورہ کے دن ہی اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا۔

۱۸۔ عاشورہ کے دن ہی قیامت برپا ہوگی۔

یہ تمام مذکورہ بالا احادیث، موضوع اور خود ساختہ ہیں جنہیں ابن جوزی نے حضرت ابن عباسؓ کی زبانی تحریر کیا ہے اور لکھا ہے ان احادیث کے راویوں میں ایک راوی حبیب ابن

حبیب ہے جو آفت کا پر کالا ہے اور جھوٹی احادیث گھڑتا ہے۔

اس کے علاوہ یہ احادیث کہ اللہ نے بنی اسرائیل پر سال بھر میں عاشورہ کا روزہ فرض کیا۔ اس لئے اے لوگو! اس دسویں محرم کے دن روزہ رکھو اور اس روز اپنے بال بچوں و متعلقین کو خوب کھلاؤ پلاؤ کیونکہ جس نے اپنے مال و زر و غیرہ کے ذریعہ عاشورا کے دن اپنے متعلقین پر کشادگی کی تو اس پر اللہ تعالیٰ سال بھر تک کشادگی کرتا ہے۔ عاشورا کے دن روزہ رکھو کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت آدمؑ کی توبہ قبول کی۔

عاشورا ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریسؑ کو بلند درجات عنایت کئے۔

اسی دن اللہ نے حضرت ابراہیمؑ کو آتشِ نمرود سے نجات دی۔

اور یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت نوحؑ کی کشتی پر سے اتارا۔

عاشورہ ہی وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ پر توراہ نازل فرمائی۔

اسی روز اللہ نے حضرت اسمعیلؑ کو ذبح کرنے کے بجائے دنبہ فدیہ دیا۔

اسی دن اللہ نے حضرت یوسفؑ کو جیل سے چھٹکارا دلایا۔

اور اسی دن اللہ نے یعقوبؑ کو ان کی قوتِ بینائی واپس دی۔

اسی دن اللہ نے ایوبؑ سے بلائیں دور فرمائیں۔

یہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت یونسؑ کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔

اسی دن اللہ نے دریا کو چیر کر بنی اسرائیل کے لئے راستہ بنایا۔

اسی دن اللہ نے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے سب اگلے پچھلے گناہ معاف کئے۔

اسی دن حضرت موسیٰؑ نے دریائے نیل عبور کیا۔

یہی وہ دن ہے جس میں حضرت یونسؑ کی قوم کو توبہ کرنے کی توفیق ہوئی۔

اور جس نے عاشورا کا روزہ رکھا اس کے چالیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔

یا یہ احادیث کہ سب سے پہلا دن عاشورہ کا دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے

یومِ عاشورہ پیدا کیا۔

عاشورہ کا دن ہی وہ پہلا دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مینہ برسایا۔

جس نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو گویا اس نے پورے زمانہ روزہ رکھا۔

دسویں محرم ہی وہ دن ہے جس میں تمام انبیاء اور حضرت موسیٰؑ نے روزہ رکھا۔  
جس نے دسویں محرم کی رات کو شب بیداری کی تو گویا اس نے ساتوں آسمانی مخلوق  
کے مماثل عبادت کی۔

جس نے عاشورہ کے دن چار رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد  
ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پچاس مرتبہ تلاوت کی تو اللہ نے اس کے ماضی و مستقبل کے پچاس  
پچاس سالہ گناہ معاف کر دیئے اور ملاء اعلیٰ (بلند ترین مقام اقتدار) میں اس کے لئے ایک  
ہزار نوری منبر بنا دیئے۔

عاشورہ کے دن جس نے ایک گھونٹ شربت پلایا تو گویا اس نے ایک لمحہ کے لئے  
بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔

عاشورہ کے دن جس نے اہل بیت کے مسکینوں کو پیٹ بھر کھلایا تو وہ پل صراط پر سے  
بجلی کی چمک کی طرح گزر جائے گا۔

عاشورہ کے دن جس نے کچھ بھی خیرات کی تو گویا سال بھر اس نے کئی سائل کو اپنے  
در سے واپس نہیں کیا۔

عاشورہ کے دن جس نے غسل کیا تو وہ مرض موت کے سوائے کبھی بیمار نہ ہوگا۔  
عاشورہ کے دن جس نے سرمہ لگایا تو پورے سال اس کی آنکھیں نہیں آئیں گی۔  
عاشورہ کے دن جس نے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا تو گویا اس نے دنیا جہاں کے  
تمام یتیموں کے ساتھ بھلائی کی۔

عاشورہ کے دن جس نے کسی کی عیادت کی تو گویا اس نے تمام اولاد آدمؑ کے  
مریضوں کی عیادت کی۔

مذکورہ بالا احادیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے اور آخر میں تحریر کیا ہے  
کہ ان احادیث کے بیان کرنے والے راویوں کے نام درست ہیں اور یہ بذات خود ثقہ  
ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر یہ امر بالکل ظاہر ہے کہ بعض متاخرین نے خود ساختہ احادیث  
مرتب کر کے ان ثقہ راویوں کی اسناد سے منسوب کر دی ہیں۔





## شہادتِ حسینؑ

سیدنا امام الشہداء، سعادت آثار سبط رسول اللہ ﷺ امام وقت ابو عبد اللہ الحسینؑ سے متعلق احادیث و اقوال۔

حضرت علیؑ نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے جبریلؑ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ حسینؑ دریائے فرات کے ساحل پر شہید کئے جائیں گے۔ (ابن سعد)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا حسینؑ سرزمین ”طف“ میں شہید کیا جائے گا۔ جبریلؑ رسول اللہ ﷺ کے پاس اس کی تربت کی یہ مٹی لائے تھے جہاں انہیں دفن کیا جائے گا۔

(ملاحظہ ہو ابن سعد اور علامہ طبرانی کی کبیر)

ام فضل بنت حارث نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے کہ میری امت کے لوگ عنقریب میرے اس بیٹے حسینؑ کو شہید کریں گے اور ان کی تربت کی سرخ مٹی جبریلؑ میرے پاس لائے۔ (ابوداؤد اور حاکم کی متدرک)

حضرت ام سلمہؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جبریلؑ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا بیٹا حسینؑ سرزمین فرات میں شہید کیا جائے گا تو میں نے جبریلؑ سے کہا جس سرزمین پر وہ قتل کیا جائے گا وہاں کی مٹی لا کر مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ وہ مٹی لائے اور کہا ملاحظہ فرمائیے یہ ان کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ (ابن سعد)

ایک روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسینؑ سرزمین عراق کے مقام کربلا میں شہید کیا جائے گا، لہذا اس وقت جو کوئی موجود ہو وہ ان (حسینؑ) کی مدد کرے۔

(اس روایت کو علامہ بغوی، ابن سکین، ماوردی، ابن مندہ اور ابن عساکر نے انس بن حارث بن مدبہ راوی کے ذریعہ تحریر کیا ہے۔)

امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ روایت صرف انس بن حارثؓ کی زبانی سنی گئی اور ان کے سوائے کسی دوسرے نے یہ روایت بیان نہیں کی۔

ابن سکین کا بیان ہے کہ انس بن حارثؓ نے اسناد کے ساتھ صرف یہی روایت بیان کی ہے۔ اور اس روایت کے علاوہ انس بن حارث سے کوئی دوسری روایت مروی نہیں ہے۔

یہ روایت کہ جبریلؑ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ میرا بیٹا حسینؑ شہید کیا جائے گا اور اس کے مقتل کی یہ مٹی ہے، اس روایت کو علامہ حنبل نے بھی اپنی ”ارشاد“ میں تحریر کیا ہے۔

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ اور ام سلمہؓ سے ہم زبان مروی ہے ایک دن ہمارے گھر میں جبریلؑ موجود تھے انہوں نے رسول اکرم ﷺ سے کہا کیا حسینؑ کو آپ چاہتے ہیں؟ رسالت مآب نے فرمایا ہاں دنیا میں انہیں چاہتا ہوں۔ اس پر جبریلؑ نے کہا آپ ﷺ کی امت میدانِ کربلا میں انہیں عنقریب شہید کرے گی، پھر مقتل کی مٹی لائے اور ہم دونوں نے وہ مٹی دیکھی۔ (طبرانی کی کبیر)

ام المومنین حضرت ام سلمہؓ سے روایت کی گئی کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جبریلؑ نے مجھے اطلاع دی کہ میرے ابن فرزند حسینؑ کو میرے بعض امتی شہید کریں گے اور قاتلین پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ (ابن عساکر)

ام المومنین حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ جبریلؑ نے قتل گاہ حسینؑ کی مٹی لاکر مجھے دکھائی اور حسینؑ کا خون بہانے والے پر اللہ کا شدید غضب نازل ہوگا۔ اس کے بعد سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا، اے عائشہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے بے حد حزن و ملال ہے کہ میری امت میں کون ایسا ہوگا جو میرے بعد حسین کو شہید کرے گا۔ (ابن سعد)

ام المومنین حضرت عائشہؓ سے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے جبریلؑ نے آکر مجھے بتایا کہ میری امت کے چند افراد میرے بیٹے حسینؑ کو شہید کریں گے، اور میرے مطالبہ پر جبریلؑ نے ان کی تربت کی سرخ مٹی لاکر مجھے دکھائی۔ (طبرانی کی کبیر)

حضرت زینب بنت جحشؓ سے رسول اللہ ﷺ کا یہ ارشاد مروی ہے، اللہ نے یحییٰ بن زکریا کے قتل کے عوض ہم نے ستر ہزار لوگوں کو قتل کرایا۔ آپ ﷺ کے نواسہ کے قتل کے بدلے ستر ہزار ضرب ستر ہزار قتل کراؤں گا۔

(حاکم کی مستدرک)

ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ پہلے سے میرے پاس جبریلؑ کھڑے تھے، پھر کہا دریائے فرات کے ساحل پر حسینؓ قتل کئے جائیں گے، اگر آپؑ کہیں تو میں ان کی تربت کی آپؑ کو مٹی سونگھاؤں؟ میں نے کہا سونگھائیے اور پرانہوں نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اور مٹھی بھر مٹی لا کر میرے حوالہ کی اس نوبت پر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔

حضرت علیؓ، ابی امامہؓ، انس اور حضرت عائشہ صدیقہؓ کے حوالہ سے مندرجہ بالا روایت احمد، ابوالعلی، ابن سعد اور طبرانی نے لکھی ہے۔

علاوہ ازیں ابن عساکر نے ام المومنین ام سلمہ، ام فضل بنت حارث زوجہ عباسؓ کے حوالہ سے اور ابن سعدؓ نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے وسیلہ سے اور ابوالعلی نے ام المومنین حضرت زینب کے ذریعہ یہ روایات قلمبند کی ہیں، گویا میں وہ چتکبرا کتا دیکھ رہا ہوں جو میرے اہل بیت کا خون پی رہا ہے۔ (ابن عساکر)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے عائشہؓ! تعجب خیز خبر یہ ہے کہ میرے پاس ابھی ابھی وہ فرشتہ آیا جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو قتل کیا جائے گا۔ اور اگر آپ ﷺ فرمائیں تو میں ان کی تربت کی مٹی دکھا دوں اتنا کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ پھیلا یا اور سرخ مٹی لا کر مجھے دکھائی۔ (طبرانی کی کبیر)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ قاتل و ملعون یزید کو اللہ برکت نہ دے کیونکہ اس نے میرے پیارے بیٹے حسینؓ کے ساتھ بغاوت کی اور انہیں شہید کرایا۔ حسینؓ کی تربت کی مٹی میرے پاس لائی گئی اور مجھے ان قاتلوں کو بھی دکھایا گیا اور جتایا گیا کہ جن کے روبرو حسینؓ قتل کئے جائیں گے وہ ان کی مدد نہ کریں گے اور اسی سبب سے اللہ نے ان پر ایک عام عذاب مسلط کر دیا ہے۔ (ابن عساکر)

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ حضرت حسینؓ ۶۰ھ کی ابتداء میں قتل کئے جائیں گے۔ اس روایت کو طبرانی نے اپنی کبیر میں تحریر کیا اور خطیب و ابن عساکر نے حضرت ام سلمہؓ سے مروی لکھا ہے جس کا ایک راوی سعد بن ظریف متروک ہے۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ سعد بن ظریف وہ شخص ہے جو خود ساختہ حدیثیں بیان کرتا ہے۔ اس روایت کو ابن جوزی نے موضوعات میں تحریر کیا ہے۔



بیروایت کہ حضرت حسینؑ اس وقت مقتول ہوں گے جب کہ قنبران پر چھا جائے گا۔ طبرانی نے اپنی کبیر میں اور بیان کیا ہے کہ اس کا لوی سعد بن ظریف ہے جو باغی و باطل پرست ہے۔ حسینؑ کو قتل کیا جائے گا ان کی تربت کی مٹی دکھائی گئی اور ان کے قاتل کا پتہ بتایا گیا۔ اس روایت کو معاذ کے ذریعہ بھی لکھا گیا ہے۔

جامع الاصول میں ترمذی کی حدیث ایک انصاری خاتون سلمیٰ کی زبانی یہ لکھی ہے کہ میں ام المومنین حضرت سلمہؓ کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوئی اور وہ گریہ زاری کر رہی تھیں۔ میں نے کہا آپ کیوں رو رہی ہیں؟ فرمایا میں نے ابھی خواب میں رسول اللہ ﷺ کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ کی ڈاڑھی اور سر کے بال گرد آلود تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ارشاد عالی ہوا میں نے ابھی ابھی حسینؑ کو قتل ہوتے دیکھا ہے۔

اور یہی حدیث بخاری و ترمذی میں حضرت انسؓ کی زبانی یوں تحریر ہے کہ گورز کوفہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حسینؑ کا سر لا کر ایک طشت میں رکھا گیا۔ عبید اللہ بن زیاد نے سر حسینؑ کو ایک لکڑی سے چھیڑا اور ان کی کچھ تعریف کی تو میں (انسؓ) نے کہا۔ بخدا یہ رسول اکرم ﷺ سے بہت مشابہ ہیں اور اس وقت سر حسینؑ دمہ کے خضاب سے رنگین تھا۔ نیز ایک روایت حضرت انسؓ کی زبانی یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد گورز کوفہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت حسینؑ کا سر مبارک لایا گیا جن کی ناک میں عبید اللہ بن زیاد ایک لکڑی کرنے لگا۔ اور کہنے لگا میں نے ایسا خوب رو کسی کو نہیں دیکھا۔ تو میں (انسؓ) نے کہا بخدا یہ رسول اللہ ﷺ سے بہت مشابہ ہیں۔ (ترمذی)

عمارة بن عمرؓ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد گورز کوفہ اور اس کے ساتھیوں کا سر کاٹ کر مسجد میں لایا گیا۔ جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ میں (عمارة) بھی اس بھیڑ میں سے گھس کر مسجد میں پہنچ گیا۔ اور اس ہجوم نے کہا وہ آیا وہ آیا یعنی ایک سانپ تھا جو مقتولوں کے سروں میں گھستا ہوا عبید اللہ کے سر کے پاس اور اس کی ناک میں گھس کر تھوڑی دیر بیٹھا رہا اور پھر نکل کر آنکھوں میں غائب ہو گیا۔

۱۔ عبید اللہ بن زیاد گورز کوفہ کا سر کاٹ کر پہلے کوفہ کے قصر امارہ میں مختار بن عبید کے آگے رکھا گیا اور پھر اس ظالم مختار کے حکم سے مسجد بھیجا گیا تاکہ لوگ حاکم وقت مختار سے خوف زدہ رہیں۔ ۱۲

اس کے بعد لوگوں نے پھر شور مچایا وہ آیا وہ آیا۔ اور اس سانپ نے دو یا تین مرتبہ پہلے کی طرح عمل کیا۔ (ترمذی)

علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب تاریخ الخلفاء اور امام بیہقی نے اپنی کتاب دلائل میں حضرت ابن عباسؓ کی زبانی لکھا ہے کہ میں (ابن عباسؓ) نے رسول اکرم ﷺ کو ٹھیک دوپہر کے وقت اس حالت میں دیکھا کہ آپ ﷺ کے بال پراگندہ و غبار آلود ہیں۔ اور آپ ﷺ کے دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ یہ دیکھ کر میں (ابن عباسؓ) نے کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان یا رسول اللہ یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد فرمایا یہ حسینؓ اوزان کے ساتھیوں کا خون ہے جو آج اب تک جمع کرتا رہا ہوں۔ جب لوگوں نے اس خواب کے دن کا حساب لگایا تو وہ شہادت حسینؓ کا دن نکلا۔<sup>۱</sup>

### جنات کی نوحہ خوانی

ابو نعیم نے دلائل میں ام المومنین حضرت ام سلمہؓ کی زبانی تحریر کیا ہے کہ حسینؓ پر جنات کو گریہ و زاری اور نوحہ کرتے ہیں نے خود سنا ہے۔

ثعلبی نے اپنی امالی میں ابن حبان کلبی کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے کربلا میں پہنچ کر ایک شریف عزت دار آدمی سے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ جنات کے نوحے سنتے ہیں؟ اس نے جواباً کہا آپ جس سے مل کر پوچھیں گے وہ یہی کہے گا کہ میں نے خود سنے ہیں۔ اس پر میں نے ان صاحب سے کہا اچھا بتائیے وہ کیا نوحہ پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں نے جنات کو یہ نوحہ پڑھتے سنا ہے۔

رسول اکرمؐ نے حسینؓ کی پیشانی پر دست مبارک پھیرا تو ان کے رخساروں سے روشنی چمکنے لگی۔

حسینؓ کے والدین قریش کے بزرگ ترین تھے۔ اور ان کے نانا ﷺ بہترین صفات کے نانا ﷺ تھے۔

### بیزید رخنہ انداز

ابویعلیٰ نے ایک ضعیف روایت کے ساتھ ابو عبیدہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میری امت کے معاملات ہمیشہ حق و انصاف کے ساتھ تصفیہ پذیر ہوں گے۔

مگر خاندان بنو اُمیہ میں سے یزید ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو معاملات اُمت میں رختہ اندازی کرے گا۔

رویائی نے اپنی مسند میں ابوالدرداءؓ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ اُموی خاندان کا یزید ہی وہ پہلا شخص ہوگا جو میری سنتوں میں رد و بدل کرے گا۔

نوفل بن قرات کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیزؒ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا اتنے میں کسی نے یزید بن معاویہ کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر المومنین یزید بن معاویہ کہا۔ اس پر خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیزؒ نے کہا اے شخص تو نے یزید کو امیر المومنین کہا یہ تیرا جرم ہے۔ پھر اس شخص کو بیس (۲۰) کوڑے لگوائے۔



# امام حسنؑ اور حضرت امیر معاویہؓ

## کی مصالحت

امام المسلمین حضرت حسنؑ ابن علیؑ اور حضرت امیر معاویہؓ بن ابی سفیان کی مکر و فریب سے بالکل علیحدگی اور باہمی میل ملاپ

۴۱ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے خروج فرمایا۔ امام حسنؑ سامنے آئے اور بحق امیر معاویہؓ حق خلافت سے دستبرداری اختیار کی۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الجماعۃ (سنہ اجماع) کہتے ہیں۔ کیونکہ یہی وہ سال ہے جس میں تمام اُمت نے صرف ایک شخص کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ اسی سال یعنی ۴۱ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا۔

۴۳ھ میں حضرت امیر معاویہؓ نے مملکت رے وغیرہ اور علاقہ بھستان کے بعض شہر نیز سوڈان کے اطراف کے خطے فتح کئے۔

اسی سال یعنی ۴۳ھ میں امیر معاویہؓ نے زیاد بن امیہ اپنا نائب بنایا اور یہی وہ پہلا عمل ہے جس کے ذریعہ احکامات رسالت مآب ﷺ کی خلاف ورزی کی گئی۔  
(ثعلابی وغیرہ)

## قرارداد خلافت یزید

۵۰ھ میں امیر معاویہؓ نے شامیوں کو بلایا کہ ان کے بعد ان کے بیٹے یزید کی خلافت ماننے کے لئے اس کی ولی عہدی پر بیعت کریں۔

امیر معاویہؓ کا یہ پہلا عمل تھا جو انہوں نے اپنی صحت کی حالت میں اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لئے لوگوں سے بیعت لی۔ اور یزید کو ولی عہد بنایا۔ اس کے بعد مروان بن حکم گورنر مدینہ کو فرمان بھیجا کہ باشندگان مدینہ سے بھی یزید کی ولی عہدی کی بیعت لی جائے۔ چنانچہ مروان نے مدینہ میں خطبہ دیتے ہوئے کہا۔ امیر المؤمنین امیر معاویہؓ کا

منشاء ہے کہ وہ اپنے فرزند یزید کو ولی عہد خلافت مقرر کریں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں نامزدگی کا طریقہ رائج تھا۔ یہ سن کر حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیقؓ کھڑے ہوئے اور کہا ان بزرگوں کی نامزدگی خلافت کا طریقہ نہ کہو بلکہ قیصر و کسریٰ کا طریقہ کہو۔ بزرگوار حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمرؓ میں سے کسی ایک نے بھی اپنی اولاد کو ولی عہد خلافت مقرر نہیں فرمایا اور اپنے خاندان والے کو بھی ولی عہد یا نامزد خلافت نہیں فرمایا۔

### امیر معاویہؓ کی مدینہ آمد

۵۷ھ میں امیر معاویہؓ نے حج کیا اور اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لئے دوسرے لوگوں کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کو بلوایا اور ان سے کہا۔ اے ابن عمرؓ آپ ہم سے کہا کرتے تھے ”مجھے اس شب نار میں بھی سونا پسند نہیں جبکہ ہم پر کوئی امیر نہ ہو۔“ اب مسلمانوں میں فساد انگیز اور ان کی لاشی کے دو ٹکڑے کرنے سے تم کو محفوظ دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کھڑے ہوئے اور حمد و صلوة کے بعد کہا تم سے پہلے بھی خلفاء ہوئے ہیں اور ان کے بھی فرزند تھے اور تمہارا بیٹا ان کے فرزندوں سے بہتر نہیں۔ ان خلفائے راشدین نے اپنے بیٹوں کے لئے وہ امر ناپسند کیا جو تم اپنے بیٹے کے لئے کرنا چاہتے ہو۔ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے خلیفہ کا انتخاب عام مسلمانوں پر چھوڑا اور ہر دور کے مسلمانوں نے اپنے حق خود اختیاری کے پیش نظر اپنے لئے خلیفہ کا انتخاب کیا۔ اب بحالت موجودہ آپ مجھے ڈرار ہے ہیں کہ میں مسلمانوں کی متحدہ قوت کے دو ٹکڑے نہ کروں۔ بخدا میں مسلمانوں میں انتشار کرنے والا نہیں ہوں۔ میں امت مسلمہ کا ایک فرد ہوں۔ جب پوری امت کسی پر اجماع کر لے گی تو میں بھی ان کو مان لوں گا۔ یہ سن کر امیر معاویہؓ نے کہا۔ اللہ آپ پر رحمتیں نازل کرے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرؓ واپس چلے گئے۔

پھر امیر معاویہؓ نے عبدالرحمن ابن ابوبکر صدیقؓ کو بلوا کر پہلے کی طرح ان سے بھی کہا۔ دوران حکم میں حضرت عبدالرحمن نے قطع کلام کرتے ہوئے کہا۔ آپ کو گمان ہو گیا ہے کہ آپ کے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے متعلق ہم لوگوں نے آپ کو اپنا وکیل و مختار عام بنا لیا ہے۔ بخدا آپ کا یہ گمان بالکل باطل ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمان مجلس شوریٰ میں کسی بات پر متفق ہو جائیں۔ ورنہ میں بتائے دیتا ہوں کہ تفرقہ اندازی کا بار

آپ کے کندھوں پر رہے گا۔ اتنا کہہ کر حضرت عبدالرحمن جانے کے لئے بیٹھ گئے تو امیر معاویہ نے کہا۔ اے اللہ میری مدد کر۔ اور یزید کی ولی عہدی و خلافت کے نتائج سے میری ذات کو محفوظ رکھ۔ پھر عبدالرحمن سے کہا۔ اے جانے والے۔ یہاں سے شامیوں کے پاس اپنا تخیل نہ جانے دیجئے۔ مجھے خوف ہے کہ میرے اس معاملہ میں آپ سبقت کر بیٹھیں گے۔ مجھے صرف اتنی مہلت دیجئے کہ میں سب کو مطلع کر دوں کہ آپ نے بیعت کر لی ہے۔ پھر حسبِ دلخواہ جو چاہے کر لیجئے گا۔

اس کے بعد امیر معاویہ نے عبداللہ ابن زبیر کو بلوا کر کہا۔ اے ابن زبیر! تم اس تیز لومڑی کی مانند ہو جو ایک بل سے نکل کر دوسری میں گھس جاتی ہے۔ میرا یقین ہے کہ ابو بکر و عمر کے فرزندوں سے تم مل چکے ہو اور ان کے کان میں تم نے کچھ پھونک دیا ہے اور ان دونوں کو ان کی ذاتی رائے کے خلاف کسی اور کے حق میں رائے وہی پر آمادہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر عبداللہ ابن زبیر نے کہا۔ آپ اگر تخت شاہی سے بیزار ہو گئے ہیں تو بصد شوق استعفا دیجئے اور اس کے بعد اپنے صاحبزادے کو کھڑا کیجئے تاکہ ہم اس کی بیعت کر سکیں تو فرمائیے کہ ہم کس کی سنیں اور کس کا کہا مانیں۔ کیونکہ دو خلیفہ موجود رہیں گے۔ اور واضح رہے کہ وقت واحد میں دو خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ یہ کہہ کے عبداللہ ابن زبیر چلے گئے۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے منبر پر چڑھ کر حمد و ثناء کے بعد کہا۔ میں نے کجروا و اشخاص کی یہ باتیں سنی ہیں کہ ابن ابوبکر و ابن عمر اور ابن زبیر کسی قیمت پر یزید کی خلافت کی بیعت نہیں کریں گے حالانکہ ان حضرات نے برضا و رغبت یزید کی بیعت کر لی ہے۔ یہ سن کر شامیوں نے کہا ہم اس وقت ہرگز ہرگز یہ تسلیم نہیں کریں گے البتہ اس وقت مان لیں گے جب وہ ہم سب کی موجودگی میں بیعت یزید کا علی الاعلان اقرار کریں۔ بصورت دیگر ہم ان کے سر قلم کر دیں گے۔ اس پر امیر معاویہ نے کہا سبحان اللہ! استغفر اللہ قریش کی شان میں اس قدر جلد بازی اور یہ شرارت۔ یاد رکھو آج کے بعد تم میں سے کسی کی زبان سے آئندہ ایسی گستاخ باتیں نہ سنوں۔ اس کے بعد منبر سے اتر گئے۔

لوگوں نے باہم کہنا شروع کیا کہ ابن ابوبکر و ابن عمر و ابن زبیر نے بیعت کر لی حالانکہ یہ ہر سہ حضرات قسمیہ کہتے رہے ہیں کہ ہم میں سے کسی نے بھی یزید کی بیعت نہیں کی ہے اور کیفیت یہ کہ لوگ ہاں اور نہیں یعنی مثبت و منفی اقوال زبان پر لاتے رہے۔ اور امیر معاویہ مدینہ سے روانہ ہو کر مملکت شام واپس چلے گئے۔

## دیگر آراء

حضرت حسنؓ بھری کا بیان ہے لوگوں میں فتنہ و فساد کی آگ سلگانے والے صرف دو آدمی ہیں۔ جن میں سے ایک عمر بن عاص ہیں جنہوں نے امیر معاویہؓ کو نیزوں پر قرآن کریم اٹھانے کا مشورہ دیا اور قرآن کریم نیزوں پر اٹھائے گئے۔ اور ابن قراء کا قول ہے کہ خارجیوں کو انہوں نے ہی ثالث بنایا تھا اور یہ وہ ثالث تھے جن کا چرچا قیامت تک رہے گا۔

فسادیوں میں سے دوسرے شخص مغیرہ بن شعبہ ہیں جو کہ امیر معاویہؓ کے گورنر تھے جن کے نام امیر معاویہؓ کا یہ فرمان پہنچا تھا کہ اس کے حکم نامہ کی وصولیابی اور خواندگی کے بعد تم خود کو معزول سمجھو اور کوفہ سے فوراً ہمارے دربار میں حاضری دو۔ لیکن مغیرہ نے حکم میں تعویق کی اور بہ تعویق دربار میں پہنچنے پر امیر معاویہؓ نے تعویق کا سبب پوچھا تو جواب دیا کہ ایک معاملہ پیش تھا۔ جسے سلجھانے اور مفید طلب بنانے کی وجہ سے دیر ہوگئی۔ امیر معاویہؓ نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا بتاؤ۔ مغیرہ نے جواب دیا، آپ کے بعد یزید کی بیعت کے لئے زمین ہموار کر رہا تھا۔ دریافت کیا کہ آیا تم نے یہ پورا کر لیا؟ جواب دیا۔ جی ہاں۔ یہ سن کر امیر معاویہؓ نے کہا اچھا اپنی گورنری پر واپس جاؤ اور حسب سابق فرائض انجام دو۔ یہاں سے لوٹ کر مغیرہ جب اپنے احباب کے پاس پہنچا تو انہوں نے پوچھا بتاؤ، کیسی رہی؟ مغیرہ نے کہا میں نے معاویہؓ کے پاؤں اس ناواقفیت کے رکاب میں رکھ دیئے ہیں جس میں قیامت تک وہ گرفتار رہیں گے۔

ابن سیرین کا بیان ہے کہ عمر بن حزام نے بصورت قاصد نما سندہ امیر معاویہؓ سے کہا۔ اللہ سے لو لگائے رہو۔ تم امت محمدیہ ﷺ پر کیسے شخص کو خلیفہ بنا رہے ہو؟ امیر معاویہؓ نے جواب دیا۔ آپ کی نصیحت سر آنکھوں پر۔ البتہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ منصب خلافت کے لئے ان کے بیٹوں اور میرے بیٹے کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا اور میرا بیٹا زیادہ مستحق ہے۔

عطیہ بن قیس کا بیان ہے کہ امیر معاویہؓ نے دوران خطبہ میں کہا۔ اے اللہ میں نے یزید کو اس کی قابلیت کے پیش نظر ولی عہد خلافت مقرر کیا ہے۔ تو میری یہ تدبیر پوری کر اور یزید کی امداد فرما اور اگر وہ نااہل خلافت ہو اور میں نے محض محبت پدری کے تحت یہ کام کیا ہو تو،

تحت ولایتِ خلافت پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اس کو موت کی آغوش میں سُلا دے۔

### حضرت حسینؑ مدینہ سے مکہ

حقیقت حال یہ ہے کہ بد بخت و سرکش یزید ۲۵ھ یا ۲۶ھ میں پیدا ہوا۔ جسے ان کے والد نے لوگوں کی ناپسندیدگی کے باوجود ولی عہدِ خلافت مقرر کیا۔ امیر معاویہؓ نے ماہِ رجب ۶۰ھ میں وفات پائی تو سب سے پہلے شامیوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر یزید نے اپنا ایک قاصد مدینہ روانہ کیا تا کہ باشندگانِ مدینہ سے بیعت لے لیکن حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے بیعت سے انکار کیا اور راتوں رات مدینہ سے جانبِ مکہ روانہ ہو گئے۔

عبداللہ بن زبیرؓ نے یزید کی نہ بیعت کی اور نہ خود ہی اپنے لئے کوئی خواہش کی البتہ حضرت حسینؑ کی کیفیت یہ تھی کہ امیر معاویہؓ کے دورِ خلافت ہی میں کوفیوں نے آپ کو خطوط لکھے اور امیر معاویہؓ پر چڑھائی کے لئے بلایا تھا۔ جس پر آپ ہمیشہ انکار کرتے رہے۔ لیکن اب جبکہ یزید کی بیعت ہونے لگی تو اس زمانہ میں آپ کبھی غم زدہ و متفکر ہوتے۔ گاہے اپنے قیام کا خیال کرتے اور گاہے کوفہ کی جانب روانگی کا ارادہ کرتے۔ اس عالمِ تذبذب میں حضرت عبداللہ بن زبیرؓ نے آپ کو کوفہ جانے کا مشورہ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا۔ عبداللہ بن عمرؓ نے کہا آپ مدینہ چھوڑ کر نہ جائیے۔ اللہ نے رسول اکرمؐ کو اختیار دیا تھا کہ دنیا و آخرت میں سے جسکو چاہیے پسند فرمائیے لیکن رسالتِ مآب نے آخرت کو پسند فرمایا۔ چونکہ آپ بھی سرورِ عالم کے جگر گوشہ ہیں اس لئے دنیا آپ کو بھی نہ ملے گی۔ اتنا کہہ کر حضرت حسینؓ سے عبداللہ بن عمرؓ گلے مل کر روئے اور انہیں الوداع کہا۔

حضرت عبداللہ بن عمرؓ اکثر کہا کرتے تھے مدینہ سے روانگی سے حضرت حسینؓ نے بہت زیادہ عجلت سے کام لیا۔ اور میری جان کی قسم انہوں نے اپنے والد بزرگوار اور بڑے بھائی کے ساتھ کوفیوں کی بے وفائیوں سے عبرت نہ لی۔

نیز حضرت جابر بن عبداللہ، ابوسعید خدری، اور ابو واقد لیشی وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سب ہی حضرت حسینؓ کو کوفہ جانے سے روکتے رہے مگر آپ نے کسی کی نہ سنی اور عراق کی جانب روانگی کا عزمِ مصمم کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے تو یہاں تک کہا اے حسینؓ بخدا میرا گمان ہے کہ اپنے بیٹیوں اور خواتین کی موجودگی میں آپ اسی طرح شہید کر دیئے جائیں گے جیسے حضرت عثمان ابن عفان شہید کر دیئے گئے۔ جب حضرت حسینؓ نے ابن عباسؓ کی



بات نہ مانی تو انہوں نے روتے ہوئے کہا آپ نے عبد اللہ ابن زبیر کا مشورہ قبول کر لیا۔ اور عبد اللہ ابن زبیرؓ کو دیکھ کر کہا حسینؓ تمہارے مشورہ پر عمل کر رہے ہیں اور تم کو چھوڑ کر سرزمین حجاز تمہارے لئے چھوڑے جا رہے ہیں۔ پھر یہ اشعار پڑھے۔

ترجمہ : "اے کلغی دار پرندا موجودہ سبزہ زار ہی نہیں بلکہ فضا تیرے لئے خالی ہے اس میں تو شوق سے اٹھ دے، بچے نکال اور جہاں سے چاہے غذا حاصل کر خوش ہو جا کیونکہ آج تیرا شکاری تیرے ہی سامنے سرنگوں ہے۔"

### کوفہ کو کوچ

عراقیوں نے متعدد خطوط اور قاصد حضرت حسینؓ کے پاس بلاوے کے بھیجے جس کے نتیجے میں حضرت حسینؓ بتاریخ ۱۰ ذی الحجہ ۶۰ھ مردوں اور عورتوں کو ساتھ لئے عراق کی جانب روانہ ہوئے۔ دوسری جانب یزید نے عراق کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو حکم بھیجا کہ وہ آپ سے نبرد آزمائی کرے چنانچہ اس نے چار ہزار فوجیوں کا لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی میں حضرت حسینؓ سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا۔ اس نوبت پر عراقیوں کو فیوں نے اپنی قدیم عادت کے موافق حضرت حسینؓ کو بے یار و مددگار چھوڑ کر آپ سے بے وفائی کی۔ اور اسی طرح دغادی جیسی کہ آپ کے والد بزرگوار کو دھوکہ دیا تھا۔

### شہادت حسینؓ

یزیدی ہتھیار بند فوج نے جب حضرت حسینؓ کو راستہ ہی میں گھیر لیا تو آپ نے صلح کی درخواست کی اور کہا یا تو مکہ واپس جانے دو یا یزید کے پاس جانے دو تا کہ خود بذاتہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں لیکن ان فوجیوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کہا ہمیں آپ سے جنگ کرنے کا حکم ہے تا کہ آپ کو ٹھنڈا کر دیں۔ غرضیکہ میدان جنگ میں آپؓ کو شہید کر دیا آپ کا سر مبارک ایک طشت میں رکھ کر عبید اللہ ابن زیاد گورنر عراق کے سامنے لایا گیا۔ آپ کے قاتل، ابن زیاد اور یزید ان سب پر اللہ کی لعنت ہو۔

آپ کی شہادت میدان کربلا میں ہوئی اور یہ غسل سانحہ اتنا زیادہ طویل ہے جس کے تذکرہ کی دل کو سکت نہیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

### شہادت حسینؓ کے اثرات

حضرت حسینؓ کے ساتھ اہل بیت کے سولہ مرد شہید ہوئے شہادت حسینؓ کے ہنگامہ کے وقت دنیا میں سات دن تک اتنا اندھیرا رہا کہ دیواروں پر ڈھوپ کا رنگ ہلکا زرد معلوم

دیتا۔ اور سات دن تک ستارے ٹوٹتے رہے آپ کی شہادت ۱۰ محرم ۶۱ھ کے دن سورج کو گہن لگا۔ آپ کی شہادت کے بعد چھ ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے اور پھر یہ سرخی اُفتق رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی۔

اُفتق آسمان پر جو سرخی اب موجود ہے یہ شہادت حسینؑ سے پہلے قطعاً نہ تھی۔

بعض لوگوں کا بیان ہے کہ شہادت حسینؑ کے دن شہر بیت المقدس میں جو پتھر الٹا جاتا ہے اس کے نیچے تازہ خون دکھائی دیتا۔

عراقی کوئی فوج میں جس قدر زرد رنگ رنگنے والی گھاس تھی وہ سب مٹی ہو گئی یعنی وہ رنگنے کے قابل نہ رہی۔

عراقی فوج جب کھانے کے لئے کوئی اونٹ ذبح کرتی تو اس کے گوشت میں آگ نظر آتی۔ اور جب اس گوشت کو پکاتے تو وہ کڑوا ہو جاتا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت حسینؑ کی شان میں کچھ سخت سُست باتیں کہیں تو بحکم الہی آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا جس سے اس کی آنکھیں جاتی رہیں۔

ثعلبی کی تحریر ہے کہ عبد الملک بن عمر لیشی کی زبانی مختلف راویوں نے روایتیں بیان کیں ہیں۔ عبد الملک کا بیان ہے کہ میں نے عبید اللہ بن زیاد کے روبرو سر حسین ایک ڈھال پر رکھے دیکھا پھر اسی گورنر ہاؤس میں عبید اللہ بن زیاد کا سر ایک ڈھال پر مختار بن عبید کے آگے پڑا دیکھا۔ اور کوفہ کے اسی قصر الامارۃ میں مختار کا سر مصعب بن عمیر کے دربار میں دیکھا۔ اور اسی گورنر ہاؤس میں مصعب بن عمیر کا سر عبد الملک کے روبرو پڑا دیکھ کر جب پورا واقعہ اپنے وقت کے گورنر عبد الملک سے بیان کیا تو اس نے اس قصر کو منحوس سمجھ کر چھوڑ دیا۔

## یزید کی مسرت و شرمندگی

حضرت حسینؑ اور ان کے خاندان کے افراد جب شہید ہو گئے تو ابن زیاد نے ان کے سر یزید کے پاس بھیجے اور سروں کو دیکھ کر یزید پہلے تو ان کی شہادت سے خوش ہوا لیکن جب دوسرے مسلمان ان بزرگوں کے قتل پر ملامت کرنے لگے تو شرمندہ ہوا۔ لوگ عام طور پر یزید سے بغض و عداوت رکھتے تھے اور لوگوں کا یزید کو بُرا کہنا حق بجانب ہے۔

## یزید کا مکہ مدینہ پر حملہ

۶۳ھ میں یزید کو اطلاع دی گئی کہ باشندگانِ مدینہ نے چڑھائی کا ارادہ کیا اور اس کی بیعت فسخ کر دی ہے تو یزید نے ایک زبردست فوج روانہ کر کے افسر فوج کو حکم دیا کہ مدینہ والوں سے نبرد آزمائی کی جائے۔ اور اسی کے ساتھ ایک فوج مکہ معظمہ بھیجی تاکہ حضرت عبداللہ ابن زبیرؓ سے معرکہ آرا ہو کے انہیں قتل کر دے۔ یزیدی فوج جو مدینہ منورہ آئی تھی اس نے باب طیبہ میں معرکہ خڑہ قائم کیا اور مدینہ والوں کو دردناک تکلیفیں پہنچائیں۔ لوگو! تمہیں کیا معلوم معرکہ خڑہ کیا چیز ہے۔ سنو! معرکہ خڑہ دردناک تکلیف دینے والی جنگ وہ عظیم سانحہ ہے جس کے بیان کی دل میں قوت نہیں اور کوئی کان اس کے سننے کی طاقت بھی نہیں رکھتا معرکہ خڑہ اس سانحہ عظیم کو حضرت حسن بصریؒ نے اس طرح بیان کیا کہ بخدا یزیدی فوج کی اس دردناک تکالیف دینے والی جنگ میں اکثر صحابہ شہید کئے گئے اور ہزار ہا کنواریوں کی عصمت دری کی گئی اور مدینہ کو لوٹا گیا۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

## یزید پر لعنت

رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ہے جس نے مدینہ والوں کو خوف زدہ کیا اللہ اس کو خوف زدہ رکھے گا۔ ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ (مسلم)

باشندگانِ مدینہ نے یزید کی بیعت اس لئے فسخ کی کہ یزید کے گناہ و جرائم حد سے تجاوز کر گئے تھے۔

علامہ واقدی نے کئی طریقوں سے عبداللہ بن حنظلہ غسیل کی زبانی لکھا ہے قسم بخدا ہم یزید پر چڑھائی نہ کرتے لیکن اس کے حالات اور مختلف جرائم کے سبب ہم خوفزدہ تھے کہ کہیں ہم پر آسمان سے پتھر کی بارش نہ ہو۔ یزید کے زمانے میں اس کے مقرب لوگ اپنی بیٹیوں اور بہنوں اور باپ کی بیویوں سے شادی کرنے لگے تھے یزید خود شراب نوشی کرتا اور تارکِ نماز تھا۔

علامہ ذہبی کا بیان ہے کہ یزید نے باشندگانِ مدینہ کے ساتھ جو سختیاں کیں وہ کیں لیکن اس کے باوجود وہ شراب خور اور ممنوعہ اعمال کا مرتکب تھا۔ اسی سبب سے لوگ اس سے ناراض ہوئے اور اس پر سب نے متفقہ طور پر چڑھائی ارادہ کیا۔ اللہ یزید کو عارت کرے اس نے فوج خڑہ مکہ معظمہ میں صرف حضرت ابن زبیر سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کی۔ اس

نوبت پر مقررہ سردار فوج مر گیا تو یزید نے دوسرا سردار فوج مقرر کیا جس نے مکہ میں گھس کر حضرت زبیر کا محاصرہ کیا اور ان کے قتل کے لئے منجنیق اور کرین کے ذریعہ خوب سنگباری کی اور اس طرح ماہ صفر ۶۴ھ میں آگ کے شعلوں سے خانہ کعبہ کا غلاف خاکستر کیا اور خانہ کعبہ کی چھت بھی جلا ڈالی اور مینڈھے کے وہ سینگ جو حضرت اسمعیلؑ ذیح اللہ کے فدیہ کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے وہ بھی جلا ڈالے۔

### ہلاکت یزید

۱۴-۱۵ ربیع الاول ۶۴ھ میں اللہ نے یزید کو ہلاک کیا اور اس کے مرنے کی خبر دم کے

دم میں عام ہو گئی۔





## ماہِ صفر

### ماہِ صفر میں نحوست اور بدفالی لینے کی متعدد احادیث اور جامع الاصول کی احادیث کا مفہوم

حضرت جابرؓ کا بیان ہے میں نے رسالت مآب ﷺ کو ارشاد فرماتے سنا ہے کہ ماہِ صفر میں بیماری، نحوست اور بھوت پریت وغیرہ کا کوئی نزول نہیں ہوتا۔ (مسلم)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا بیماری، نحوست اور شیطان وغیرہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہ سن کر ایک دیہاتی نے کہا ریت کے میدان کا وہ اونٹ جو ہرن کی طرح تیز ہے یہ خارشِ اونٹ دوسرے اونٹوں میں گھس کر ان میں خارش پیدا کر دیتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ ارشاد عالی ہوا یہ تو بتاؤ کہ پہلے والے اونٹ کو خارش کیسے ہوئی؟ (بخاری، مسلم اور ابوداؤد)

بخاری میں تحریر ہے کہ ماہِ صفر میں بیماری، بدشگونی، شیطانی گرفت اور نحوست کے اثرات کوئی چیز نہیں ہیں۔

مسلم میں لکھا ہے کہ بیماری، شیطانی گرفت، ستاروں کی گردش اور نحوست کا ماہِ صفر سے کوئی تعلق نہیں۔ اور مسلم کی دوسری حدیث میں ہے کہ بھوت پریت کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔

ابن عطیہ نے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا کہ بیماری، شیطانی گرفت اور نحوست دوسروں پر اثر انداز نہیں ہوتی اور یاد رہے کہ بیمار اونٹ کبھی تندرست اونٹوں میں نہ جانے پائے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ یہ کیوں؟ ارشاد عالی ہوا کہ بیمار اونٹ دوسروں کی تکلیف کا سبب بن جاتا ہے۔ (موطا از امام مالک)

جامع کبیر میں یہ حدیث درج ہے کہ بیماری، بدشگونی، شیطانی گرفت، نحوست کوئی چیز نہیں اور جذامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ (مسند از امام احمد و بخاری)

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور بتاؤ کہ پہلے والے کو خارش کیسے ہوئی؟ بیماری کی چھوت اور بدشگونی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس طرح کی زندگی، رزق اور مشکلات لکھ دی ہیں۔ (مسند از امام احمد و جامع از امام ترمذی)

حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ بیماری، شگون، شیطانی گرفت، نحوست، بھوت پریت کے اثرات کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ (امام احمد و مسلم)

حضرت جابرؓ کا بیان ہے کہ بیماری، نحوست اور شیطانی گرفت اثر انداز نہیں ہوتے۔

امام احمد، بیہقی اور ابو داؤد میں ابو ہریرہؓ کی زبانی بھی یہی حدیث مروی ہے۔

امام احمد و مسلم نے ساجب بن یزید سے روایت کی ہے کہ شگون، نحوست کسی شخص پر اثر انداز نہیں ہوتے۔ اور کسی بیمار کی بیماری کسی تندرست کو بیماری کا شکار نہیں بناتی۔ یہ حدیث قاضی محمد ابن عبدالباقی انصاری نے اپنی کتاب ”جزر من الحدیث“ میں اپنے شیوخ کے توسط سے لکھی ہے۔

حضرت علیؓ سے مروی ہے کہ شگون، تکلیف و ایذا، چھوت کسی پر اثر انداز نہیں ہوتے، نیز کوئی مہینہ کبھی ساٹھ دن کا نہیں ہوتا اور جو کوئی اللہ کی ذمہ داری کے قبول کرنے سے عہد شکنی کرے تو جنت کی خوشبو اسے ہرگز میسر نہ ہوگی۔ (معجم کبیر از طبرانی) اور یہ روایت ابن عساکر نے عبدالرحمن بن ابی عمیر مزنی کی زبانی بھی بیان کی ہے۔

طبرانی نے ابو املہ کے یہ الفاظ لکھے ہیں کہ بیماری، شگون، تکلیف و ایذا ہی کسی انسان کے قابو میں نہیں۔ اور دو مہینے کبھی تیس دن کے نہیں ہوتے۔ اور جس نے اللہ کی ذمہ داری قبول کرنے سے عہد شکنی کی تو اسے جنت کی خوشبو میسر نہ ہوگی۔ چھوت، بھوت پریت، شیطانی گرفت اور شگون کوئی حیثیت و قدر و قیمت نہیں رکھتے۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی موت، مشکلات و روزی خود تحریر کر دی ہے۔ (امام احمد و خطیب)

ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ چھوت، بدفالی، شیطانی گرفت اور شگون کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور بتاؤ پہلے شخص کو کس کی بیماری لگی؟ (امام احمد و ابن ماجہ)

طبرانی نے اپنی معجم کبیر میں حضرت ابن عباس کی زبانی تحریر کیا ہے کہ چھوت کی بیماری، بدفالی، شیطانی گرفت اور شگون کوئی حیثیت نہیں رکھتے، بیمار اونٹ کبھی تندرست اونٹوں میں نہ جانے پائے اور تندرست اونٹ جہاں چاہے آمد و رفت کرے۔ اس پر لوگوں نے کہا بیمار اونٹ کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ فرمایا اس لئے کہ اس سے تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

علامہ بیہقی نے حضرت ابو ہریرہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ چھوت شیطانی گرفت اور شگون کوئی چیز نہیں، البتہ جذامی سے اسی طرح خوف زدہ رہو جیسے شیر ببر سے ڈرتے ہو، چھوت، شیطانی گرفت، بھوت پریت اور شگون کوئی اثر انداز چیز نہیں۔ یہ روایت ابن جریر نے حضرت ابو ہریرہؓ کی زبانی تحریر کی ہے۔

ثعلبہ بن یزید حمانی نے حضرت علیؓ کی زبانی بیان کیا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے خود سنا ہے کہ شگون و شیطانی گرفت کوئی چیز نہیں اور کسی تندرست کو کسی بیمار کی بیماری نہیں لگتی۔ یہ سن کر میں (ثعلبہ) نے کہا اے علیؓ کیا یہ آپ نے رسول اللہ ﷺ سے اپنے کانوں سنا ہے۔ جواب دیا ہاں میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ (ابن جریر نے اس روایت کو بیان کر کے اس کی صحت تسلیم کی ہے)

### صفر کے معانی

احادیث تذکرہ بالا میں لفظ ”صفر“ کا استعمال کیا گیا جس کے تشریحی معنی اور مفہوم درج ذیل ہیں۔

ابن کثیر نے اپنی کتاب نہایہ میں لکھا ہے کہ اہل عرب کے نزدیک ”صفر“ کے معنی پیٹ کے اندر کے سانپ کے ہیں جو انسان کو بھوک کی حالت میں ڈستا اور ستاتا ہے اور مرض متعدی کہلاتا ہے، حالانکہ اسلام نے اسے باطل قرار دیا ہے۔

کرمانی نے شرح بخاری میں تحریر کیا ہے کہ لفظ صفر جس میں ص اور ف دونوں پر زبر ہے اس کے معنی پیٹ میں سانپ کے ہیں اور لوگوں کا گمان ہے کہ یہ خارش سے بھی زیادہ متعدی مرض ہے۔

طیبی کی شرح مشکوٰۃ میں ہے ”لوگوں کا گمان ہے کہ صفر سانپ ہے جو انسان کو بھوک لگنے پر کاٹتا ہے اور بھوک کے وقت بھوک کی جو تکلیف ہوتی ہے اس کے ڈسنے سے پیدا ہوتی ہے۔“

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشہور مہینہ ہے جو محرم اور ربیع الاول کے درمیان میں آتا ہے اور ان لوگوں کا گمان ہے کہ اس ماہ میں بکثرت مصیبتیں و آفتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ماہ صفر میں شریعت اسلامیہ نے نزول آفات کا انکار کیا ہے۔

نہایہ میں ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صفر سے مراد ”نسئ“ ہے یعنی ماہ محرم کے ایام کو بڑھا کر صفر کا مہینہ اس میں شامل کر لینا اور ماہ صفر کو ماہ محرم ٹھہرا کر اسے ایک معزز مہینہ بنا لینا۔



امام نووی نے شرح مسلم میں تحریر کیا ہے کہ صفر کے معنی پیٹ کے ان کیڑوں کے ہیں جو دو اب (کدو دانے) وغیرہ کی طرح بھوک کے وقت اچھلتے کودتے ہیں۔ اور بعض اوقات یہ کیڑے موت کا سبب بن جاتے ہیں۔

جمہور اس امر پر متفق ہیں کہ لفظ دو اب جس میں بغیر نقطہ والی دال اور آخر میں ایک نقطہ والی ب ہے یہی صحیح ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ لفظ ذوات ہے جس میں پہلا حرف ایک نقطہ والی ذال اور آخری حرف دو نقطہ والی ت ہے۔ لیکن لفظ دو اب ہی چند وجوہ سے صحیح ہے۔

نہا یہ میں یہ بھی تحریر ہے کہ اللہ کی راہ میں بھوکے رہنے کے سبب زرد رو ہو جانا سرخ اونٹوں کے حاصل ہونے سے زیادہ بہتر ہے نیز صفر ان کیڑوں کو بھی کہتے ہیں جو جگر اور پسیلیوں کے سرے میں پیدا ہو جاتے ہیں جن سے انسان کا رنگ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے اور بسا اوقات یہ مرض انسانی موت کا سبب بن جاتا ہے۔

قاضی عیاض نے اپنی کتاب ”مشارق الانوار“ میں لکھا ہے کہ صفر سے مراد مشہور مہینہ ہے جسے لوگ ایام جاہلیت میں اتنا بڑھاتے اور طول دیتے کہ ماہ محرم کو بھی اس میں شامل کر لیتے اور محرم کی مانند اس کی عظمت کرتے تھے۔

امام مالک نے تحریر کیا ہے کہ بعض لوگوں کے نزدیک صفر سے مراد پیٹ کے وہ کیڑے ہیں جو سانپ کی طرح ہوتے ہیں اور بھوک کے وقت انسان کے پیٹ میں کاٹتے رہتے اور حد سے تجاوز کرتے رہتے ہیں۔ اور حد سے تجاوز کرنے کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے۔

ابوداؤد نے اپنی جامع الاصول میں بقیہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے محمد بن راشد سے ہامہ کے معنی پوچھے تو انہوں نے کہا زمانہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے تھے کہ مردے کو قبر میں دفن کرنے کے بعد اس میں سے ہامہ نکلتا ہے اور زمانہ جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو منحوس تصور کرتے اور اس سے براشگون لیتے تھے اور رسول اکرم نے فرمایا ماہ صفر سے براشگون نہ لو۔ نیز میں نے ایک شخص کو کہتے سنا ہے کہ صفر کے معنی اس درد شکم کے ہیں جو بعض کے نزدیک مرض متعدی ہے۔

۱۔ اسی لفظ دو اب ترجمہ من مترجم اقبال الدین احمد نے کدو دانے کیا ہے ۱۲ ۲۔ اس مرض کو طبی اصطلاح میں یرقان کہتے ہیں۔ از مترجم ۱۲ ۳۔ سانپ کی مانند پیٹ میں کیڑوں کو طبی اصطلاح میں کچھوے کہتے ہیں۔ از مترجم ۱۲

امام مالک کا بیان ہے کہ ایام جاہلیت میں لوگ ماہ صفر کو ایک سال حلال اور ایک سال حرام ٹھہراتے تھے۔ اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا لاَصْفَرَ (بدشگونی نہ لو) تفصیل کے لئے دیکھئے شرح غریب الطاء اور بیان حدیث و تفسیر۔

علاوہ ازیں جاہل عربوں کا گمان ہے کہ صفر پیٹ میں اس سانپ کا نام ہے جو بھوک کے وقت کاٹا رہتا ہے اور حد سے تجاوز کر جاتا ہے اور درحقیقت اسلام نے اسے باطل قرار دیا ہے۔

بندہ کمزور (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کے حالات اللہ تعالیٰ درست کرے اور اگر انباریوں کو دور کرے عرض کرتا ہے کہ صفر کا مفہوم واضح کرنے کے لئے مختلف اقوال ہیں جن کا خلاصہ حسب ذیل تین مطالب پر مشتمل ہے۔ اول یہ کہ صفر سے مراد مشہور ماہ صفر ہے دوم یہ کہ اس سے مفہوم پیٹ کے کیڑے ہیں اور تیسرے یہ کہ اس سے مراد نسیمی ہے یعنی اشہر حرم میں سے مہینہ کی عظمت کو طول دے کر اس میں دوسرا ماہ شریک کر لیا جائے۔۔۔

اور بدشگونی لینے کے تحت اس کو بدفالی قرار دیا گیا ہے جو پہلے مرادی معنی کی تائید کرتا ہے۔ سوم یہ کہ متعدی امراض کے ساتھ اس لفظ صفر کے مرادی معنی درد شکم ہوتے ہیں اور حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے کہ صفر کے مرادی معنی رسول اکرم ﷺ کے نزدیک کیا تھے۔

اب جبکہ صفر کے مرادی معنی ہم نے بیان کر دیئے تو ضروری ہے کہ مذکورہ بالا احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان کی بھی تشریح کر دیں۔

### عَدْوِي (چھوت)

جب کسی بیماری کے ہم نشین اور پاس والے یا اس کے ساتھ خورد و نوش کرنے والے کو بیماری لگ جائے تو ایسے بیمار ہونے والے بیمار کو عدوی مرض متعدی اور چھوت کی بیماری کہتے ہیں۔ اور اس عقیدہ کو اسلام نے باطل قرار دیا ہے اور جامع الاصول میں بھی یہی تحریر ہے۔

### طَيْرَة (شگون)

جامع الاصول کی شرح میں خود مصنف کتاب نے لکھا ہے کہ ناکارہ فاعل اور فال کے ذریعہ بدشگونی لینے کو طیرہ کہتے ہیں۔ یہ لفظ طیرہ سے مشتق ہے اور عرب زمانہ جاہلیت میں کوئے، شکرے اور دوسرے پرندے سے فال لیا کرتے تھے۔ اور انہیں منحوس جان کر سمجھتے تھے

کہ یہ بھلے اور خیر کی ضد ہیں۔ چنانچہ اسلام نے اس بدشگونی کی ممانعت کرتے ہوئے لَا طَّيْرَةَ کہا ہے۔ طَّيْر اور تخیر کی مانند یہ لفظ طیرہ بھی مصدر سے ہے۔ اور اس وزن پُر مذکورہ بالا دو ہی مصدر آتے ہیں۔

## الْفَال (فال)

یہ کبھی الف لام کے ساتھ اور کبھی بغیر الف لام کے صرف فال لکھا جاتا ہے۔ فال مثال کے طور پر اس طرح لی جاتی ہے کہ کوئی بیمار جب کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ اوتندرست یا کوئی متلاشی اپنے متعلق کسی کو کہتا ہے کہ اے پانے والے۔ تو اس سننے والے کو گمان ہو جاتا ہے کہ بیماری سے شفاء ہو جائے گی اور گم شدہ چیز مجھے حاصل ہو جائے گی۔ اس قسم کا فال درست ہے جس کی آئندہ صفحات میں تحقیق و تفصیل کی گئی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عدویٰ دراصل اعداء کا اسم مشتق ہے جیسے بقویٰ جو ابقاء کا اسم مشتق ہے۔

اعداء الداء کے معنی ہیں کہ اس کو وہی مرض لگ گیا جو اس کے ہم نشین کو تھا۔ جیسے خارش اونٹ کو دوسرے اونٹوں سے ملنے چلنے نہیں دیتے تا کہ دوسروں کو بھی خارش نہ ہو جائے اسے اسلام نے باطل قرار دیا اور رسالت مآب ﷺ نے فرمایا ہے کہ اللہ ہی بیماری میں مبتلا کرتا بلا نازل کرتا ہے اور دو بتاتا ہے۔

اسی لئے تو رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ پہلے کو بیماری کہاں سے لگی؟ یعنی پہلے اونٹ کو خارش میں کس نے مبتلا کیا؟

تو ریشتی نے اپنی شرح مصابیح میں لکھا ہے کہ العدویٰ کے معنی اس عادت و علالت کے ہیں جو دوسروں کو لگ جاتی ہے۔ اور اس چھوت کی بیماری کے اطباء نے حسب ذیل سات امراض بیان کئے ہیں۔

- (۱) کوڑھ۔ (۲) خارش۔ (۳) چیچک۔ (۴) حصہ یعنی گندہ خسر۔ (۵) گندہ ذنی اور پائیریا۔ (۶) آشوب چشم۔ اور (۷) وبائی امراض۔

قاضی عیاض نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھا ہے العدویٰ کے معنی ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ اعتقاد کہ ایک مریض کا مرض اس کے ہم نشین یا کسی صحت مند کو لگ جاتا ہے، اور شریعت اسلامیہ نے اس کی نفی کی ہے اور رسالت مآب ﷺ کا لا عدویٰ فرمانا اس

امر کا ثبوت ہے کہ کوئی مسلمان، چھوت کی بیماریوں کا اعتقاد نہ رکھے یا پھر لاعدویٰ کے حکم سے رسالت مآب ﷺ کا منشا یہ ہے کہ چھوت کا اعتقاد رکھنا درحقیقت کوئی حقیقت و حیثیت نہیں رکھتا۔ جیسا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ کسی کی کوئی چیز دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد کہ پہلے کو بیماری کہاں سے لگی؟ یہ ارشاد بھی چھوت کے وجود کی نفی کرتا ہے۔

غرضیکہ مندرجہ بالا دونوں مفہوم کہ چھوت کا اعتقاد نہ رکھو اور چھوت حقیقتاً کوئی چیز نہیں یہ شریعت اسلامیہ کے لحاظ سے بالکل درست ہیں یعنی اسلام میں چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

### الہام (بدشگونی)

لفظ ہام جمع ہے ہامۃ کی قدیم عربوں کے نزدیک ہامۃ وہ پرندہ ہے جس کے ذریعہ مردہ کی ہڈیاں ہوا ہو جاتی ہیں۔

دورِ جہالت میں عربوں کا مقولہ تھا کہ مقتول کی روح ہامۃ کے سر سے نکلتی ہے اور یہ ہامۃ پرندہ ہمیشہ مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ کی رٹ لگائے رہتا ہے تا آنکہ مقتول کو اس کا قاتل ختم کر دے۔

نہایت میں لکھا کہ ہامۃ کے معنی سر اور پرند کے ہیں اور حدیث میں پرند مراد ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ جاہل عرب اس لفظ ہامۃ سے جو رات کا ایک پرند ہے۔ نحوست کی بدشگونی لیتے تھے۔ اور بعض کے نزدیک یہ آٹو ہے بعض عربوں کا گمان تھا مقتول جس کا بدلہ نہ لیا جائے اس کی روح اڑتی پھرتی اور کہتی رہتی ہے مجھے پلاؤ مجھے پلاؤ، مگر جب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے تو پھر یہ پرند بہت دور اڑ جاتا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ہامۃ کے معنی مردہ کی ہڈیاں یا پرند نما روح ہے جس سے بدشگونی لی جاتی ہے۔ اور اسی کو صدیٰ بھی کہتے ہیں۔

ان تمام لغویات کی اسلام نے نفی کی ہے اور مسلمانوں کو اس قسم کے اعتقاد رکھنے کی ممانعت کی ہے۔

طیبی نے لکھا ہے کہ ہامۃ ایک منخوس کا نام ہے۔ نیز جاہل عرب گمان کرتے تھے کہ مردے کی ہڈیاں جب پوشیدہ ہو جاتی ہیں تو وہ ہامۃ بن کر قبر سے نکل جاتی ہیں اور

ادھر ادھر گھومتی اپنے گھر والوں کی خبریں لیتی پھرتی ہیں اس اعتقاد کو بھی رسول اکرام ﷺ نے باطل قرار دیا ہے۔

بعض کا اعتقاد ہے کہ ہامۃ وہ آٹو ہے جو کسی کے گھر پر بیٹھ جاتا ہے اپنے دیکھنے والے یا اس کے گھر والوں میں سے کسی کی موت پر یہ روتا ہے، اور یہ عقیدہ بھی از روئے اسلام بالکل باطل ہے۔

ہامۃ کو بعض مشدو پڑھتے ہیں اور عام طور پر اس کی میم پر صرف زیر مشہور ہے۔

قاضی عیاض کا بیان ہے کہ ہامۃ وہ پرند ہے جو مردوں اور قبروں سے الفت کرتا ہے اس کا نام صدی بھی ہے جو رات کو اڑتا ہے اور یہ آٹو نہیں بلکہ اس جیسا ایک پرند ہے۔ جاہل عربوں کا گمان تھا کہ مقتول کا جب تک بدلہ نہ لیا جائے اس کے سر کے اوپری حصہ سے ایک پرند نکلتا ہے اور قاتل کے قتل ہونے تک وہ برابر پکارتا رہتا ہے مجھے پانی پلاؤ مجھے پانی پلاؤ۔ میں پیسا ہوں۔ اس گمان و خیال کے مد نظر زمانہ جاہلیت کے عربوں کے بے شمار اشعار موجود ہیں۔ بعض کا بیان ہے کہ مقتول کے سر سے ایک کیڑا نکلتا ہے جو پرند کی صورت بن کر خون بہا لینے کی صدا کہتا پھرتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ نے ہامۃ کے اعتقاد کو باطل قرار دے کر ایسے اعتقاد رکھنے کی ممانعت فرمائی ہے اور اکثر علماء کی بھی یہی رائے ہے کہ ہامۃ یعنی بدشگونی و شیطانی گرفت کا اعتقاد بالکل باطل پرستی ہے۔ یہی رائے یحییٰ حرابی اور ابو عبیدہ کی بھی ہے۔

امام مالک نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ لفظ ہامۃ سے میں پرند ہی مراد لیتا ہوں۔ قاضی عیاض نے یہ بھی لکھا ہے کہ لفظ ہامۃ سے بدشگونی کے معنی بھی لئے جاسکتے ہیں کیونکہ دور جاہلیت کے عرب ہامۃ پرند سے بدشگونی مراد لیتے تھے اور بعض لوگ اس سے شگون نکالتے تھے۔ جیسے شمر بن حمدویہ جو ہامۃ سے نیک فال اور شگون لینے والوں کے زمرہ کے مرد میدان تھے۔

ابن اعرابی نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ دور جاہلیت کے عربوں کا گمان تھا کہ مردوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہو کر ہامۃ کی صورت ہو ا ہو جاتی ہیں اور اس کو صدی کہتے ہیں۔

## غول (شیطانی گرفت)

شرح جامع الاصول میں غول کے معنی لکھتے ہیں کہ یہ وہ جانور ہے جس کی بابت جاہل عربوں کا گمان تھا کہ وہ بعض اوقات مختلف طریقوں سے لوگوں کے سامنے آتا اور اچانک آ کر دبا لیتا ہے اور یہ غول از قسم شیاطین ہے اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ”لاغول“ نفس شیطان کے وجود کا انکار نہیں بلکہ عربوں کے اس گمان کی نفی ہے کہ وہ مختلف صورتیں اختیار کرتا اور اپنی شیطانی گرفت کا حامل ہے یعنی رسول اکرم ﷺ کا منشا و حکم یہ ہے کہ ”شیطانی گرفت“ کوئی حقیقت نہیں ہے اور شیطانی گرفت کا کوئی مسلمان اعتقاد نہ رکھے۔

نہایت میں درج ہے کہ غول کی جمع غیلان ہے اور غول دراصل شیطان و جنات کی ایک قسم ہے جاہل عربوں کا گمان تھا کہ ”غول“ لوگوں کو جنگل میں دکھائی دیتا اور مختلف صورتیں اختیار کر کے لوگوں کو ان کے راستہ سے بھٹکاتا اور انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ اس گمان اور خیال باطل کی رسول اکرم ﷺ نے نفی فرمائی اور اسے باطل قرار دیا ہے۔ اور رسول اکرم ﷺ کا ارشاد ”لاغول“ سے نفس غول جنات و شیاطین کے وجود کا انکار نہیں بلکہ اس کے مختلف صورتیں اختیار کرنے اور بے ارادہ کرنے کے غلط خیال کی نفی کرتے ہوئے آپ ﷺ نے صاف فرمایا ہے کہ ”غول“ کسی کو بے ارادہ نہیں کر سکتے جس کے ثبوت میں آپ ﷺ کا ارشاد ”لاغول“ ہمارے اس بیان کی تائید کرتا ہے البتہ سعالی (جنات میں سے جادوگر جن) موجود ہیں جو تخیلات اور پوشیدہ مکروعیوب کا بھیس بدلتے ہیں۔ جیسی کہ یہ حدیث ہے کہ جب غول بیابانی پریشان کریں اور مختلف صورتیں ظاہر کریں تو ان کی شرارتوں کو دور کرنے کے لئے فوراً ہی اذن دینا شروع کر دو تک وہ بھاگ جائیں یعنی ذکر الہی کے ذریعہ شر و فساد کو دور کرو۔

اس حدیث سے ثابت ہے کہ ”غول“ موجود ہیں اور ان کو فہ کرنے کا رسول اکرم ﷺ نے حکم صادر فرمایا ہے۔

علامہ بغوی کا بیان ہے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شیطان و جنات کسی کو راہ سے بے راہ کرنے یا مار ڈالنے کا کوئی اختیار و اقتدار نہیں رکھتے۔ اور جو کچھ ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ”غیلان“ جنات میں سے وہ جادوگر ہیں جو لوگوں کو فتنہ و فساد میں مبتلا کرتے اور بے راہ بتاتے ہیں۔

مفتاح شرح مصباح میں تحریر ہے کہ غول (غین کے زبر سے) مصدر ہے جس کے معنی ہلاکت میں ڈالنا اور غول (غین کے پیش سے) اسم ہے جاہل عربوں کا گمان تھا کہ غول آدمیوں کو نظر آتے ہیں۔ اسی لئے شریعت اسلامیہ نے ان کی نفی کر دی ہے۔

اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی تشریف آوری کے سبب سے ”غول“ بھوت پریت جنات و شیاطین وغیرہ کی قسم کی مخلوق اسی طرح دور ہو گئی جیسے آسمان سے شیاطین کا باتیں اچک لینا بند کر دیا گیا ہے۔

طیبی کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ کی حدیث غول و شیاطین کے پنچہ میں آنے سے ”اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں“ کا مفہوم یہ ہے کہ غول و ہلاکت غیر سے جو محسوس نہیں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔

ان احادیث و بیانات کے پیش نظر میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کہتا ہوں کہ حدیث غول کی تائید اس روایت سے بھی ہے ”اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں قبل اس کے غول کے پنچہ میں نیچے کی جانب سے گرفتار ہوں“ یعنی غول کے پنچہ میں اس طرح پھنس جاؤں کہ مجھے معلوم تک نہ ہو۔ یعنی زمین میں دھنسا دیا جاؤں۔ اور یہی مفہوم نہا یہ میں بھی مرقوم ہے۔

قاضی عیاض نے مشارق الانوار میں حدیث کے الفاظ لا غول (غین پر پیش) کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ غول وہ جادوگر جنات ہیں جو مختلف صورتیں اختیار کرتے ہیں اور عربوں کی کہات بھی یہی ہے کہ غیلان (جادوگر جنات) مختلف صورتیں بدلتے ہیں لوگوں کو راہ سے بے راہ کرتے اور ہلاک کرتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب نے ان تمام حالات و کوائف کو باطل قرار دیا ہے۔

### النَّوَّءُ (ستاروں کے اثرات)

شرح جامع الاصول میں مرقوم ہے کہ نوء کی جمع انواء ہے اور یہ ستاروں کی وہ (۲۸) منزلیں ہیں جن میں سے تیرہویں رات کو طلوع فجر و صبح صادق کے وقت ان کی ایک منزل ختم ہوتی اور دوسری منزل کا سمت مقابل سے آغاز ہوتا ہے۔ اور ستاروں کی یہ اٹھائیس منزلیں ایک سال میں اپنی گردش پوری کرتی ہیں۔

جاہل عربوں کا گمان تھا کہ ستاروں کی ایک منزل کے ختم اور دوسری کے آغاز پر بارش ہوتی ہے۔ یعنی جاہل عرب، بارش کی منزل کی جانب منسوب کرتے اور کہتے تھے کہ فلاں منزل کی وجہ سے ہم پر بارش ہوئی اور اسی تخیل کی وجہ سے اس کو انوء کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ ستاروں کی ایک منزل جب مغرب میں غروب ہوتی ہے تو اسی لمحہ دوسری منزل مشرق سے طلوع ہوتی ہے اسی زاویہ نگاہ کو عرب ان الفاظ میں ظاہر کرتے ہیں کہ یہ طلوع و غروب کی منزل ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ نوء کے معنی غروب کے ہیں اور یہ لغات اضداد میں سے ہے۔ حضرت ابو عبیدہ کا بیان ہے کہ نوء کے معنی غروب کے صرف سیارگان کی گردش کے بارے ہی میں سنے گئے ہیں۔ اور رسول اکرم ﷺ نے اس ناکارہ جاہلی تخیل کی اس لئے شدت سے تردید فرمائی کہ جاہل عرب بارش کو سیاروں کی گردش سے منسوب کرتے تھے۔

اندرین حالات جس کا یہ عقیدہ ہو کہ بارش صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے اور لفظ نوء سے وقت مراد لے اور کہے کہ یہ فلاں وقت کی بارش ہے تو ایسا خیال کرنا جائز و درست ہے۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے نماز استسقیٰ پڑھنا چاہی اور حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلبؓ کو بلوا کر دریافت کیا ثریا ستارہ کے نوء میں کتنی مدت باقی ہے؟ انہوں نے فرمایا موسیٰ اوقات جاننے والے ماہروں کا گمان ہے کہ ثریا اپنے نزول کے بعد ساتویں منزل میں ہے اس کے بعد یہ سال ختم نہ ہوا تھا کہ بارش ہوئی۔ حضرت عمر فاروقؓ کا یہ استفسار کہ ثریا کے نوء میں کتنی مدت باقی ہے اس سے آپ کا مطلب یہ تھا کہ حسب رواج قدیم بارش ہونے کے وقت میں کتنی مدت باقی ہے؟ جس میں اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے۔

نہایت میں مرقوم ہے کہ امور جاہلیت میں سے ایک نوء بھی ہے اور یہ نوء نام ہے چاند کی اٹھائیس منزلوں کا۔ اور ماہتاب ہر شب ایک منزل طے کرتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ہے وَالْقَمَرَ قَدْ رَناهُ مَنَازِلَ (ہم نے چاند کے لئے منزلیں مقرر کر دیں ہیں) اس کے بعد نہایت میں شرح جامع الاصول کی مانند باقی تحریر ہے البتہ حضرت ابو عبیدہ کا بیان تحریر نہیں کیا گیا ہے۔

۱ لغات اضداد ان الفاظ کو کہتے ہیں جن کے معنی باہم مختلف ہوں جیسے مشابہہ اور غیر مشابہہ۔



کرمانی نے شرح بخاری میں لفظ نوء کے تحت لکھا ہے جاہل عربوں کا گمان تھا کہ سیارگان کے طلوع و غروب کے سبب سے بارش ہوتی ہے۔ البتہ جو لوگ نوء کے معنی وقت لیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ ہر ایک وقت لوگوں کے کسی نہ کسی فوائد کے نام سے موسوم ہے اس کے بعد جامع الاصول کی مانند حضرت عمر فاروقؓ کا قصہ نماز استسقی تحریر کیا ہے۔

قاضی ابن عربی کا بیان ہے کہ جو کوئی سیارگان کی گردش کے اثر سے بارش ہونے کا اس طرح یقین کرے کہ ستاروں کی گردش ہی پانی برساتی ہے یا پانی برسانے میں اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کرے تو ایسا شخص کافر ہے کیونکہ ہر کام کی تخلیق صرف اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اور جو کوئی نوء کے معنی سے رواج و دستور مراد لے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

علامہ نووی کا بیان ہے کہ بارش ہونے کو رواج و دستور قرار دینے کا عقیدہ رکھنا بھی مکروہ ہے کیونکہ یہ بھی کفر کی علامت ہے اور اس سے کفر پیدا ہو سکتا ہے۔  
طیبی کا بیان ہے کہ بارش ہونے کو رواج قرار دینے کا عقیدہ دراصل مکروہ تنزیہی ہے۔

قاضی عیاض کا بیان ہے کہ گردش سیارگان سے بارش ہونے کی گفتگو دراصل غیر مسلموں کا سزہ ہے۔

سیارگان کی اٹھائیس منازل کے منجملہ کسی ایک منزل میں ستاروں کے غروب کو جاہل نوء کہتے ہیں۔ اور اس کی صورت ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت مغربی ستارہ غروب ہوتا ہے اسی وقت مشرقی ستارہ طلوع ہوتا ہے اور اسی وقت بارش ہوتی ہے یا سخت آندھی آتی ہے بارش و آندھی کو بعض لوگ طلوع ہونے والے سیارے اور بعض لوگ غروب ہونے والے سیارہ کا اثر بتاتے ہیں۔

جس کی رسول اکرم ﷺ نے نفی فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ یہ غلط و باطل عقیدہ نہ رکھیں۔

قاضی ابن عربی نے سیارگان کے گردش اثرات سے بارش ہونے کے معتقد کو کافر کہا ہے لیکن اس میں علماء کا یہ اختلاف ہے کہ جو لوگ سیارگان کو قائل کہتے ہیں وہ تو کافر ہیں اور جو لوگ گردش سیارگان سے رواج و عادت مراد لے کر بارش ہونے کا اعتقاد رکھتے

مومن کے ماہ و سال بہت باسنہ ایام السنہ  
ہیں یہ تمام لوگ علماء کے نزدیک مکروہ عقیدہ رکھتے ہیں، اس کی بھی رسول اکرم ﷺ نے  
ممانعت فرمائی ہے۔

بعض علماء کا بیان ہے کہ کفر سے مراد کفرانِ نعمت ہے جس کو ہم نے اپنی ایک دوسری  
کتاب میں تفصیل سے لکھا ہے۔

شگون اور چھوت لوگوں کی زبان زد ہے، لوگ عملی و اعتقادی حیثیت سے اس میں  
بتلا ہیں اور احادیث بھی اس بارے میں وارد ہیں اس لئے ان دونوں کو ہم علیحدہ علیحدہ  
بیان کرتے ہیں۔

### شگون

طیبی کا بیان ہے کہ لفظ طیرۃ حرف طاء کے زیر اور حرف یا کے زبر یا سکون کے ساتھ  
مستعمل ہے اس کے معنی ہیں کسی چیز کو منحوس سمجھنا۔

حیرۃ اور تحیر کی مانند طیرہ و تطیر مصدر ہے۔ اور ان دونوں کے علاوہ کوئی اور لفظ اس وزن پر  
مصدر کی طرح استعمال نہیں ہوتا۔ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شکاری کے ہاتھ میں شکار آجانے کے  
لئے پرندوں اور ہرن وغیرہ کے ذریعہ شگون لیتے ہیں اور اپنے اعتقاد کے موافق اپنے کام سے رُک  
جاتے ہیں اسی لئے شریعتِ اسلامیہ نے اس کی نفی کرتے ہوئے شگون لینے کو ہر باطل قرار دیا ہے  
اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ نفع یا نقصان دینے کی شگون میں کوئی تاثیر نہیں ہے۔

### فال

لفظ فال اچھے اور بُرے دونوں نتیجوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور شگون صرف  
بدشگونی کے لئے مستعمل ہے۔ گاہے اچھے شگون کے لئے بھی بولا جاتا ہے۔ یہ تمام لغوی معنی  
ہیں۔ رہا شریعت کے مد نظر لفظ فال کا استعمال مطلق طور پر اچھائی کے لئے اور شگون کا بُرے  
کام کے لئے ہوتا ہے۔ اور مقید طور پر فال ہمیشہ بُرے کام کے لئے زبان پر لایا جاتا ہے جیسا  
کہ کہا جاتا ہے۔ بری فال، مکروہ فال وغیرہ۔

طیبی نے لکھا ہے کہ فال اور شگون میں فرق اس روایت سے بخوبی واضح ہو جاتا ہے  
جیسا کہ حضرت انسؓ نے رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا ہے چھوت اور شگون کوئی چیز  
نہیں البتہ فال پسندیدہ نظر ہے۔ صحابہؓ نے دریافت کیا یا رسول اللہ ﷺ فال کسے کہتے ہیں  
فرمایا وہ اچھی بات ہے۔

کرمانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے اصل بات یہ ہے کہ جاہل عرب اپنے دستور کے موافق پرند اور ہرن آزاد کرتے تھے جب یہ دائیں جانب جاتے تو اسے بابرکت تصور کرتے اور اگر بائیں جانب روانہ ہوتے تو اسے منحوس سمجھتے۔

امام نووی نے شرح مسلم میں تحریر کیا ہے کہ پرندوں وغیرہ کے ذریعہ نحوست و برکت کا اعتقاد اصل شرک ہے۔ اور قاعدہ و ضابطہ یہ ہے کہ جس چیز سے کوئی نقصان نہ ہو اور حسب عادت فائدہ بھی نہ ہو تو وہ کام عام و خاص دونوں حیثیت سے ممنوع ہے اور اسی کو شگون کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر وہ خبر جو عام طور پر نقصان رساں ہو اور دوامی نہیں بلکہ کبھی کبھی واقع ہوتی ہو جیسے وبائیں وغیرہ تو احکام یہ ہیں کہ مقام و بائیں کوئی داخل نہ ہو اور مقام و بائیں کوئی باہر بھی نہ جائے۔

اور ہر وہ چیز جو عام نہ ہو بلکہ خاص طور پر نقصان رساں تصور ہو جیسے مکان، گھوڑا اور عورت تو ان سے گریز کرنا مباح ہے۔

نہایہ میں ہے کہ لفظ فال اچھے اور بُرے دونوں نتیجوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور شگون اکثر طور پر برائی کے لئے استعمال ہوتا ہے الا یہ کہ گاہے اچھائی کے لئے بھی شگون بولا جاتا ہے۔

بعض لوگ الفال کہنے کے بجائے صرف فال کہنے کے زیادہ شوقین ہو گئے ہیں علاوہ ازیں رسالت مآب ﷺ نے فال کو اس لئے پسندیدہ نظر فرمایا کہ عوام جب اللہ تعالیٰ سے کسی فائدہ کی امید لگاتے ہیں عام اس سے کہ اس کے اسباب قوی ہوں یا ضعیف، اور اگرچہ وہ غلط امیدیں باندھیں۔ لیکن ایسے لوگ راہ راست پر ہیں کیونکہ پُر توقع رہنا ان کی ذات کے لئے بہتر ہے۔ اور جب لوگ اپنی ڈھارس اللہ تعالیٰ سے نہ رکھیں تو ان کا یہ فعل شرارت پسندی پر مبنی ہے۔

رہا شگون کا مسئلہ تو اس میں اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہو کر آنے والی مصیبت کے وقوع کا یقین ہوتا ہے۔ اور ایسے تخیل و عمل کو عقلمند مذموم کہتے اور شریعت اسلامیہ ممنوع قرار دیتی ہے۔ اور تفاؤل فال لانے کی مثال یہ ہے کہ کوئی مریض یا کسی گم شدہ چیز کا متلاشی ”اے تندرست یا اے پا جانے والے“ کے الفاظ سن کر یہ گمان کرے کہ میں اچھا ہو جاؤں گا یا میری چیز مل جائے گی۔

تو میرے (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) نزدیک اس کا وہی منشا ہے جو حدیث شریف کے الفاظ کلمہ طیبہ (نیک گمان) کا مفہوم ہے۔

نہایہ میں تحریر ہے کہ لفظ طیرہ (شگون) عام ہے اور فال خاص ہے جیسا کہ مقولہ ہے کہ شگون کی بہ نسبت فال اچھی چیز ہے۔ اور اس کی بابت میری (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) ذاتی رائے یہ ہے کہ شگون اور فال تقریباً ایک ہی قسم کی چیزیں ہیں اور لغت میں لفظ طیرہ (شگون) بغیر کسی شک و شبہ کے ”نہایت ہی مذموم“ کے معنی میں آتا ہے اور فال کی عمومیت مسلم قرار دی گئی ہے۔ قاموس میں تحریر ہے کہ طیرہ (شگون) وہ بُری فال ہے جسے عام طور پر منحوس قرار دیا گیا ہے۔

اب جب کہ شگون اور فال کے معنی و مفہوم سمجھ لئے گئے ہیں تو ان کے متعلق سے جو احادیث وارد ہیں انہیں ہم بیان کریں گے۔

### شگون اور فال کی احادیث

جاننا چاہئے کہ جس حدیث میں شگون اور فال دونوں کا تذکرہ ہے اسے صرف ایک مرتبہ بیان کریں گے جیسا کہ ماہِ صفر کے عنوان کے تحت ہم نے لکھا ہے البتہ بشرطِ ضرورتِ شدید اثناء بیان میں دو مرتبہ بھی مرقوم ہوں گے۔

### احادیث جامع الاصول

بریدہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کسی چیز سے بدشگونی نہیں لیتے تھے۔ اور کسی عامل (گورنر) کو روانہ کرتے وقت اس کا نام دریافت فرماتے۔ اگر اس کا نام اچھا ہوتا تو آپ ﷺ کے چہرہ اقدس پر مسرت ظاہر ہوتی۔ اور اگر اس کے نام کے الفاظ اچھے نہ ہوتے تو چہرہ انور پر نا پسندیدگی کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ (ابوداؤد)

انسؓ کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ جب کسی ضرورت سے باہر نکلتے اور کسی کو اے نیکو کار یا اے کامیاب کہتے سنتے تو اظہارِ مسرت فرماتے۔ (ترمذی)

عروہ بن عامر قرشی کا بیان ہے کہ دربارِ رسالت مآب ﷺ میں شگون کا تذکرہ کیا گیا، ارشادِ عالی ہوا اس سے فال بہتر ہے۔ اور کوئی مسلمان کسی شگون کے چکر میں نہ پھنسے اور فال نکالنے کے بھی درپے نہ ہو۔ اے مسلمانو! اگر تم میں سے کوئی کسی پسندیدہ بات کو دیکھے تو دعا کرے۔ اے اللہ خیر و خوبی اور بھلائی تیرے ہی حکم سے ملتی ہے اور ہر

مومن لے ماہ و سال

ماہیت بالسنہ فی ایام السنہ

قسم کی برائی کو تو ہی دور کرتا ہے۔ اور اے اللہ ہر قسم کی قوت و طاقت صرف تیری ہی ذات میں ہے۔ (ابوداؤد)

### شگون

ابن مسعودؓ نے رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد بیان کیا شگون لینا شرک ہے اگرچہ اکثر لوگ شگون لیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت کے سبب شگون و بد شگون کے متخلفہ اثرات دور کر دیتا ہے۔

ترمذی نے لکھا ہے میں نے محمد بن اسمعیل کی زبانی خود سنا ہے کہ انہوں نے سلیمان بن حرب کو بیان کرتے سنا ہے کہ شگون و بد شگونی کے اثرات کو اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے دور کر دیتا ہے۔ یہ حدیث دراصل میرے نزدیک عبد اللہ ابن مسعودؓ کا قول ہے۔

### فال

انسؓ کا بیان ہے رسالت مآب ﷺ نے ارشاد فرمایا مرض متعدی اور شگون کوئی حقیقت نہیں رکھتے البتہ ان کی بہ نسبت فال پسندیدہ نظر ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ فال کیا ہے؟ ارشاد فرمایا وہ کلمہ خیر ہے۔ (بخاری و مسلم)

نیز بخاری میں اس طرح مرقوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے نیک فال پسند ہے جو اچھی بات ہو۔

مسلم میں بھی یہی تحریر ہے کہ فال، ایک کلمہ خیر ہے۔ اور ابوداؤد نے بخاری کی طرح یہ روایت لکھی ہے۔

ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مرض متعدی و بد شگونی کوئی چیز نہیں۔ البتہ گھوڑا، عورت اور گھر میں نحوست ہو سکتی ہے۔

ایک روایت ہے کہ صحابہؓ نے دربار رسالت مآب ﷺ میں نحوست کا تذکرہ کیا تو ارشاد عالی ہوا اگر نحوست ہو سکتی تو گھوڑے عورت اور گھر میں نحوست ہو سکتی۔ (بخاری)

مسلم میں تحریر ہے کہ عورت، گھوڑا اور مقام سکونت میں نحوست ممکن ہو سکتی ہے۔

موطأ، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی میں پہلی روایت مذکور ہے اور مرض متعدی و شگون کا

تذکرہ نہیں ہے۔

سہل بن سعد نے رسالت مآب ﷺ کا ارشاد بیان کیا کہ نحوست اگر کسی چیز میں ممکن ہو سکتی تو گھوڑے، عورت اور مقام سکونت میں ممکن تھی۔ (بخاری، مسلم و موطاء)  
گھوڑے، خادم اور اقامت گاہ میں نحوست ہو سکتی ہے۔ (مسلم و نسائی)۔

### نحوست

حکیم بن معاویہ کا بیان ہے کہ رسالت مآب ﷺ کو فرماتے میں نے سنا ہے نحوست کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ البتہ گھر، عورت اور گھوڑے سے برکت ہوتی ہے۔ (ترمذی)  
ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو فرماتے میں نے سنا ہے شگون کوئی چیز نہیں البتہ اس کی بہ نسبت فال اچھی ہے۔ صحابہؓ نے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ فال کیا ہے؟ ارشادِ عالی ہوا وہ کلمہ خیر ہے جسے تم سنتے ہو۔ (بخاری و مسلم)

سعد بن مالک نے اپنے والد کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ کو فرماتے میں نے سنا ہے کہ عیافہ (پرند سے فال لینا) شگون اور طروق (پتھر سے فال لینا) یہ سب بُت پرستی ہے۔ (ابوداؤد)

ابوداؤد نے لکھا ہے کہ طروق کے معنی تھوکننا اور عیافہ کے معنی خط کھینچنا ہے پھر اپنی شرح میں لکھا ہے کہ عیافہ کے معنی ہیں پرند آزاد کرنا اور ان سے عربوں کی طرح فال لینا اور طروق کے معنی ہیں کنکریاں مارنا۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ طروق کے معنی ریتلی زمین پر لکیریں کھینچنا جیسا کہ لوگوں کی دل کی باتیں بتانے کے لئے نجومی کھینچتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔ اور بُت پرستی کہتے ہیں اس کام کو جو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کی جائے۔

بعض کہتے ہیں کہ بُت پرستی نام ہے پشنگوئی اور شیطانی کام کا۔

طیبی نے لکھا ہے کہ عیافہ کے معنی ہیں پرند کو اڑانا اور ان کے نام، بولی اور آمد و رفت کے راستہ سے شگون لینا۔ اور جاہل عرب دوران سفر میں اپنے یہ رسوم انجام دیتے اور انکل پچوگمان لگانے کے لئے پرند چھوڑتے تھے۔ اور طروق کے معنی ہیں کنکریاں مارنا جس طرح عورتیں کنکریاں مارتی ہیں۔ بعض کہتے ہیں طروق کے معنی ہیں ریتلی جگہ میں خطوط کھینچنا۔ اور بُت پرست کہتے ہیں جادو و پشنگوئی کو بعض کہتے ہیں کہ بُت پرستی نام ہے اس کام کا جو اللہ کے سوائے کسی اور کی عبادت کی جائے۔ بعض کہتے ہیں دُبت (بُت پرستی) نام ہے

جادوگری کا۔ بعض کہتے ہیں کہ لفظ جنت عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ سعید بن جبیر کے نزدیک یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔

قطرب کا بیان ہے کہ جنت کے معنی ہیں وہ چیز جس میں کسی قسم کی خیر و خوبی نہ ہو۔ انسؓ کا بیان ہے ایک آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہؐ ہم لوگ پہلے ایک گھر میں رہتے تھے جہاں ہماری تعداد زیادہ تھی اور وہ فرد دولت تھی لیکن پھر ہم ایک دوسرے گھر میں چلے گئے جہاں ہماری تعداد گھٹ گئی اور مال و دولت میں کمی ہو گئی فرمائیے یہ کیا بات ہے؟ ارشادِ عالی ہو اس کو ترک کر دو یہ نازیبا ہے۔ (ابوداؤد)

یحییٰ بن سعید کا بیان ہے کہ ایک عورت نے آ کر رسول اکرم ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ پہلے ہم لوگ جس گھر میں رہتے تھے وہاں ہماری اکثریت تھی اور کافی دولت تھی لیکن جب وہ گھر بدل کر دوسرے گھر میں آئے تو ہماری تعداد گھٹ گئی اور مال و دولت صاف ہو گیا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا چھوڑ دو، یہ بُرا ہے۔ (موطا)

### احادیث جامع کبیر

حاکم نے مستدرک میں لکھا ہے کہ شگون دراصل تقدیر سے پیوستہ ہے اور حضرت عائشہؓ کا بیان ہے کہ شگون لینا شرک ہے۔ (ترمذی) احمد و بخاری و ابن ماجہ نے باب ادب میں اور حاکم نے مستدرک میں بھی یہی روایت لکھی ہے۔

ابن مسعودؓ کا بیان ہے زمانہ جاہلیت میں لوگ کہا کرتے کہ عورت، سواری اور گھر سے شگون لیتے تھے۔ (مستدرک از حاکم اور شعب الایمان از بیہقی)

ترمذی و نسائی میں ابن عمرؓ کی زبانی روایت ہے کہ مکان، عورت اور گھوڑے میں نحوست ہو سکتی ہے۔

امام احمدؓ نے لکھا ہے اگر کسی چیز میں نحوست ہو سکتی ہے تو گھر، عورت اور گھوڑے میں ممکن ہے۔

یہی عبارت بخاری نے سہل بن سعد کی زبانی بیہقی نے ابن عمرؓ کی زبانی تحریر کی ہے۔

نسائی نے جابرؓ کی زبانی لکھا ہے کہ شگون، بدگمانی اور حسدان تین عادات سے محفوظ رہنے کے لئے ترکیب یہ ہے کہ شگون لینے کو خیال میں نہ لائے، بدگمانی اس طرح

دور کی جائے کہ تحقیق کو کام میں لانے کی فکر نہ کی جائے اور حسد سے بچنے کے لئے ہر قسم کا ظلم و ستم کرنا ترک کر دیا جائے۔ اور یہی روایت شعب الایمان میں بیہقی نے حضرت ابوہریرہؓ کی زبانی تحریر کی ہے۔

ابن صیبری نے امالی میں اور دیلمی نے مسند الفردوس میں لکھا ہے کہ مومن و مسلم کے تین خصائل ہیں اور باقی اوپر کی حدیث کی مانند لکھا ہے۔

### شگون

طبرانی نے کبیر میں عمران بن حصین کے حوالہ سے یہ حدیث لکھی ہے جو شخص شگون بے پیشگوئی یا جادو کرے کرے تو ایسا شخص امت محمدیہ ﷺ کا فرد نہیں ہے۔

امام احمد نے لکھا ہے کہ شگون لینا شرک ہے۔

طبرانی نے ابن عمرؓ کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شگون لینا شرک ہے اور یہ الفاظ تین مرتبہ ادا کئے۔ پھر کہا سفر کو جانے والا کسی شگون کی وجہ سے لوٹ آئے تو اس نے رسالت مآب ﷺ پر نازل شدہ احکام الہی کا انکار کیا اور کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں اگر ہو سکتی ہے تو گھوڑے، عورت اور گھر میں ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ جو شخص کسی شگون کی رو سے اپنا کام نہ کر سکا تو یقیناً اس نے شرک کیا۔ اس کی بابت صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اس کا کفارہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا۔ یہ کہنا چاہیے اے اللہ تجھ سے شگون لینے کے سوائے کوئی چیز نہیں۔ اور تیری خیر خواہی کے سوا کوئی بھلائی نہیں اور تیرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ فال فرستادہ ہے، چھینک شاہد و عادل ہے اور نحوست کوئی چیز ہی نہیں ہے اور دراصل مکان، عورت اور گھوڑے میں برکت ہوتی ہے۔ (ترمذی)

ابن ماجہ نے حکیم بن معاویہؓ کی زبانی لکھا ہے اے اللہ تو موجود ہے، ہم تجھ سے فال چاہتے ہیں، بد شگونی کوئی چیز نہیں۔ نظر لگنا درست ہے اور اچھا شگون دراصل فال ہے۔ (احمد)

امام ترمذی نے حضرت جابرؓ سے روایت کی ہے کہ شگون لینا کوئی چیز نہیں ہے اور ان کی پیوست فال مجھے پسند نظر ہے یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ (دارقطنی)



ابن ابی ملیکہ کی زبانی مروی ہے کہ میں نے ابن عباسؓ سے کہا کہ مجھے اپنی لونڈی کی بابت کچھ کھٹک سی ہو گئی ہے اور کئی لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ اگر نحوست ہے اقامت گاہ، گھوڑے اور عورت میں ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عباسؓ نے سختی سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات کسی نے بھی رسول اکرم ﷺ کی زبانی نہیں سنی اور آپ ﷺ پر تہمت لگانا سب سے بڑا گناہ ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے نہایت شدت سے کہا کہ رسول اکرم ﷺ نے کبھی بھی نحوست کا وجود مکان، عورت اور گھوڑے میں نہیں بتایا اور میں ابن عباسؓ کہتا ہوں کہ اور تمہارے دل میں کسی چیز کی نحوست کا شک پیدا ہو جائے تو اس چیز کو الگ کر دو، فروخت کر دیا آزاد کر دو۔ (ابن جریر)

قادہؓ نے ابو حسانؓ کے ذریعہ بیان کیا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کی خدمت میں دو آدمیوں نے حاضری دے کر عرض کیا ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ عورت، گھوڑے اور مکان میں نحوست ہوتی ہے۔ یہ سن کر آپؐ نے حد غضب ناک ہوئیں اور کہا رسالت مآب ﷺ نے یہ فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو زمانہ جاہلیت کے لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ (ابن جریر)

ابن جریر نے حضرت عبداللہ ابن عمرؓ کی زبانی لکھا ہے کہ دربار رسالت مآب ﷺ میں ایک عورت نے آکر کہا یا رسول اللہ ﷺ ہم اپنے گھر میں نہایت وافر مال و دولت کے ساتھ رہتے تھے اب غربت و احتیاج نے ہم پر قابو پا لیا ہے۔ اور ہمارے دلوں میں باہمی زنجش پیدا ہو کر سب گھر والے الگ الگ ہو گئے ہیں بتائیے کیا کریں؟ ارشاد عالی ہوا اس گھر کو فروخت کر دویا چھوڑ دو اگر تم اسے برا سمجھتی ہو۔

واضح ہو کہ اس باب میں بکثرت احادیث وارد ہیں اور جتنی ہم نے تحریر کی ہیں یہی بہت کافی ہیں جن سے شگون کے اثرات کی بالکل نفی اور شگون پر اعتقاد رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے اور بعض اثرات کے موثر ہونے کا ثبوت ملتا ہے، جیسے عورت، مکان اور سواری کے موثر ہونے کی روایات، لیکن رہی تاثیر تو یہ اثر اندازی یا تو زمانہ جاہلیت کی پیداوار ہے یا زمانہ حال کی ایجاد ہے۔ واضح رہے ان اشیاء کی تاثیر کے انکار اور ان کی ممانعت میں شرطیہ الفاظ پائے جاتے ہیں۔ جیسے اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی تو ان چیزوں میں

ہوتی اور جملہ شرطیہ کے معنی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

خلاصہ یہ کہ نحوست کسی چیز میں نہیں ہے۔ اور اگر کسی چیز میں نحوست مان لی جائے تو یہ نحوست صرف ظنی اور گمان و خیال کی حد تک محدود رہتی ہے۔ نیز مناسب یہ ہے کہ اس مقام پر رسول اکرم ﷺ کی وہ حدیث بیان کر دی جائے جس میں فرمایا ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاسکتی ہے تو نظر لگنا سبقت لے جاسکتا ہے۔ اور اسی حدیث کے پیش نظر قاضی عیاضؒ نے لکھا ہے کہ اگر نحوست ہوتی میں لفظ اگر ایک شرط کو بیان کر رہا ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ ان اشیاء میں بھی نحوست نہیں ہے۔

قاضی عیاض کے بیان سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ کسی چیز میں نحوست نہیں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے صراحت سے نحوست کا انکار فرمایا ہے اور روایات سے نحوست کا وجود مانا جاتا ہے ان دونوں روایتوں کو اس طرح ایک دوسرے سے مطابقت دی جاسکتی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے کسی چیز میں خود بذاتہ اثر کرنے کی قوت کی ممانعت فرمائی ہے۔ کیونکہ ہر چیز میں صرف اللہ تعالیٰ ہی حقیقی موثر ہے اور تمام مخلوق اسی کی ہے۔ اور بھی اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ اور جن چیزوں میں اثرات پائے جاتے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ان میں تاثیر دے دیتا ہے جیسے آگ جس کی خصلت و فطرت جلانے کی ہے۔ خلاصہ یہ کہ تاثیر کسی چیز میں ذاتی نہیں ہے اور بعض اشیاء کی خصلت ان کی خلقی اور اصلی ہے۔

اور جن اشیاء کا رسول اکرم ﷺ نے حوالہ دیا ہے ان کی خصلت و تاثیر واضح ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عورت کی نحوست یہ ہے کہ وہ بانجھ ہو، شوہر کی نافرمان ہو، اور

شوہر کی نظر میں ناپسند و بد صورت ہو۔

گھر کی نحوست یہ ہے کہ وہ تنگ اور چھوٹا ہو۔ اس میں گھلی آب و ہوا نہ آتی ہو اور اس

کا پڑوس خراب ہو۔

گھوڑے کی نحوست یہ ہے کہ وہ سرکش ہو اور قیمتی ہو۔ اور مالک کی مصلحت کے

موافق نہ ہو وغیرہ وغیرہ۔

نحوست کو مجازی طور پر مانا جا رہا ہے اور نحوست کی وجہ دراصل وہ ناپسندیدگی ہے جو

شریعت و طبیعت کی مخالفت پر محمول ہے یعنی جو چیز شریعت و انسانی طبیعت کے خلاف اثر انداز

ماثبت بالسنة فی ایام السنہ

ہو وہ نحوست کہلاتی ہے جس کی تائید ”شرح السنہ“ میں بایں طور مرقوم ہے گو یا رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اگر کسی مکان کے باشندے اپنے مکان کی رہائش پسند نہ کرتے ہوں یا کوئی شوہر اپنی بیوی سے صحبت ناپسند کرتا ہو یا گھوڑا پسندیدہ نہ ہو تو ایسی صورت میں مکان چھوڑ دیا جائے بیوی کو طلاق دے دی جائے اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ ایک شخص نے رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ہم جس گھر میں رہتے بستے تھے وہاں ہماری تعداد زیادہ تھی جس کے جواب میں ارشادِ عالی ہوا اس گھر کو چھوڑ دو۔ اور کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جاؤ تا کہ دل میں جو ناپسندیدگی بس گئی ہے وہ دور ہو جائے۔

اس سے مزید ثابت ہوا کہ نحوست اور شگون کا رسالت مآب ﷺ نے انکار فرمایا ہے۔ باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔



# باب دوم

## مرض متعدی

قبل ازیں ہم وہ احادیث لکھ چکے ہیں جو مرض متعدی اور چھوت کے وجود کا انکار کرتی اور اس قسم کے غلط اعتقاد رکھنے کی ممانعت کرتی ہیں۔

### چھوت

تاہم لوگوں کا یہ اعتراض ہے کہ چھوت کی نفی کے بعد رسول اکرم ﷺ کے یہ احکام موجود ہیں۔ کوڑھی جذامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔

بیمار اُونٹ تندرست اُونٹوں میں جانے نہ پائے۔

کوئی بیمار کسی تندرست کے پاس آمد و رفت نہ کرے۔

بیمار اُونٹ کا مالک بھی بیمار اور تندرست اُونٹ کا مالک بھی تندرست ہوتا ہے۔

نیز ان احکام کی موجودگی میں رسول اکرم ﷺ فرماتے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ جس کا ثبوت یہ ہے کہ ایک ذیہاتی نے حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایک وہ اُونٹ جو ریت میں اس طرح چلتا ہے گویا جنگل میں کودنے والا ہرن ہو لیکن دوسرا خارش اُونٹ آکر اس کو خارش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس پر رسول اکرم ﷺ نے جواباً فرمایا بتاؤ! پہلے اُونٹ کو خارش کیسے ہوتی؟

اور ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک ذیہاتی نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ خارش اولاً اُونٹ میں شروع ہوتی ہے یا پھر اس کی دُم سے آغاز ہوتا ہے اور پھر یہ خارش دوسرے تمام اُونٹوں میں پھیل جاتی ہے۔ اس پر رسالت مآب نے فرمایا پہلے والے اُونٹ کو خارش کیسے ہوئی اور کس کے ذریعہ ہوئی؟ یا در کھو مرض متعدی، شگون اور بدفالی کوئی چیز نہیں۔ اللہ نے ہر جاندار کو پیدا کر کے اس کی زندگی روزی اور مصیبت مقرر کر دی ہے۔

علاوہ ازیں رسول اکرم ﷺ کے حکم ”چھوت کوئی چیز نہیں“ اور کوئی بیمار کسی تندرست کے پاس آمد و رفت نہ کرے۔ ”گو ابو ہریرہ پہلے تو علی الاعلان کہا کرتے تھے لیکن پھر چھوت کوئی چیز نہیں“ یہ حکم محبوب رب العالمین کا بیان کرنا ترک کر کے آخر عمر تک رسول اکرم ﷺ کی

یہی حدیث بیان کرتے رہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست کے پاس آمد و رفت نہ کرے۔ اور جب اپنے پہلے قول سے انہوں نے انکار کیا تو لوگوں نے کہا آپ تو کہا کرتے تھے کہ ”چھوت کوئی چیز نہیں“ اس کے جواب میں ابو ہریرہؓ حبشہ کی باتیں کرنے لگے۔ اس معاملہ میں ابو سلمہؓ کا قول ہے کہ ابو ہریرہؓ کو ”چھوت کوئی چیز نہیں“ کی حدیث یاد نہیں رہی۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے چچا زاد بھائی حارثؓ کا بیان ہے کہ میں نے ابو ہریرہؓ سے کہا اے ابو ہریرہؓ پہلے تو تم رسول اللہ کی یہ حدیث سنایا کرتے تھے کہ ”چھوت کوئی چیز نہیں ہے“ اب کیا ہو گیا ہے جو اس کے بیان کرنے سے تم نے سکوت اختیار کر لیا ہے؟ اس پر ابو ہریرہؓ نے جواباً کہا یہ تو مجھے یاد نہیں البتہ رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد ہے کہ کوئی بیمار کسی تندرست کے پاس آمد و رفت نہ کرے۔ اس پر جب حارثؓ نے جرح کی تو حضرت ابو ہریرہؓ غضب ناک ہو گئے حبشہ سے متعلق عجیب و غریب باتیں کرنے لگے۔

ابو سلمہؓ کا بیان ہے۔ میری جان کی قسم۔ ابو ہریرہؓ ہمیں رسول اللہ کی یہ حدیث سناتے تھے کہ ”چھوت کوئی چیز نہیں“ اب معلوم نہیں کہ یہ حدیث انہیں بھلا دی گئی یا منسوخ کر دی گئی۔

اور اگر اعتراض کیا جائے کہ جبکہ ابو ہریرہؓ نے اس روایت سے انکار کر دیا تو چھوت کی حدیث ثابت نہیں ہوتی۔ اس کا جواب میں (عبدالحق محدث دہلوی) یہ دیتا ہوں کہ اس کی اصولی بحث قبل ازیں بیان کی جا چکی ہے اور راوی کے انکار سے چھوت کا بالکل یہ عدم ثبوت نہیں ہوتا۔ اور بقرض محال اگر مان بھی لیں تب بھی ”چھوت کوئی چیز نہیں“ کی حدیث دوسری متعدد احادیث کے ذریعہ متحقق اور اپنی جگہ قائم ہے۔ بعض لوگ چھوت کوئی چیز نہیں کی حدیث اور جذامی سے فرار کا حکم یا بیماری کے احکام میں نہ ٹھہرنے اور کسی مریض کا تندرست کے پاس نہ جانے کے احکام کے درمیان تعارض سمجھتے ہیں۔ اس کا جواب ہم وہی دیتے ہیں جو علماء عظام نے چھوت کوئی چیز نہیں اور جذامی سے فرار کی مطابقت میں دیا ہے یعنی ان دونوں باتوں پر یکسانیت ہے اور کوئی تضاد نہیں ہے اور اس طرح دوسری حدیث کی وجہ سے مطابقت بھی واضح ہو جائے گی۔ درحقیقت حال اللہ ہی جانتا ہے۔

### چھوت

کرمانی نے شرح بخاری میں ”چھوت کوئی چیز نہیں“ کی تشریح کرتے ہوئے لکھا

ہے کہ بلحاظ طبیعت و خلقت کوئی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ اور جو کچھ ظاہر ہوتا ہے۔ وہ دراصل اللہ کے حکم و منشاء سے ہوتا ہے۔ اور اسی لئے رسالت مآب نے بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس جانے کی ممانعت فرمائی اور ارشاد فرمایا جذامی سے دور بھاگو۔

بعض کہتے ہیں کہ تندرست اونٹ کے پاس جانے کی ممانعت سے چھوت کا

حکم مستثنیٰ ہے۔

تو رپشتی کا بیان ہے چھوت کی تاویل میں علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ”چھوت کوئی چیز نہیں“ کی حدیث سے نفس چھوت کی نفی مراد ہے۔ اور چھوت کو رسول اکرم ﷺ نے باطل و ناکارہ قرار دیا ہے۔ جس کا ثبوت حدیث کے ظاہری انوار اور قرآن میں موجود ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ ”چھوت کوئی چیز نہیں“ کی حدیث سے نفس چھوت کا بطلان و ناکارہ پن مراد نہیں ہے بلکہ جذامی سے اس طرح بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو اور تندرست کے پاس بیمار آمدورفت نہ کریں۔ ان دونوں حدیثوں سے رسول اکرم ﷺ کی مراد یہ ہے کہ کمزور طبائع جو اس امر کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ امراض ایک دوسرے کو لگتے یا لازمی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ باخبر ہو جائیں کہ ان کا وہم ان کے گمان کی حد تک ہے ورنہ اصلیت یہ ہے کہ اس قسم کے امراض بھی مشیت الہی کے تابع ہیں اور جو وہ چاہتا ہے ہوتا ہے اور جس کام کو وہ نہیں چاہتا وہ معرض وجود میں نہیں آتا اور اسی کی جانب رسول اکرم ﷺ کا یہ فرمان اشارہ کر رہا ہے کہ بتاؤ پہلے کو کس نے بیمار کیا؟ آمدورفت نہ کریں گویا بالکل ویسا ہی ہے جیسے ٹیڑھی دیوار یا شکستہ کشتی سے بچنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اور ان میں دو احادیث کے ذریعہ اکثر علماء کی جماعت نے بعض دوسری جماعت والوں پر دلیل لا کر ان کے خیالات کی اس طرح تردید کی ہے کہ مذکورہ بالا احادیث میں جو ممانعت وارد ہے اس کا مطلب شفقت و رافت ہے کہ اگر یہ بیمار ہو جائے یا اونٹوں میں بیماری پھیل جائے تو لوگ یہ اعتقاد نہ کر بیٹھیں کہ چھوت کی بیماری لگتی ہے اور یہ حق ہے حالانکہ چھوت کوئی چیز نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں دونوں احادیث کی یہی تاویل مناسب ہے کیونکہ احادیث مرویہ سے اس کی مطابقت بھی ہوتی ہے کہ چھوت کوئی اثر انداز چیز نہیں ہے۔ اور اگر پہلا قول مانیں

یعنی چھوت کو اثر انداز تصور کیا جائے تو اس سے فن طب کے اصول بھی معطل ہو جاتے ہیں اور طبی اصول کو شریعت اسلامیہ معطل کرنے کے درپے نہیں بلکہ اسے بدین طور اور زیادہ ثبات و استحکام دیتی ہے اصول توحید کی مخالفت بھی نہ ہونے پائے۔

اور جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے، اس پر سر تسلیم خم کرنے میں کسی مخالفت کا بھی اندیشہ پیدا نہیں ہوتا۔

اور بعض لوگوں کا یہ استدلال کہ سیاق کلام کا قرینہ ہی چھوت کا ثبوت ہے اس کا جواب یہ ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے جن اشیاء کی ممانعت فرمائی یا جن چیزوں کو حرام مکروہ قرار دیا ہے انہیں باعتبار تنوع ایک وسطی درجہ میں یکجا بھی فرما دیا ہے اور ہمارے اس بیان کی تائید و صحت کے لئے رسالت مآب ﷺ کا یہ فرمان بھی پیش نظر رکھا جائے جب کہ ایک جذامی سے جو بجز رض بیعت حاضر ہوا تھا فرمایا تمہاری بیعت ہم نے قبول کر لی بس اب جاؤ۔ اور ایک دوسرے جذامی کا ہاتھ لے کر آپ نے ایک بڑے پیالہ میں رکھا اور فرمایا اللہ پر اعتماد و بھروسہ کر کے دکھاؤ۔ ان دونوں احادیث کے درمیان مطابقت صاف ظاہر ہے کہ پہلی حدیث اتلاف اسباب سے پرہیز کرنے کا حکم ہے کہ ایسی صورت میں پرہیز کرنا چاہئے اور دوسری حدیث مشارکت اسباب کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کا بین ثبوت ہے۔ اور یہی سنت نبوی ﷺ ہے کہ تمام اسباب کی موجودگی میں اللہ اور صرف اللہ پر اعتماد کیا جائے۔

طیبی نے عمر بن شریک کی روایت سے لکھا ہے کہ بنو ثقیف کے وفد میں جو شخص تھا اس کے ہاتھ رسول اکرم ﷺ نے کہلا بھیجا کہ ہم نے تمہاری بیعت قبول کر لی اور اے جذامی اب تم لوٹ جاؤ۔

مسلم نے یہ حدیث لکھ کر تحریر کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی اجازت وہی اس کے لئے ہے جو توکل کی منزل پہ نہ پہنچا ہو اور آپ کا منشاء یہ ہے کہ اسباب کو بھی پیش نظر رکھو کیونکہ موجودات عالم کو اللہ تعالیٰ نے خواص و اثرات و دلالت فرمائے ہیں۔

علامہ بغوی کا بیان ہے کہ جذامی کے جسم میں سے ایک خاص قسم کی بدبو اور گیس نکلتی ہے اور جذامی کے پاس زیادہ نشست و برخاست کرنے والے اور ایک ساتھ کھانے اور سونے والے پر اثر انداز ہوتی ہے اور امر چھوت نہیں بلکہ فن طب کا ایک قاعدہ سا ہے جس کی مثال یہ ہے کہ سڑی ہوئی چیز کھانے، بدبو دار سو گھننے بند یا سیل والے مکان میں رہنے سے نقصان

ہوتا ہے حالانکہ ہر کام صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔

امام وقت حافظ ابن حجر عسقلانی نے ”شرح نخبۃ الفکر“ میں تحریر کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا یہ عمل کہ ایک جذامی کو دور سے رخصت کر دیا اور دوسرے جذامی کا ہاتھ پکڑ کر ایک پیالہ میں کھایا یہ دونوں عمل درحقیقت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ان میں مطابقت پائی جاتی ہے اور یہ اس امر کی وضاحت کرتے ہیں کہ چھوت کی بیماری کوئی متعدی مرض نہیں۔ تاہم بیمار سے تندرست کے اختلاط کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبب بنا دیا کہ کہیں اس کی بیماری تجاوز نہ کر جائے۔ اور یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بلکہ بعض اوقات کسی بیمار سے اختلاط کرنے کے باوجود تندرست بیمار کو اس کا مرض لاحق نہیں ہوتا۔

ابن صلاح نے بھی اسی طرح مطابقت احادیث بیان کی ہے۔ اور میرے (شیخ عبدالحق) کے خیال میں ان دونوں احادیث کی مطابقت یوں ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے چھوت کی جو ممانعت فرمائی ہے وہ اپنی جگہ عمومی حیثیت سے برقرار ہے۔ اور آپ ﷺ کا یہ ارشاد کہ کوئی بیماری تجاوز کر کے دوسرے کو نہیں لگتی یہ اپنی جگہ مسلم اور بالکل درست ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد کہ جس طرح اللہ نے پہلے کو بیمار کیا اسی طرح دوسرے کو بھی بیمار کیا، یہ اس حقیقت کا انکشاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے اور جس کو جس طرح چاہتا رکھتا ہے وہی بیمار ڈالتا اور شفا دیتا ہے۔

اور رسول اکرم ﷺ کا یہ حکم کہ ”جذامی سے بھاگو“ یہ دراصل ذرائع و اسباب کا سد باب کرتا ہے کہ جو شخص کسی جذامی سے اختلاط کے باعث بیمار ہو جائے تو کہیں یہ اعتقاد نہ کرنے لگے کہ چھوت لگ گئی۔ بلکہ ہر مسلمان کو یہ پختہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی بیمار ڈالتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے اور رسول اکرم ﷺ نے یہ حکم قرار دے کر بد اعتقادی کی بیخ کنی فرمائی ہے تاکہ چھوت وغیرہ کو حق ماننے کا بالکل خاتمہ ہو جائے۔

اس کے علاوہ اس باب میں ”شرح نخبۃ الفکر“ کے حاشیہ پر حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا ایک جذامی کے ساتھ کھانا نوش فرمانا اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ کو اللہ کی قدرت کے بارے میں کوئی بدظنی نہ تھی اور آپ ﷺ کا یہ عمل دراصل ان لوگوں کے لئے سبق تھا جن کے دل یقین کی دولت سے لبریز نہ تھے۔ اور توہم پرستوں



مومن کے ماہ و سال

بہار سن ۱۱۰۰

کے لئے عملی نصیحت ہے کہ اگر کوئی بیماری آجائے تو دل میں اس بیماری کے لگنے کا خیال تک نہ لایا جائے۔

نیز آپ ﷺ کے اس ارشاد سے آپ ﷺ کی رحمت کا بھی اظہار ہے تاکہ کوئی شخص دنیائے شرک میں معمولی طور بھی گرنے نہ پائے۔

اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کی اس شانِ رحمت میں مسلمانوں کو اچھے عمل کی توفیق دے اور آپ ﷺ کا وسیلہ رکھ کر فضیلت و پرچمِ حمد عنایت فرمائے اور لاکھوں درود و سلام ہوں سرورِ عالم ﷺ پر جو پیکرِ شرف و کرم ہیں۔

چونکہ اس مضمون کو حافظ ابن حجر عسقلانی نے رسولِ اکرم ﷺ پر درود و سلام بھیجتے ہوئے ختم کیا ہے۔ لہذا میں (شیخ عبدالحق) بھی درود و سلام پر ختم کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔



# ربیع الاول

بہتر و مناسب یہ ہے کہ اس عنوان کے تحت اولاً رسالت مآب ﷺ کی ولادت وصال اور متعلقہ احکام لکھے جائیں اور پھر اس ماہ میں رسالت مآب ﷺ کی خواب میں رویت و زیارت کا تذکرہ کیا جائے اس میں دو باب لکھے ہیں۔

## باب اول

ولادت باسعادت

سال فراخی و مسرت

سچے دوستو! اللہ تعالیٰ نور یقین سے تمہاری تائید کرے اور رسالت مآب ﷺ کے تذکرہ سے تمہارے دل متور کرے درود ہو رسول اکرم ﷺ پر، آپ ﷺ کے آل و اصحاب پر اور سب پر واقعہ یہ ہے کہ بطن حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا میں جب رسول اکرم ﷺ تشریف لائے تو زمانہ حمل میں حضرت آمنہ کو آپ ﷺ کی برکت سے وہ عجیب و غریب اور نادر و نایاب واقعات پیش آئے جو سیرت کی کتابوں اور احادیث میں مذکور ہیں ان بحورِ ذخار میں سے ہم صرف وہی امور جو حقیقی حالات کی وضاحت کرتے ہیں اور وہ احادیث لکھیں گے جو صحیح کتب احادیث میں مشہور و معروف اسناد کے ساتھ مرقوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کام کی تکمیل کی توفیق عنایت فرمائے۔

روایت ہے کہ حمل مبارک ﷺ سے پہلے قریش سخت قحط اور تنگی ترشی کے عالم میں مبتلا تھے لیکن بطن آمنہ میں رسول اکرم ﷺ کی تشریف آرزانی کے ساتھ ہی سرزمینِ مکہ سرسبز اور درخت بار آور ہو گئے اور قریش کو ہر سمت سے آمدنی ہونے لگی۔ اسی لئے قریش نے اس سال ۵۷۰ء کا نام جس میں رسول اکرم ﷺ بطنِ مادر میں تشریف لائے تھے۔ "سال فراخی و مسرت" رکھا۔

ابن اسحاق کا بیان ہے کہ حضرت آمنہؓ فرماتی تھیں جب محبوب رب العالمین ﷺ میرے پیٹ میں آئے تو ایک دن میں نیند و بیداری کی درمیانی حالت میں تھی کہ ایک غیبی آواز آئی اے آمنہؓ! تمہارے پیٹ میں امت کا سردار ہے۔ اور مجھے مطلق علم نہ تھا کہ میں حاملہ ہوں کیونکہ مجھے کسی قسم کی گرانی نہ تھی اور میری وہ حالت نہ تھی جو دوسری خواتین کی ہوتی ہے۔ البتہ ایام بند ہو جانے پر مجھے تعجب تھا۔

ایک حدیث سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا دوسری خواتین کی بہ نسبت میری والدہ ماجدہ کے پیٹ کے اندر میں بھاری محسوس ہوا تو انہوں نے اپنی سہیلیوں وغیرہ سے اس کی شکایت کی۔ پھر اسی شب انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس پیٹ میں جو ہیں وہ نور ہیں (آخر حدیث تک) اور اسی حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کو زمانہ حمل میں ثقل محسوس ہوا۔ اس حدیث کے سوائے باقی تمام دیگر احادیث میں ہے کہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کو زمانہ حمل میں کوئی ثقل اور بوجھ محسوس نہیں ہوا۔

حافظ ابو نعیم نے مذکورہ بالا احادیث میں یوں مطابقت دی ہے کہ ابتدائی دنوں میں تو آپ کو ثقل محسوس ہوا لیکن حمل کے زیادہ سے زیادہ مہینوں میں آپ کو کوئی ثقل اور بوجھ معلوم نہیں ہوا۔ اور یہ دونوں حالتیں عام عادت کے بالکل خلاف وقوع پذیر ہوئیں۔

ابوزکریا یحییٰ بن عائد کا بیان ہے کہ رسالت مآب ﷺ اپنی والدہ کے پیٹ میں پورے نو ماہ رہے اس زمانہ میں حضرت آمنہؓ کے پیٹ میں درد، مروڑ اور ریاح وغیرہ کی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ اور دوسری حاملہ خواتین کی مانند آپ کو کوئی عارضہ نہیں ہوا۔ آپ فرماتی تھیں بخدا میں نے کسی کو بھی اپنے سے زیادہ ہلکا حمل نہیں دیکھا اور یہ حمل بڑا ہی برکت والا ہے۔

### انتقال حضرت عبداللہؓ بن عبدالمطلب

رسول اکرم ﷺ کو بطنِ مادر میں آئے صرف دو ماہ ہوئے تھے کہ آپ ﷺ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہؓ ابن عبدالمطلب نے وفات پائی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہؓ نے اس وقت وفات پائی جب کہ رسول اکرم ﷺ پالنے میں تھے۔ اور مشہور و راجح روایت پہلی ہی ہے کہ ولادت سرورِ عالم ﷺ سے قبل ہی حضرت عبداللہؓ نے وفات پائی۔

واقعہ وفات یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے مکہ واپس جاتے ہوئے راستہ میں حضرت عبداللہؓ نے وفات پائی اور مقام ابواء میں آپ کو دفن کیا گیا۔

### ولادت رسالتماؓ بحالت سجدہ

ابونعیم نے عبداللہ بن عباسؓ کی روایت سے لکھا ہے حضرت آمنہؓ فرماتی تھیں جب حمل کو چھ ماہ ہو چکے تو کسی آنے والے نے خواب میں آکر مجھ سے کہا اے آمنہ! تمہارے پیٹ میں دو عالم کے بہترین سردار ہیں۔ وضع حمل پر آپ کا اسم گرامی محمدؐ رکھنا! اور اپنا حال پوشیدہ رکھنا۔ اس کے بعد حضرت آمنہؓ نے فرمایا دوسری خواتین کی مانند میرے وضع حمل کا زمانہ بھی قریب آ گیا۔ پھر آپؐ نے جو عجیب و غریب امور دیکھے تھے بیان کئے مثلاً وہ پرند دیکھے جن کی چونچ زمر کی اور بازو یا قوت کے تھے۔ اور کچھ مرد وزن ہوا میں اس طرح پرواز کرتے دیکھے جن کے ہاتھوں میں چاندی کے لوٹے تھے، نیز اللہ نے میری آنکھوں سے پردے اٹھادیئے اور میں نے مشرق و مغرب کی زمینیں دیکھیں۔ اسکے علاوہ تین پرچم اس طرح دیکھے کہ ان میں سے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں اور تیسرا خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔

پھر مجھے دروزہ ہوا اور رسول اکرمؐ کی ولادت اس طرح ہوئی کہ آپؐ سجدے میں تھے اور جیسے کوئی عاجز گریہ و زاری کرتا ہے ویسے ہی آپ کی حالت تھی اور آپؐ انکشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید ابرو دیکھا جس نے آسمان سے آکر آپؐ کو ڈھانپ لیا اور پھر آپؐ میرے پاس سے غائب ہو گئے۔ اسی دوران میں نے ایک آواز سنی ”منادی بہ بانگ دہل کہہ رہا تھا“ آپ کو سرزمین مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور سمندروں میں لے جاؤ تاکہ وہ آپ کے تبرک نام سے متعارف ہو جائیں۔ آپؐ کی نعت و صفات اور صورت سے واقف ہو جائیں اور اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپؐ کا تبرک نام ماحی ز ظلم و شرک وغیرہ کو مٹانے والا ہے۔ اب کسی قسم کی بت پرستی اور شرک کا وجود باقی نہ رہے گا اور آپؐ کے عہدِ نخستہ میں شرک و بت پرستی محو ہو جائے گی۔ اس اعلان کے بعد ہی وہ چھایا ہوا بادل آپؐ پر سے ہٹ گیا۔

محمد بن سعد نے جماعت محدثین حضرت عطاء و عبداللہ بن عباسؓ وغیرہ کے ذریعہ حضرت آمنہ بنت وہبؓ کی زبانی لکھا ہے کہ رسالتماؓ کی ولادت کے وقت آپ کے

ساتھ ایسا نور بھی نکلا جس سے مشرق و مغرب کی ہر چیز روشن دکھائی دی۔ اور آپ ﷺ کی ولادت اس طرح ہوئی کہ آپ ﷺ اپنے ہاتھوں کے سہارے زمین پر آئے پھر آپ ﷺ نے اپنی مٹھیاں زمین سے اٹھائیں اور سر مبارک آسمان کی جانب بلند فرمایا۔

طبرانی کی تحریر ہے کہ رسالت مآب ﷺ جب پیدا ہوئے تو آپ ﷺ کی مٹھیاں بند تھیں البتہ انکشت شہادت اس طرح اٹھائے ہوئے تھے گویا سبحان اللہ پڑھ رہے ہوں۔

### خاتم النبیین

امام احمد، بزار، طبرانی، حاکم اور علامہ بیہقی نے عرباض بن ساریہ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ اور خاتم النبیین ہوں۔ میں اس وقت بھی نبی تھا جب کہ آدم اپنے خمیر میں تھے۔ اور عنقریب تمہیں تمام حالات سے باخبر کروں گا۔ میں اپنے والد حضرت ابراہیمؑ کی دعوت و دعا، حضرت عیسیٰؑ کی بشارت اور اپنی والدہ ماجدہؑ کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا۔ تمام انبیاء کی مائیں اپنے اپنے فرزند کی نبوت وغیرہ سے متعلق خواب دیکھتی رہی ہیں۔ اور سرورِ دو عالم کی والدہ ماجدہ نے بوقت وضع حمل وہ نور دیکھا جس سے مملکتِ شام کے تمام محل منور نظر آئے۔

حافظ ابن حجر کا بیان ہے کہ مذکورہ بالا حدیث ابن حبان اور حاکم کے نزدیک حدیث صحیح ہے اس کے علاوہ اس حدیث کے صحیح ہونے کی مزید اسناد موجود ہیں۔

مملکتِ شام کے محلات صاف نظر آنے کی بابت حضرت عباس بن عبدالمطلبؑ نے اپنے ان اشعار میں اشارہ کیا ہے۔

وانت لما ولدت اشرفت الارض و اضاءت بنورک الافق فنحن فی ذلک الضیاء والنور وسبیل الرشاد نخترق۔

”اے رسول ﷺ جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ ﷺ کے نور سے آسمانی کنارے درخشاں ہو گئے اور ہم اسی روشنی و نور میں رشد و ہدایت کی راہ چلتے ہیں۔“

روایت مندرجہ بالا میں مملکتِ شام کی خصوصیت کی وجہ یہ ہے کہ علاقہ شام آپ ﷺ کا دارالملک ہے۔ اور اسی کو کعب نے بحوالہ جات کتب قدیم یوں تحریر کیا ہے کہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی ولادت مکہ میں ہجرتِ مدینہ میں اور آپ ﷺ کا ملک شام ہے۔ اور اسی نسبت سے شبِ معراج میں آپ ﷺ کو مملکتِ شام کی جانب بیت المقدس تک

لے جایا گیا۔ نیز شام کی جانب آپ ﷺ کی روانگی اس لئے بھی ہوئی کہ قبل ازیں حضرت ابراہیمؑ نے علاقہ شام کی سمت ہجرت فرمائی تھی۔ اور سرزمین شام ہی وہ خطہ زمین ہے جو حشر و نشر کا مقام منثور ہے۔

علاوہ ازیں صحیح حدیث ہے کہ زمین شام کو لازم پکڑ لو اس لئے کہ تمام روئے زمین کی بہ نسبت سرزمین شام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور اللہ کے برگزیدہ و منتخب بندے اسی سرزمین پر زیادہ سے زیادہ تشریف فرما ہے۔

### عجائباتِ ولادت

رسول اکرم ﷺ کی ولادت باسعادت کے عجائبات کے منجملہ امام بیہقی و ابو نعیم نے یہ روایت تحریر کی ہے کہ وہ یہودی جو کھیشیت تاجر مکہ معظمہ میں مقیم تھا اس نے اس رات جس میں رسالت مآب ﷺ اس دنیا میں تشریف فرما ہونے والے تھے کہا اے گروہ یہود! احمد مجتبیٰ ﷺ کا ستارہ طلوع ہوا ہے اور آج کی شب وہ تولد ہوں گے۔

### مہرِ نبوت ﷺ

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ جس دن کو رسالت مآب ﷺ پیدا ہوئے اسی شب ایک یہودی مقیم مکہ معظمہ نے کہا۔

اے جماعتِ قریش! کیا تمہارے خاندان میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے؟ پھر اس یہودی نے کہا اس رات وہ پیدا ہوں گے جو امت کے نبی ہیں اور ان کے نبی ہونے کی علامت یہ ہے کہ ان کے دونوں کاندھوں کے درمیان مہرِ نبوت ہے۔ یہ سن کر قریش پھیل گئے اور دریافت پر معلوم کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عبدالمطلبؓ کے فرزند تولد ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ یہودی، چند قریش کے ساتھ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت آمنہؓ نے اس یہودی کی خواہش پر آپ ﷺ کا دیدار کرایا۔ آپ ﷺ کو دیکھتے ہی وہ یہودی غش کھا کر گر اور پھر کہا۔ اے جماعتِ قریش! سنو! بنی اسرائیل میں سے نبوت ختم ہو گئی۔ اور اب تم کو ان نبی ﷺ کے ذریعہ بے حد غلبہ و شوکت حاصل ہوگی اور آپ کی دعوت مشرق سے مغرب تک جاری رہے گی۔

یہ روایت یعقوب بن سفیان نے بھی حسن اسناد کے ذریعہ لکھی ہے اور یہی روایت

فتح الباری میں بھی ہے۔

## کرشمہ ولادت

رسالت مآب ﷺ کی ولادت کے وقت شاہ کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور اس کے محل کے چودہ کنگرے گر گئے۔

بحیرہ طبریہ خشک ہو گیا۔ فارس میں آتش پرستوں کی وہ آگ جو عرصہ سے مسلسل جاری تھی آپ ﷺ کی ولادت کے ساتھ ہی ٹھنڈی ہو گئی یہ روایت اکثر لوگوں نے لکھی ہے۔ ایوان کسریٰ کے چودہ کنگرے گرنے میں اس امر کی طرف اشارہ تھا کہ فارس کے صرف چودہ بادشاہ ہوں گے چنانچہ چار سال کی مدت میں دس بادشاہ ہوئے اور بقیہ چار نے حضرت عثمان غنیؓ کی خلافت تک بادشاہت کی۔ (مواہب لدنیہ)

علاوہ ازیں آپ ﷺ کی ولادت باسعادت کے سبب آسمانی خبروں کی حفاظت کے لئے شہاب ثاقب مقرر کئے گئے اور شیطان کی کمین گاہیں مسدود کر دی گئیں نیز شیطانوں کی چوری چھپے آسمانی باتیں سننے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمادی۔

## مختون و ناف بریدہ

ابو ہریرہؓ و ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ مختون اور ناف بریدہ پیدا ہوئے۔ (اوسط از طبرانی)

علاوہ ازیں ابو نعیم، خطیب اور ابن عساکر نے متعدد اسناد کے ساتھ حضرت انسؓ کی زبانی رسالت مآب ﷺ کا یہ ارشاد تحریر کیا ہے کہ میرے رب کی جانب سے میری بزرگی و کرامت یہ ہے کہ میں ختنہ شدہ پیدا ہوا۔ اور کسی نے میری شرم گاہ نہیں دیکھی۔ اسے مختارہ نے بھی صحیح لکھا ہے۔

حاکم نے اپنی مستدرک میں تحریر کیا ہے کہ متواتر احادیث سے یہ ثابت ہے کہ رسول اکرم ﷺ مختون پیدا ہوئے۔

متواتر احادیث سے حاکم کی مراد یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں میں یہ واقعہ بکثرت درج ہے اور یہی مشہور بھی ہے۔ اور تواتر احادیث سے ان کا مقصد ائمہ محدثین کی اصطلاح ”طریقہ اسناد“ نہیں ہے اس روایت کی خصوصیت کو بعض محدثین نے ضعیف بھی لکھا ہے جس کی صراحت کرتے ہوئے ابن قیم نے تحریر کیا ہے کہ ختنہ شدہ پیدا ہونا صرف رسول اکرم ﷺ کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کیونکہ اکثر لوگ ختنہ شدہ پیدا ہوئے ہیں۔

ابن درید نے وشاح میں ابن کلبی کی زبانی لکھا ہے ہمیں معلوم ہوا ہے آدم کی تخلیق اس طرح ہوئی کہ آپ مختون تھے۔ اور آدم کے بعد مزید بارہ نبی ایسے ہوئے جو مختون پیدا ہوئے جن کے آخر میں سرورِ عالم محمد رسول اللہ ﷺ مختون پیدا ہوئے۔

ایک ضعیف روایت یہ ہے کہ رسالتِ مآب ﷺ کی ولادت کے ساتویں دن آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے آپ کا ختنہ کرایا اور ضیافت کر کے آپ کا اسم مبارک محمد ﷺ رکھا۔

ایک قول یہ ہے کہ جبریل نے بوقتِ انشراح صدر آپ ﷺ کا قلب دھویا اور آپ ﷺ کا ختنہ بھی کیا۔ ذہبی کا بیان ہے کہ یہ قول منکر ہے۔

### مسئلہ ختنہ

واضح ہو کہ لڑکے کے آلہ تناسل کے سرے پر جو زائد کھال حشفہ کے اوپر ہوتی ہے اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور لڑکی کی شرمگاہ کے اوپری حصہ جو زائد کھال ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے اور ان دونوں کا نام (اردو زبان میں) ختنہ ہے اور (عربی زبان میں) مرد کے ختنہ کرنے کو اعذار اور عورت کے ختنہ کرنے کو خفصہ کہتے ہیں۔ امام ابوحنیفہ اور امام مالک اور کچھ شافعیوں کا مسلک یہ ہے کہ ختنہ کرنا سنت ہے اور امام شافعی کا خود مذہب یہ ہے کہ ختنہ کرنا واجب ہے اور مذہب مالکی کے مشہور عالم سخون بھی اسے واجب کہتے ہیں۔

واضح رہے کہ امام شافعی نے مردوں کا ختنہ واجب اور لڑکیوں کا ختنہ سنت قرار دیا ہے۔

جو اشخاص ختنہ کرانے کو سنت کہتے ہیں وہ اس کی دلیل ابو یحییٰ بن اسامہ کے اس قول سے لاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی والدہ کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے مردوں کے لئے ختنہ کرنا سنت اور لڑکیوں کے لئے تکرمہ (قابلِ پسندیدگی) ہے۔

(مسند امام احمد و امام بیہقی)

جو لوگ ختنہ کو واجب قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا احادیث میں لفظ سنت سے جو مراد ہے وہ واجب کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت سے مطلب ایک خاص طریقہ ہے۔ اور ختنہ کرنا واجب ہے جس کی دلیل قرآن کریم کی یہ آیت ہے۔

ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا (یک سو ہو کر دینِ ابراہیمی کے مطیع ہو جاؤ)



صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہؓ کی حدیث اس امر کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیمؑ نے اپنی عمر کے (۸۰) سال میں بسولہ سے اپنا ختنہ کیا ابوداؤد نے بھی وجوب ختنہ کے لئے رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد بطور دلیل پیش کیا ہے کہ جو شخص اسلام لائے وہ اپنے اوپر سے کفر کے نشان دور کر دے اور ختنہ کرائے۔

علاوہ ازیں فقہال مروزی شافعی بھی وجوب ختنہ کے قائل ہیں اور یہ دلیل لاتے ہیں کہ حشفہ کے اوپر کی زائد کھال کو باقی رکھنے سے پیشاب وغیرہ کی نجاست اس کے اندر رُک رہتی ہے جس کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی۔ اس لئے اس زائد کھال کا کاٹنا واجب ہے۔

### ختنہ کا زمانہ

ختنہ کرانے کے زمانہ و وقت میں علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ ختنہ کرانا واجب ہے کے کہنے والے کہتے ہیں کہ بلوغ کے بعد کرایا جائے کیونکہ بلوغ ہی محل وجوب ہے۔ بعض شافعی کہتے ہیں ولی پر واجب ہے کہ وہ لڑکے اور لڑکی کے بلوغ سے پہلے ہی ختنہ کرا دیں۔ ختنہ کرنا سنت ہے کے کہنے والوں کا بیان ہے صاف بات یہ ہے کہ ختنہ کا وقت و زمانہ بلوغ سے پہلے کا ہے کیونکہ شرمگاہ چھپانا واجب ہے اس لئے سنت کو کسی حال ترک نہیں کیا جاسکتا۔ اور حقیقت اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

### تاریخ ولادت رسالت مآب ﷺ

رسالت مآب ﷺ کے سال ولادت میں لوگوں کا اختلاف ہے اکثر اسی پر متفق ہیں کہ عام الفیلؑ آپ ﷺ کا سنہ ولادت ہے۔ حضرت ابن عباسؓ کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس کے خلاف جو قول ہے وہ ظن و تخمین اور وہم ہے۔

سہیلی اور ان کی جماعت کا بیان ہے کہ واقعہ الفیل کے پچاس دن بعد آپ ﷺ کی ولادت ہوئی اور یہی مشہور ہے، لیکن میاطی نے اپنی آخریں میں تحریر کیا ہے کہ واقعہ الفیل کے پچپن دن بعد آپ ﷺ کی ولادت ہوئی۔

اسی طرح آپ ﷺ کی ولادت کے مہینہ میں بھی لوگ باہم مختلف ہیں۔ جمہور علماء کا قول یہ ہے کہ ماہ ربیع الاول میں آپ ﷺ جلوہ افروز ہوئے۔ اور ابن جوزی نے بھی اسی کو متفق علیہ قرار دیا ہے۔

۱۔ عامۃ الفیل وہ سال ہے جس میں ابرہہ حرم مکہ پر ہاتھیوں کے ذریعہ حملہ آور ہوا تھا تا کہ مکہ کو ڈھادے یہ واقعہ ۵۷۰ کا ہے ۱۲۔

اسی طرح آپ ﷺ کی ولادت کے دن میں لوگ مختلف خیال ہیں بعض کہتے ہیں کہ کوئی تاریخ جعین نہیں ہو سکتی البتہ یہ ضرور ہے کہ ماہ ربیع الاول میں کسی پیر کے دن آپ ﷺ رونق افروز ہوئے۔ اس کے برعکس جمہور علماء کا مذہب و ایقان ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت کا دن مقررہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول کی دوسری تاریخ تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ آٹھ تھی اور ربیع الاول کی آٹھویں تاریخ ولادت ہی کو شیخ قطب الدین قسطلانی نے صحیح قرار دیا ہے اور اکثر محدثین کا یہی قول مختار ہے۔

حضرت عبداللہ بن عباسؓ و جبر بن مطعمہ مطعم کے نزدیک بھی یہی قول صحیح و درست ہے کیونکہ یہ حضرات واقف حالات ہیں اور یہی مذہب حمیدی اور ان کے استاد شیخ ابن حزم کا ہے۔ فضائی نے عیون المعارف میں لکھا ہے کہ تمام سیرت نگاروں کے نزدیک آٹھویں تاریخ ولادت رسالت مآب ﷺ ہے اور زہری نے محمد بن جبر کی زبانی بھی اسی کی تائید کی ہے۔ واضح رہے کہ محمد بن جبر وہ شخص ہے جو نسب ناموں اور حالات ایام عرب کے زیادہ جاننے والے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ دسویں ربیع الاول کو آپ ﷺ کی ولادت ہوئی۔

### بارھویں ربیع الاول

بارھویں ربیع الاول تاریخ ولادت رسالت مآب ﷺ مشہور ہے۔ اور اہل مکہ کا عمل یہی ہے کہ وہ اس تاریخ کو مقام ولادت رسالت مآب ﷺ کی اب تک زیارت کرتے ہیں۔<sup>۱</sup> طیبی کا بیان ہے کہ ”تمام مسلمانوں کا اس امر پر اتفاق ہے کہ رسالت مآب ﷺ ۱۲ ربیع الاول کو اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔“

میں (عبدالحق) کہتا ہوں کہ طیبی کے امر اتفاق پر ہمیں بھی مندرجہ بالا بیانات کی موجودگی میں کلام نہیں۔ نیز اس امر پر بھی سب متفق نہیں کہ آپ ﷺ کس وقت پیدا ہوئے۔ البتہ مشہور یہی ہے کہ پیر کے دن صبح آپ ﷺ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔

قائدہ انصاری کا بیان ہے کہ پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو ارشاد عالی ہوا یہ وہ دن ہے جس دن میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ کو نبوت عطا فرمائی گئی۔ (مسلم)

۱۔ یہ تحریر ۱۰۵۲ھ سے پہلے کی ہے کیونکہ شیخ نے ۱۰۵۲ھ میں انتقال کیا ہے اور اب تو حالات ہی کچھ اور ہو گئے ہیں۔ از مترجم ۱۲۔

اس ارشاد سے واضح ہے کہ آپ کی ولادت دن کے وقت ہوئی۔

مسند میں حضرت ابن عباسؓ کی زبانی یہ تحریر ہے کہ رسول اکرم ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے۔ اور پیر ہی کے دن مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی۔ پیر کے دن ہی حجر اسود اٹھا کر نصب فرمایا۔ نیز فتح مکہ اور سورہ مائدہ کا نزول بھی پیر کے دن ہی ہوا ہے۔

### وقت ولادت رسالت مآب ﷺ

بلاشک و شبہ یہ امر یقینی اور پایہ ثبوت کو پہنچتا ہے کہ سرور عالم ﷺ بوقت طلوع فجر اس دنیا میں رونق افروز ہوئے۔

عبداللہ ابن عمرو بن عاص کا بیان ہے کہ ظہران میں ایک شامی راہب رہتا تھا جو عیصا کے نام سے مشہور تھا اور وہ اکثر و بیشتر کہا کرتا تھا۔ اے مکہ والو! تم میں عنقریب وہ شخصیت پیدا ہوگی جس کا مذہب تمام عرب قبول کر لے گا اور وہ عجم کے بھی مالک ہوں گے اور ان کی پیدائش کا یہی زمانہ ہے۔

اندرون مکہ میں جوڑ کا پیدا ہوتا لوگ اس راہب سے جا کر پوچھتے تھے۔ لیکن ایک دن جس کی صبح میں رسول اکرم ﷺ رونق افروز عالم ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ رواج کے موافق عیصا کے پاس گئے اور اسے آواز دی چنانچہ اس نے ملاقات کر کے کہا عالم کو منور کرنے والے کی ولادت آپ کو مبارک ہو۔ آپ کے فرزند ہی وہ نومولود ہیں جن کی پیر کے دن کی پیدائش کے بارے میں میں اعلان کرتا تھا۔ یہ پیر کے دن ہی تان نبوت سے سرفراز ہوں گے اور پیر کے دن ہی وفات پائیں گے۔ پھر عیصا نے پوچھا ان نومولود کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت عبداللہ نے جواباً کہا محمد ﷺ۔ یہ سن کر عیصا نے کہا بخدا میری خواہش یہی تھی کہ یہ فرزند ارجمند تمہارے گھر پیدا ہو اور میرے علم کی حد تک ان میں تینوں باتیں میری خواہش کے موافق موجود ہیں اور یہ سب یکجا ہیں۔ ایک یہ کہ ان کا ستارہ گذشتہ شب طلوع ہوا۔ دوسرے یہ کہ پیر کے دن پیدا ہوئے اور تیسرے یہ کہ ان کا نام نامی محمد ﷺ ہے۔ مذکورہ بالا روایت ابو جعفر بن ابی شیبہ کی بیان کردہ ہے۔

اس کے علاوہ اسی روایت کو ایک ضعیف راوی کے حوالہ سے ابو نعیم نے اپنی دلائل میں تحریر کیا ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ آپ ﷺ کی ولادت غفر کے وقت ہوئی اور غفر وہ تین چھوٹے ستارے ہیں جن کی منزل چاند ہے۔ اور چاند کی یہ منزل وہ وقت ہے جس میں عام طور پر انبیاء کی ولادت ہوئی ہے۔

اور شمسی مہینوں کے مطابق ماں نیساں کی بیسیوں تاریخ آپ ﷺ کی ولادت قرار پائی ہے اور یہ برج حمل کا وقت تھا۔

بعض لوگ آپ ﷺ کی ولادت کا وقت حضرت عائشہ صدیقہؓ کی روایت کے مطابق رات کا بتاتے ہیں۔

شیخ بدرالدین زرکشی کا بیان ہے صحیح یہی ہے کہ رسالت مآب ﷺ کی ولادت باسعادت دن کے وقت ہوئی۔ اس کے علاوہ جو لوگ آپ ﷺ کی ولادت کے وقت ستاروں کا ٹوٹنا بیان کرتے ہیں اسے ابن حنیئہ نے ضعیف کہا ہے اور دلیل یہ لکھی ہے کہ ستارے رات کے وقت گرتے ہیں۔ لیکن چونکہ آپ کی ولادت صبح کے وقت ہوئی ہے اس لئے ستارے ٹوٹنے کی علت و سبب بنانا درست نہیں کیونکہ زمانہ نبوت میں خوارق عادت ہوا ہی کرتے ہیں اس لئے خوارق کے مد نظر دن کے وقت ستارے ٹوٹنا جائز ہے۔

اور میں بندہ کمزور (عبدالحق) کہتا ہوں ممکن ہے کہ ستارے رات کو ٹوٹے ہوں اور اسی صبح کے وقت آپ ﷺ کی ولادت ہوئی۔ اور لوگوں کا یہ کہنا کہ بوقت ولادت ستارے گرے اس کا بھی یہی مطلب ہے۔

### افضلیت شب ولادت

سرور دو عالم کی شب ولادت یقیناً شب قدر سے زیادہ افضل ہے کیونکہ شب ولادت آپ ﷺ کی پیدائش و جلوہ گری کی شب ہے اور شب قدر آپ ﷺ کو عطا کی ہوئی شب ہے۔ اور جو رات کہ ظہور رات کے سبب مشرف کی گئی ہو وہ اس شب سے زیادہ مشرف و سر بلند ہے جو عطیہ و سرفرازی کی وجہ سے معزز بنائی گئی ہو۔

شب ولادت رسالت مآب کی افضلیت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شب قدر میں صرف آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور شب ولادت میں رسول اکرم ﷺ کی ذات عالی کا

۱۔ نیساں موسم بہار کا وہ شمسی مہینہ جو عربوں میں راج تھا جسے بعد میں ایران میں استعمال کیا جانے لگا۔ بلحاظ مطابقت یہ

ماہ اپریل ہے اور تاریخ دول ایوب ہی میں آپ کی ولادت ۱۲۰ اپریل ۵۷۱ء درج ہے از مترجم۔ ۱۲

۲۔ رسالت مآب ﷺ کی ولادت پیر کے دن صبح کے بڑے ہوئی اور صبح کے وقت بھی رات کے مانند ستارے ٹوٹ کر گرتے

ہیں۔ اب بھی جس کا جی چاہے مطالعہ کر لے۔ صبح کے وقت ستاروں کا ٹوٹنا باہم کوئی تضاد و مخالف نہیں۔ از مترجم۔ ۱۲

ظہور ہوا ہے جن کے پاس مقرب فرشتے آتے رہتے تھے۔

علاوہ ازیں شب ولادت کی برتری کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ شب قدر کی برتری و خوبی صرف امت محمدیہ ﷺ کے لئے ہے اور واقعہ بھی یہی ہے کہ ذات رسالت مآب ﷺ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا ہے اور آپ ﷺ ہی کی ذات والا صفات کے سبب سے آسمانی وزمنی تمام مخلوقات کو اللہ نے عام نعمتیں سرفراز کی ہیں۔

ابولہب کی باندیوں میں سے ثویبہ لونڈی نے ابولہب کو رسول اکرم ﷺ کی ولادت کی خوشخبری دی جسے سن کر ابولہب نے اپنی باندی ثویبہ کو آزاد کر دیا ابولہب کے مرنے کے بعد اس کے کسی ساتھی نے اسے خواب میں دیکھ کر اس کا حال پوچھا تو جواب دیا جہنم میں پڑا ہوں البتہ اتنا ضرور ہے کہ ہر پیر کی رات کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ اور اپنی ان دو انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان دو انگلیوں سے میں نے اپنی لونڈی ثویبہ کو اس لئے آزاد کر دیا تھا کہ اس نے رسول اکرم ﷺ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ اس صلہ میں ان دونوں انگلیوں سے کچھ پانی پی لیتا ہوں۔ اور ثویبہ میری وہ آزاد کردہ لونڈی تھی جس نے رسول اکرم کو دودھ بھی پلایا تھا۔

ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ابولہب کا فرج جس کی مذمت قرآن کریم میں وارد ہے جبکہ اس کو ولادت رسول اکرم ﷺ کی خوشی منانے میں اپنی لونڈی ثویبہ کو آزاد کرنے کا یہ بدلا ملا ہے کہ وہ دوزخ میں بھی ایک رات کے لئے فرحت و مسرت سے ہمکنار ہو جاتا ہے تو ان مسلمانوں کے حال پر غور کیا جائے جو آپ ﷺ کی ولادت باسعادت پر مسرتوں کا اظہار کرتے اور آپ ﷺ کی محبت میں بقدر استطاعت خرچ کرتے ہیں۔ مری جان کی قسم! شب ولادت رسالت مآب ﷺ میں اظہار مسرت کرنے والوں کو اللہ جنت کے باغوں میں داخل کرے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد النبی ﷺ منعقد کرتے آئے ہیں۔ محفل میلاد کے ساتھ ہی دعوتیں دینے کھانے وغیرہ پکواتے اور غریبوں کو طرح طرح کے تحفہ تحائف تقسیم کرتے۔ خوشی کا اظہار کرتے۔ اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز ولادت باسعادت پر قرآن خوانی کراتے اور اپنے مکانوں کو مزین کرتے ہیں۔ ان تمام افعال حسنی کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

۱۔ کھانا پکوا کر مستحقین وغریبوں کو کھلانا۔ پاپے لیکن جھنڈیاں اور بے سو دروشی کا کہیں جوڑ نہیں اور شیخ کی عبارت کا مطلب بھی یہی ہے کہ فضول خرچی و نمائش نہ کی جائے بلکہ خلوص کے ساتھ بھوکوں کو کھلاؤ، غریبوں کو پہناؤ اور زیادہ سے زیادہ عبادت الہی کرو۔ اور کسی ناروا کام کے قریب تک نہ جاؤ۔

محفل میلاد النبی ﷺ کرنے کے خصوصی تجربے یہ ہیں کہ میلاد کرنے والے سال بھر تک اللہ کی حفظ و امان میں رہتے اور حاجت روائی و مقصود برآری کی خوشیوں سے جلد تر ہم آغوش ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان پر رحمتیں نازل کرتا ہے جو میلاد النبی ﷺ کو عید مناتے ہیں اور جس کے دل میں عناد اور دشمنی کی بیماری ہو وہ اپنی دشمنی میں اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔  
ابن الحاج نے اپنی مدخل میں محفل میلاد النبی ﷺ میں لوگوں کی بدعتوں، ناجائز کاموں حرام سازوں سے گانوں باجوں کی نہایت سختی سے تردید کی اور ان گانوں وغیرہ کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک نیتی کا ثواب دے اور سنت کی راہ پر گامزن کرے۔ اور اللہ ہی ہمارے لئے کافی اور بہترین مددگار ہے۔

### رضاعت

رسالت مآب ﷺ کو دودھ پلانے کی سعادت حلیمہ سعدیہ کو حاصل ہوئی۔ طبرانی بیہقی اور ابو نعیم وغیرہ نے حضرت حلیمہ سعدیہ کی زبانی لکھا ہے کہ میں بنو سعد کے قافلہ کے ساتھ مکہ معظمہ میں اس صورت سے داخل ہوئی کہ اس خشک سالی کے زمانہ میں ہم سب کسی بچہ کو دودھ پلانے کی جستجو میں تھے۔ میری گود میں ایک بچہ تھا اور میں ایک گدھی پر سوار تھی اور ہمارے ساتھ ایک بوڑھی اونٹنی بھی تھی، کیفیت یہ تھی کہ میرے پستان میں اتنا دودھ نہ تھا کہ اپنے بچے کو سیراب کر سکتی اور ساتھ والی اونٹنی بھی اتنا دودھ نہیں دیتی تھی کہ غذا کے کام آسکے۔ ہمارے قافلہ کی ہر ایک عورت نے رسول اکرم ﷺ کو دودھ پلانے سے انکار کر دیا تھا کہ آپ ﷺ یتیم ہیں۔ پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک بچہ دودھ پلانے کے لئے مل گیا۔ ایک میں بچی تھی کہ میں نے بھی چارو ناچار جبکہ مجھے کوئی بچہ نہ ملا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا۔ اللہ کی قسم۔ میں یہ امر پسند نہیں کرتی کہ میں اپنے ساتھ والیوں کے ساتھ اس حال میں واپس چلوں کہ میرے پاس کوئی دودھ پلانے والا بچہ نہ ہو۔ اس لئے اس یتیم بچہ کے ہاں جاتی ہوں اور اس کو لے لیتی ہوں چنانچہ جب میں حضرت عبد اللہ کے گھر میں گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرّ یتیم ایک

۱۔ روز عید منانے کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر عبادت کریں اور آج کل کے مروجہ میلاد کو اس سے کوئی واسطہ نہیں جو کہ حضرت مصنف کا مطلب ہے۔

صاف شفاف کپڑا اوڑھے ہیں ان کے جسم سے مشک کی خوشبو پھوٹی پڑ رہی ہے اور وہ سبز ریشمی بچھونے پر چت لیٹے سو رہے ہیں۔

آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میں نے آپ ﷺ کو بیدار کرنا مناسب نہ سمجھا تاہم آہستہ آہستہ آپ کے قریب پہنچی اور اپنے دونوں ہاتھ آپ ﷺ کے سینہ پر رکھے۔ تو آپ ﷺ نے تبسم فرمایا اور دونوں آنکھیں کھول کر میری طرف نظر فرمائی۔ اس وقت آپ کی آنکھوں سے وہ نور نکلا جس نے آسمانی فضا کو بھر دیا یہ دیکھ کر میں نے آپ ﷺ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ پھر آپ ﷺ کو اپنا داہنا پستان پیش کیا تو آپ نے جتنا چاہا پیا اور اب تک آپ ﷺ کی یہی کیفیت ہے کہ صرف ایک پستان سے دودھ نوش فرماتے ہیں۔

علماء کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کو یہ بتا دیا تھا کہ آپ ﷺ کا دودھ شریک بھائی بھی ہے اس لئے آپ ﷺ نے عدل و انصاف سے کام لیا۔

حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ آپ ﷺ اور آپ ﷺ کے دودھ شریک بھائی نے خوب شکم سیر ہو کر دودھ پیا۔ پھر میں آپ ﷺ کو لے کر اپنی قیام گاہ میں آئی۔ اتنے میں میرے شوہر نے ہماری بوڑھی اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے دیکھے۔ اسے دودھ کر خود بھی پیا اور مجھے بھی شکم سیر کر کے پلایا۔ پھر ہم نے آرام سے رات بسر کی۔

حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ ہماری ساتھ والیاں جب بچے لے کر مکہ سے چلنے لگیں تو میں بھی رسول اکرم ﷺ کی والدہ ماجدہ سے رخصت ہو کر اپنی گدھی پر سوار ہوئی اور آپ ﷺ میرے ہاتھوں میں تھے اس وقت میں نے دیکھا کہ میری گدھی نے کعبہ کی جانب تین مرتبہ سجدہ کیا اور پھر وہ سر اٹھا کر چلنے لگی اس کی تیز رفتاری کی یہ حالت تھی کہ جو سواریاں آگے نکل گئی تھی میری گدھی ان سے بھی آگے نکل آئی یہ دیکھ کر میرے قافلے کی ساتھی عورتوں نے تعجب آمیز الفاظ میں کہا اس کی بڑی شان ہے اس کے بعد ہم سب قبیلہ بنو سعد والے اپنے اپنے گھروں میں پہنچ گئے۔ سب کے ساتھ میں بھی جانتی تھی کہ ہمارے قبیلہ کی سرزمین ہی سب سے زیادہ قحط سالی کا شکار ہے لیکن رسول اکرم ﷺ کو لانے کے بعد ہی صبح کو دیکھا کہ ہماری بکریوں کے تھن دودھ سے پھٹے پڑے ہیں۔ چنانچہ ہم دوہتے اور خوب پیتے۔ اس کے برعکس دوسرے لوگوں کی کیفیت یہ تھی کہ کوئی ان کا دودھ دوہ ہی نہ سکتا کیونکہ ان کے جانوروں کے تھنوں میں دودھ کا کوئی قطرہ ہی نہ ہوتا۔ ہمارے ہاں دودھ کی زیادتی دیکھ کر ہماری قوم والوں

نے اپنے چرواہوں سے کہا جہاں بنت ابی ذویب کی بکریاں چرتی ہیں تم بھی وہیں چرایا کرو۔ چنانچہ چرواہوں نے وہیں چرانا شروع کیا جہاں ہماری بکریاں چرتی تھیں اس کے باوجود بھی ان کی بکریاں صبح کو بھوک کی نظر آتیں اور دودھ کی ایک بوند تک نہ دیتیں۔ اور میری بکریاں جب شام کو واپس ہوتیں تو شکم سیر اور تھنوں میں تھل تھلاتا دودھ بھرے لٹتی تھیں۔ حلیمہ اسی طرح ہمیشہ خیر و سعادت حاصل کرتی رہیں اور آپ کی برکتوں سے بخوبی فیضیاب ہوتی رہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

ترجمہ اشعار :

قبیلہ ہاشمی میں پہنچ کر حلیمہ سعدیہ اس مرتبہ پر فائز ہو گئیں جو عزت و بزرگی کے کنگرے سے افضل و برتر ہے۔

ان کے مویشیوں میں اضافہ ہوا اور ان کا گھر سرسبز ہو گیا۔ اور حلیمہ سعدیہ قبیلہ بنو سعد کے ہر فرد سے اعلیٰ و افضل ہو گئیں۔

ابن جراح کا بیان ہے کہ میں نے ابو عبد اللہ محمد بن معلیٰ ازدی کی کتاب الترقیص میں یہ شعر دیکھا ہے جس سے رسول اللہ ﷺ کو وہ لوری دیتی تھیں۔

یارب اذا اعطیتہ فابقہ وَاَعْلَهُ الی العلی وارقہ

داذ حص اباطیل العری بحقہ

ترجمہ : اے اللہ جب تو نے آپ ﷺ کو دیا ہے تو آپ کو باقی رکھ آپ کو بلند درجے دے اور ترقیاں عنایت کر اور آپ ﷺ کی برکتوں سے باطل پرست دشمنوں کو ذلیل کر دے۔ اور آپ ﷺ کی دودھ شریک بہن شیما آپ ﷺ کو گود میں لے کر یہ شعر پڑھا کرتی تھیں۔

ترجمہ شعر :

یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میرے ماں جائے نہیں اور میرے والد و چچا کی نسل سے بھی

نہیں۔ لیکن میں آپ ﷺ پر اپنے بزرگ ماموں و چچا کو قربان کرتی ہوں۔ اور اے اللہ جیسا

کہ تو نشوونما کیا کرتا ہے اس سے زیادہ اچھی آپ ﷺ کی نشوونما کر۔

بیہتی، صابونی، خطیب اور ابن عساکر وغیرہ نے حضرت ابن عباس بن عبدالمطلب

کی زبانی لکھا ہے ”میں“ (عباس) نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! آپ ﷺ کی نبوت کی



علامات نے مجھے آپ ﷺ کے مذہب اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دی ہے کیونکہ میں نے آپ ﷺ کو جھولے میں جھولتے وقت دیکھا کہ آپ ﷺ چاند سے (مناخات) باتیں کرتے اور جدھر انگلی کا اشارہ کرتے چاند اسی جانب چلتا تھا۔ اس پر جواباً کہا جی ہاں چاند مجھ سے باتیں کرتا اور میں چاند سے باتیں کرتا وہ مجھے رونے سے بچانے کے لئے بہلایا کرتا اور جب وہ عرش الہی کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کے ٹھکنے کی آواز سنتا تھا۔

صابونی کا بیان ہے کہ اس حدیث کے بعض راوی ضعیف ہیں البتہ حدیث کا متن معجزات حسن میں سے ہے۔

ماں جب بچہ کو محبت و شفقت کی باتیں کر کے بہلائے تو اسے عربی زبان و ادب میں مناخات و محادثہ کہتے ہیں۔

بیہقی و ابن عساکر نے ابن عباسؓ کی زبانی لکھا ہے حلیمہ سعدیہ نے بتایا کہ رسول اکرم ﷺ کا جب میں نے دودھ چھڑایا تو آپ ﷺ نے سب سے پہلا کلمہ یہ ادا فرمایا۔  
اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کبیرا و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا  
”اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اور تمام تعریفیں بیش در بیش اللہ ہی کے لئے ہیں۔ اور میں صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح و پاکیزگی بیان کرتا ہوں۔“

پھر جب آپ ﷺ کی کچھ عمر ہوئی تو باہر جانے لگے لیکن جب دوسرے بچوں کو کھیلتے دیکھتے تو ان میں نہ کھیلتے بلکہ ان سے علیحدہ رہتے۔ (تایم حدیث)

نیز حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ جناب حلیمہ سعدیہ کبھی بھی رسول اکرم ﷺ کو اسلئے تنہا نہ چھوڑتی تھیں کہ کہیں آپ ﷺ ڈور نہ چلے جائیں۔ ایک دن آپ ﷺ اپنی رضاعی بہن شیماء کے ساتھ دوپہر کے وقت مویشیوں کی طرف چلے گئے اور حلیمہ سعدیہ آپ ﷺ کو تلاش کرتی ہوئی وہاں پہنچیں جہاں بہن بھائی دونوں موجود تھے آتے ہی کہا اے نور درخشاں! آپ ﷺ اتنی دھوپ میں باہر تشریف لائے! جس کے جواب میں شیماء نے کہا اماں جان! میرے بھائی دھوپ میں نہیں آئے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ بادل کا ایک ٹکڑا آپ ﷺ پر سایہ افکن تھا۔ جب آپ ﷺ چلتے تو وہ بادل بھی چلتا اور جب آپ ﷺ ٹھہر جاتے تو وہ بادل بھی آپ ﷺ کے سر پر ٹھہرا رہتا۔ تا آنکہ اس بادل کے سایہ میں ہم یہاں آگئے۔

اور رسول اکرم ﷺ اپنے بچپن میں اتنی زیادہ سرعت کے ساتھ بڑے ہو رہے تھے کہ دوسرے بچے اتنی جلدی ایسی نشوونما نہیں رکھتے۔

حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ میں نے جب آپ ﷺ کا دودھ چھڑایا تو میں آپ ﷺ کو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کے پاس لائی حالانکہ میں آپ ﷺ کے فیوض و برکات کی وجہ سے آپ ﷺ کو مزید اپنے پاس رکھنے کی متمنی تھی۔ میں نے آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ سے عرض کیا اس نور و رخشاں کو ہمارے پاس ذرا بڑے ہونے تک اور رہنے دیجئے، ہمیں خوف ہے کہ کہیں مکہ کی وبا میں آپ ﷺ پر اثر انداز نہ ہوں۔ اور یہ باتیں میں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ سے مسلسل کہتی رہی۔ آخر کار انہوں نے آپ ﷺ کو ہمارے ساتھ واپس کر دیا۔ اللہ کی قسم! آپ ﷺ کی واپسی کے دو یا تین دن بعد ایک دن آپ ﷺ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ پچھواڑے کی بکریوں میں تھے کہ اچانک آپ ﷺ کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا میرے ان قریشی بھائی کے پاس دوسفید پوش آئے اور انہوں نے آپ ﷺ کا سینہ چاک کیا۔ (ناختم حدیث)

اس واقعہ شق صدر کے بعد اس خوف سے کہیں آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کو اس کی اطلاع دوسروں سے نہ مل جائے آپ ﷺ کو لئے آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور پورا ماجرا کہا جسے سن کر مادر مشفقہ نے فرمایا شاید تمہیں ان پر شیطان کے قابو پانے کا خوف ہے۔ اللہ کی قسم۔ آپ ﷺ پر شیطان کا ہرگز ہرگز کوئی اثر نہیں ہو سکتا اور میرے بیٹے کی تو شان ہی انوکھی ہے۔

### شق صدر

رسالت مآب ﷺ کے سینہ مبارک کے شق ہونے اور قلب اطہر کے دھونے کا

واقعہ چار مرتبہ ہوا۔

۱۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب کہ آپ ﷺ کا قبیلہ بنو سعد میں اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مکان کے پچھواڑے تھے۔ اور کم سن تھے۔

۲۔ دوسری مرتبہ اس وقت جب کہ آپ ﷺ کی عمر دس سال تھی۔ اور آپ ﷺ جنگل میں تھے سرور عالم نے فرمایا ہے کہ یہ واقعہ احکام نبوت کی ابتدائی منزل تھی۔

۳۔ تیسری مرتبہ جب کہ آپ ﷺ کی بعثت ہوئی اور آپ ﷺ کو تاج نبوت پہنایا گیا یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ آپ ﷺ نے اور ام المومنین حضرت بی بی خدیجہؓ نے ایک ساتھ

ایک ماہ تک اعتکاف کرنے کی نذر مانی تھی۔ اور خدا کا کرنا یہ کہ وہ مہینہ ماہ رمضان کا تھا۔ بعض کتابوں میں ہے کہ تیسری مرتبہ آپ ﷺ کا شق صدر غارِ حرا میں ہوا جس کے بعد ایک رات جب آپ ﷺ غارِ حرا سے باہر آئے تو کسی کو السلام علیکم کہتے سنا اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے فرمایا مجھے گمان ہوا کہ کہنے والا شاید کوئی جن ہو۔ چنانچہ میں تیز رفتاری کے ساتھ گھر آیا اور بی بی خدیجہؓ نے مجھے دیکھ کر کہا خیر تو ہے کیا بات ہے؟ چنانچہ پورا ماجرا میں نے کہہ سنایا جس کے جواب میں بی بی خدیجہؓ نے کہا مژدہ ہو۔ سلام سننا تو اچھی بات ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جب میں غار سے باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ جبریلؑ سورج پر سوار ہیں ان کا ایک پیر مشرق میں اور دوسرا مغرب میں ہے۔ (ختم حدیث)

۴۔ چوتھی مرتبہ آپ ﷺ کا شق صدر شبِ معراج میں ہوا۔ اگرچہ پانچویں مرتبہ بھی رسول اکرم ﷺ کا شق صدر ہوا لیکن اس کا ثبوت دستیاب نہیں ہوا۔ جس کی تحقیق میں بندہ (عبدالحق) نے ایک علیحدہ مستقل کتاب لکھی ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں۔

### غسلِ قلبِ اطہر

کئی احادیث میں مختلف اسناد کے ساتھ وارد ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے قلبِ اطہر کو سونے کے طشت میں رکھ کر آبِ زمزم سے غسل دیا گیا۔

ان تمام احادیث سے یہ امر ثابت ہوتا ہے کہ جنت کے پانی کی بہ نسبت آبِ زمزم زیادہ افضل اور پاکیزہ ہے۔ ورنہ جنت کے پانی ہی سے غسل دیا جاتا۔

سوال کیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ کے قلبِ اطہر کو طشت میں غسل دیا گیا آیا یہ آپ ﷺ کے ساتھ مخصوص ہے یا دیگر انبیاء کے ساتھ بھی یہی عمل کیا گیا؟ جس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ تابوت و سیکنہ کی حدیث میں وارد ہے کہ تابوت میں ایک ہی طشت تھا جس میں انبیاء کے دل دھوئے گئے۔ (طبری)

عماد بن کثیر نے اپنی تفسیر میں سدی کے حوالہ سے بروایت ابو مالک، حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی زبانی بھی یہی روایت تحریر کی ہے۔ علاوہ ازیں مواہب لذنیہ میں بھی یہی مرقوم ہے۔

### وفات والدہ ماجدہ

رسالتِ مآب ﷺ کی عمر جب چار سال کی تھی، بعض کہتے ہیں پانچ سال، چھ سال اور نو سال کی تھی اور ایک روایت میں ہے کہ بارہ سال ایک ماہ دس دن کی تھی کہ آپ ﷺ کی

والدہ ماجدہ نے مقام ابواء میں وفات پائی۔

بعض کہتے ہیں کہ مقام حجون میں انتقال فرمایا۔

قاموس میں ہے کہ مکہ معظمہ کے مقام نابغہ میں حضور انور ﷺ کی والدہ ماجدہ

حضرت آمنہ مدفون ہیں۔

ابن سعد نے ابن عباس کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی عمر جب چھ سال کی تھی تو آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ آپ ﷺ کو لئے ہوئے قبیلہ بنو نجار میں اپنے ماموں وغیرہ سے ملنے کے لئے مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں اور وہاں سے جب مکہ معظمہ واپس ہو رہی تھیں تو مقام ابواء میں آپ نے رحلت فرمائی۔

روایت ہے کہ حضرت آمنہ وفات پانے کے بعد رسول اکرم ﷺ پر ایمان لائیں۔ طبرانی نے اسناد کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی تحریر کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ حزن و ملال کے عالم میں مقام حجون حسب مرضی الہی ٹھہرے رہے اور پھر وہاں سے شاد ماں مراجعت فرمائی۔ اور مجھ سے کہا کہ میں نے اپنے اللہ سے دعائیں مانگیں تو اس نے میری والدہ ماجدہ کو میرے لئے زندہ کر دیا اور وہ میری نبوت پر ایمان لائیں اس کے بعد پھر وہ اپنی اصلی حالت پر لوٹ گئیں یعنی وصال فرما گئیں۔

اس حدیث کو ابو حفص بن شاہین نے اپنی کتاب النسخ والسنوخ میں بھی لکھا ہے۔ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ سرور عالم ﷺ کے والدین اسی دنیا میں زندہ کئے گئے اور وہ دونوں رسول اکرم ﷺ پر ایمان لائے۔

خطیب نے بھی یہ حدیث تحریر کی ہے۔ اور سہیلی نے یہ حدیث قلمبند کر کے آخر میں لکھا ہے کہ اس روایت کے بعض راوی مجہول الحال ہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ حدیث بحد منکر اور اس کے بعض راوی مجہول الکفیت ہیں۔

بعض علماء کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے والدین کو دوزخ سے کوئی واسطہ نہیں بلکہ دونوں کے دونوں جنتی ہیں۔

۱۔ مکہ و مدینہ کے راستہ میں ابواء ہے جہاں ۵۷۰ء میں رسالتاً ﷺ کے والد بزرگوار حضرت عبداللہ بن عبدالمطلب مدفون ہو چکے تھے اور یہیں حضور انور ﷺ کی والدہ ماجدہ نے انتقال فرمایا۔ بعض آپ ﷺ کا سنہ وصال ۵۷۴ء کہتے ہیں ۱۲ حجون پہلا حرف حائے ہطلی زبر کے ساتھ ہے اور یہ دورہ مقررہ ہے جو مکہ کی پہاڑی میں ہے۔ از مترجم۔ ۱۲

سرکارِ دو عالم ﷺ کے معزز والدین کے بارے میں سلسلہ کلام طویل ہے اور مقتضائے احتیاط یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے۔

حافظ شمس الدین بن ناصر الدین دمشقی نے کیا خوب شعر کہا ہے۔

ترجمہ اشعار :

اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم ﷺ کو فضیلت پر فضیلت یہ مرحمت فرمائی کہ از روئے مہربانی آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ اور آپ ﷺ کے والد بزرگوار کو اسی دنیا میں اس لئے زندہ کیا کہ وہ آپ ﷺ پر ایمان لے آئیں اور تمام مسلمانوں کو اس امر واقعہ کا یقین کرنا چاہئے کہ آپ ﷺ کے معزز والدین اسی دنیا میں زندہ ہو کر آپ ﷺ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگرچہ حدیث مذکورہ بالا کے بعض راوی ضعیف ہیں۔

بعض علماء نے آپ ﷺ کے عزت مآب والدین کی ایمان آوری کے ثبوت میں طویل گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کرام کو ان کی نیک نیتی کے عوض جنت میں جگہ دے۔ خیر دار ہرگز ہرگز کبھی بھول کر بھی آپ ﷺ کے عزت مآب والدین کی بُرائی نہ کرو۔ اور ان کی شان میں کوئی گستاخ کلمہ نہ کہو۔ کیونکہ اس سے رسول اکرم ﷺ کو تکلیف ہوگی۔ اور مشہور قاعدہ کلیہ بھی یہی ہے کہ جب کسی کے والدین کو بُرا کہا جائے یا ان میں کوئی بُرائی نکالی جائے تو اس گفتگو سے ان کے بیٹے کو ایذا ہوتی ہے اور رسول اکرم ﷺ نے بھی فرمایا ہے کہ متعلقہ مُردوں کو بُرا کہہ کے ان کے زندہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔

ان مطالب کے اثبات واقعات کے لئے علامہ جلال الدین سیوطی نے کئی رسالے تحریر کئے ہیں۔ بشرطِ ضرورت ان کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے۔

### دادا کا انتقال

رسالت مآب ﷺ کی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد آپ ﷺ کے دادا حضرت عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی نے آپ ﷺ کی کفالت کا بار اپنے کندھوں پر رکھا۔ اور دو سال تک کفالت کرتے ہوئے بمر ۱۲۰ یا ۱۳۰ (۵۷۷ء) میں انتقال فرمایا۔

۱۔ حضرت عبدالمطلب کا نام شیبہ اور ہاشم کا نام عمر عبدمناف کا نام مغیرہ اور قصی کا نام زید بن کلاب بن مرہ تھا (تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو تاریخ الخلفاء بیان نسب حضرت علیؑ)۔ ۱۲۔ تفصیل کے لئے دیکھئے تاریخ ذہبی۔ ۱۳۔

## چچا کی کفالت

دادا مرحوم کے انتقال کے بعد آپ ﷺ کی کفالت کی ذمہ داری حضرت ابوطالب نے جن کا نام عبدمناف تھا اپنے کندھوں پر لی۔ کیونکہ ایک طرف تو حضرت عبدالمطلب نے اپنے ان بیٹے ابوطالب کو رسالتِ نبوی ﷺ کی کفالت کرنے کی وصیت کی تھی۔ اور دوسری طرف یہ وجہ تھی کہ ابوطالب کے بھائی عبد اللہ بن عبدالمطلب آپ ﷺ پر بے حد شفیق تھے۔

ابن عساکر نے حلیمہ کی وساطت سے عرفہ کی زبانی لکھا ہے۔ میں مکہ میں سخت قحط کے زمانہ میں آیا۔ اور قریش نے حضرت ابوطالب سے کہا سخت قحط کے آثار ظاہر ہیں اور ہم لوگ قحط میں گرفتار ہیں۔ چلے بارش کی دعا کریں چنانچہ ابوطالب اپنے ساتھ ایک بیٹے کو لئے روانہ ہوئے۔ ان صاحبزادہ کی مثال اس آفتاب زیر ابر کی مانند تھی جس پر سے ابھی بادل ہٹا ہو۔ حضرت ابوطالب کے ساتھ اور بھی بعض لڑکے تھے۔ غرض کہ ابوطالب نے آفتاب تمثال فرزند کو گود میں اٹھا کر آپ ﷺ کی پیٹھ کعبہ کو لگائی اور آپ ﷺ نے آسمان کی طرف اپنی انگلی اٹھائی۔ اگرچہ آسمان پر بادل کا کوئی اثر تک نہ تھا لیکن انگشت مبارک کا اشارہ پاتے ہی ہر چہار طرف سے بادل گھر آئے اور اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ نالے بہہ نکلے اس وقت ابوطالب نے یہ اشعار پڑھے تھے۔

ترجمہ اشعار :

”سرخ و سفید رنگ والے جن کے چہرہ سے بادل سیراب ہوتے ہیں یہ تھیموں کے بچا اور فاقہ کشوں کو شکم کرتے ہیں۔ یہ مسکینوں کے ماویٰ و جائے پناہ ہیں۔ بچا کو عربی زبان میں ”ثمال“ (ث کے زیر سے) کہتے ہیں نیز ثمال کے معنی فریاد رس اور فاقہ کشوں کو شکم سیر کرنے والے کے بھی آتے ہیں۔“

اور اہل جس کا واحد ارملہ ہے اس کے معنی مسکینوں کے ہیں جو مرد و زن دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ لفظ اہل صرف عورتوں کے ساتھ مخصوص اور بکثرت مستعمل ہے۔ حضرت ابوطالب کا یہ شعر ان کے طویل قصیدہ میں موجود ہے جسے ابن اہلق نے کامل طور پر نقل کیا ہے۔

اس قصیدہ کے علاوہ حضرت ابوطالب نے رسول اکرم ﷺ کی نعت میں دیگر قصائد بھی کہے ہیں اور آپ نے رسول اکرم ﷺ کی جو عمرگی سے کفالت کی وہ مشہور ہے۔

ابن التین کا بیان ہے کہ حضرت ابوطالب کا یہ شعر اس امر کا ثبوت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی بعثت سے قبل ہی وہ آپ ﷺ کی نبوت کے قائل تھے جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بحیرئ راہب وغیرہ نے بھی رسول اکرم ﷺ کی منزلت و شان سے مطلع کر دیا تھا۔

ابن حجر عسقلانی نے ابن اسحاق کے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت ابوطالب کہ یہ شعر رسول اکرم ﷺ کی بعثت کے بعد کا ہے اور اکثر احادیث سے ثابت ہے کہ رسالت آج آپ ﷺ کی نبوت کے حضرت ابوطالب معترف تھے۔

مندرجہ بالا روایات سے بعض شیعہ حضرت ابوطالب کے مسلمان ہونے کا ثبوت لاتے اور کہتے ہیں کہ بحالت اسلام ان کی وفات ہوئی۔

فرقہ حشویہ کہتا ہے کہ حضرت ابوطالب نے بحالت کفر انتقال کیا اور اپنے اس دعویٰ کے ثبوت میں جو دلائل پیش کرتا ہے ان سے حضرت ابوطالب کا کافر رہنا کسی طرح بھی ثابت نہیں ہوتا۔ اور مواہب لدنیہ میں بھی یہی مفہوم تحریر ہے۔

ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابوطالب کی وفات کے وقت رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے چچا جان فرمائیے لا الہ الا اللہ تاکہ اس کلمہ کی بدولت روز محشر مجھ پر آپ ﷺ کی شفاعت جائز ہو جائے۔ ابوطالب نے رسول اکرم ﷺ کی اس خواہش پر جواب دیا۔ اے بھتیجے! اگر مجھے قریش کے اس طعنہ زنی کا خوف نہ ہوتا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا تو بخدا میں کلمہ اسلام پڑھ لیتا۔ البتہ اب تمہاری خوشی کے لئے پڑھ لیتا ہوں۔

حضرت ابوطالب کے وقت نزع میں لب ہلتے دیکھ کر عباسؓ نے اپنے کان ان کے منہ کے قریب کئے اور رسول اکرم ﷺ سے کہا اے بھتیجے بخدا میں نے اپنے بھائی ابوطالب کو وہ کلمہ پڑھتے سنا جو آپ ﷺ نے بتایا تھا۔ اس پر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا میں نے نہیں سنا۔

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت ابوطالب بوقت مرگ اسلام لے آئے تھے۔ ان تمام روایات کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ حضرت عبدالمطلب کی ملت پر ہی ابوطالب کی موت واقع ہوئی اور اسی قول کو صحیح کہا گیا ہے۔

اس بارے میں سلسلہ کلام بہت طول طویل ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق کہلواتا اور وہی راہ راست دکھاتا ہے۔

## سفرِ شام

۱۲ سال کی عمر میں رسول اکرم ﷺ اپنے چچا حضرت ابوطالب کے ساتھ مکہ سے سفر شام کے لئے روانہ ہوئے۔ اور جب بصرہ میں پہنچے تو آپ ﷺ کی بحیری راہب نے جس کا نام جرجیس تھا دیکھ کر پہچان لیا، اور آپ ﷺ کا دست مبارک پکڑ کر کہا۔ یہ سردارِ دو عالم ہیں۔ انہیں اللہ نے نبی بنا کر تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا ہے۔

پھر اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے جواباً کہا آپ سب لوگ جب عقبہ کی پہاڑی پر آئے تو ہر ایک شجر و حجر نے ان کو سجدہ کیا اور شجر و حجر صرف نبی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور میں تو آپ کی مہرِ نبوت کو بھی پہچانتا ہوں جو آپ ﷺ کی پشت مبارک پر آپ ﷺ کے کندھے کی نرم ہڈی کے پاس ایک سیب کی مانند ہے اور یہ تمام علاماتِ نبوت میں نے کتب قدیم میں پڑھی ہیں۔

## شادی

رسول اکرم ﷺ نے ۲۵ سال کی عمر میں حضرت خدیجہؓ کے ساتھ جن کی عمر ۴۰ سال کی تھی عقد فرمایا۔ حضرت خدیجہؓ کو زمانہ جاہلیت میں طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ رسول اکرم ﷺ نے حضرت خدیجہؓ کا مہر بیس سرخ اونٹ مقرر فرمائے آپ ﷺ کی محفل عقد میں حضرت ابوبکر صدیق اور قبیلہ مضر کے رئیس و سردار شریک تھے۔ اور حضرت ابوطالب نے یہ خطبہ پڑھایا تھا۔ (ترجمہ خطبہ)

تمام تعریفیں اور خوبیاں صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے ہمیں ابراہیمؑ کی ذریت اسمعیلؑ کی اولاد قبیلہ سعد کی نسل اور قبیلہ کے خاندان میں پیدا کیا۔ اس نے ہمیں کعبہ کا محافظ اور خدمت گار حرم بنایا۔ کعبہ وہ کعبہ جو حج کا مقام اور امن و حرمت کا مسکن ہے اور ساتھ ہی ہم کو حاکم بنایا ہے۔ بعد حمد واضح ہو کہ میرے یہ بھتیجے محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بڑی شان و شوکت کے مالک ہیں۔ کوئی ان کا ہمسر نہیں اور یہ ہر ایک پر غالب آئیں گے اگرچہ مالی طور پر طاقت ور نہیں لیکن واضح رہے کہ مال و دولت ختم ہو جانے والا سایہ اور نومولود حیلہ جوئی ہے۔

نیز حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی عزیز داری و قرابت سے تم لوگ بخوبی واقف ہو۔ حضرت ابوطالب ہی وہ شخصیت تھے جنہوں نے ام المومنین حضرت خدیجہؓ الکبریٰ کو رسول اکرم ﷺ کا پیام دیا تھا اور مال و دولت میں سے آپ کے مہرِ موقبل و مہرِ معجل کی



ادائیگی کی تھی۔ ان تمام اعمالِ حسنہ کی بدولت اللہ کی قسم آپ کے لئے زبردست خوشخبری اور نہایت بلند شان و شوکت مقدر ہے۔

### تاریخِ نبوت

رسول اکرم ﷺ کی عمر مبارک جس وقت چالیس سال کی ہوئی بعض کہتے ہیں کہ چالیس سال و چالیس دن یا چالیس سال و دس دن، یا چالیس سال و دو ماہ کی عمر ہو گئی تو پیر کے دن ۱۷ یا ۲۲ رمضان تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو رحمۃ للعالمین اور تمام جنات و انسانوں کی طرف رسول بنایا۔

ابن عبدالبر نے لکھا ہے کہ پیر کے دن ۸ ربیع الاول ۴۱ عام قبل کو اللہ نے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا، آپ ﷺ کی قدر و منزلت کو رفعت دی۔ اور تمام جہانوں میں آپ ﷺ کے ذکر کو بلند و بالا کیا۔

نبوت کے بعد آپ ﷺ ۱۳ سال مکہ معظمہ میں قیام پذیر رہے پھر حکمِ الہی آپ ﷺ نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی جہاں دس سال افادیت فرمائی اور اس مدت میں نبی سبیل اللہ جہاد کئے۔ مخلوق کو دعوتِ اسلام دی۔ اور دنیا کو نورِ ایمان و یقین کی درخشانی سے متور کیا۔

### عمر شریف

اللہ تعالیٰ کی حکمت آپ ﷺ کی بعثت میں یہ تھی کہ مخلوق ہدایت حاصل کرے، مسلمانوں کے اخلاق بلند پایہ ہو جائیں اور مذہبِ اسلام کی بنیادیں مکمل ہو جائیں۔ جب یہ کام پورے ہو گئے اور یہ مقصد کامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو اپنی طرفِ اعلیٰ علیین میں اٹھانے کے لئے۔ آپ ﷺ کو ۶۳ سال کی عمر میں اپنے پاس بلایا۔

اے اللہ درودِ سلام ہو حضرت خاتم النبیین ﷺ پر آپ ﷺ کے آل و اصحاب پر، آپ ﷺ کے تبعین و فرمانبرداروں پر اور تمام علماء و صلحاء پر۔ (آمین)



## باب دوم

### وصال سرورِ عالم ﷺ کے اوّل و آخر کے حالات

عبداللہ بن مسعودؓ کا بیان ہے کہ ہمارے نبی کریم و محبوب رب العالمین نے اپنے وصال سے ایک ماہ قبل ہمیں اپنے وصال کی اطلاع دے دی تھی۔ میرے ماں باپ اور میری جان آپ ﷺ پر قربان، جب آپ ﷺ کی جدائی کا وقت قریب آیا تو ہم سب اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے دولت کدہ میں جمع ہوئے اور سرورِ عالم ﷺ نے باوازِ بلند فرمایا تم زندہ و سلامت رہو۔ رحمتِ الہی تمہاری حفاظت کرے۔ تمہیں قوت و طاقت دے۔ تمہیں خوب رزق دے، اس نے تمہیں رفعت و بلندی دی اور منفعت بخش چیزیں مرحمت فرمائیں۔ وہی تمہارا طباہ و ماری ہے۔ اسی نے تم کو ہدایت دی اور وہی تمہیں اپنی حفاظت میں رکھے۔ لوگو! میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور منجانب اللہ بھی تم کو یہی حکم دیتا ہوں کہ صرف اسی سے خائف رہنا۔ اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ اور واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے لئے ڈرانے والا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ اللہ کی عبادت میں سرکشی نہ کرنا اور اس کے شہروں میں گردن افرازی نہ کرنا اللہ نے میری وساطت سے تم سے کہا ہے کہ آخرت میں اچھائیاں ان لوگوں کیلئے ہیں جو زمین میں فتنہ و فساد نہیں کرتے اتراتے اور اٹھتے نہیں۔ اور آخرت کی بھلائیاں ان کے لئے ہیں جو متقی و پرہیزگار ہیں۔ اور دوزخ ان لوگوں کا ٹھکانا ہے جو مغرور و متکبر ہیں۔ اس کے بعد ہم فرمانبرداروں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا آپ ﷺ ہم کو چھوڑ دیں گے؟ ارشادِ عالی ہوا جدائی کا وقت قریب ہے۔ اور میں عنقریب اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی جنت المادئی میں، سدرۃ المنتہیٰ کے پاس جانے والا ہوں وہی عمدہ رفیق و ساتھی ہے۔ حوضِ کوثر، چھلکتے جام اور پسندیدہ عیش میرا منتظر ہے۔

اس کے بعد ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ﷺ غسل کون دے گا؟

ارشاد فرمایا: میرے قریب ترین اہل۔

پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کس کپڑے کا کفن دیں؟

فرمایا: میرے موجودہ کپڑوں کا یا مصری پارچہ جات کا یا یمنی چادروں کا۔

پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ نماز کون پڑھائے؟ اتنا کہہ کر ہم رونے لگے اور سرورِ عالم ﷺ کے چشم مبارک بھی ڈبڈبا آئیں اور فرمایا صبر کرو۔ اللہ تم پر رحم و کرم کرے اور تمہیں جزائے خیر دے۔ سنو جب تم مجھے غسل دے کر کفنا چکو تو میرے اسی مکان میں میری قبر کے پاس میرا پلنگ رکھ کر تھوڑی دیر کے لئے ہٹ جانا کیونکہ سب سے پہلے مجھ پر میرے دوست جبریلؑ پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر ملک الموت تمام دیگر فرشتوں کے ساتھ دور ڈبھجیں گے پھر تم جماعت در جماعت ہو کر مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھنا۔ خبردار جھوٹی تعریف اور نوحہ و ماتم کر کے مجھے تکلیف نہ دینا سب سے پہلے میرے اہل بیت مرد، درود کی ابتدا کریں اور پھر خواتین اس کے بعد تم تمام لوگ اور پھر میرے وہ صحابہ جو اس وقت موجود نہیں ہیں مجھ پر صلوٰۃ و سلام پڑھیں اور واضح ہو کہ آج کے دن سے قیامت تک جو لوگ میرے لئے ہوئے مذہب اسلام پر باقی و برقرار رہیں وہ سب مجھ پر درود و سلام پڑھیں۔

پھر ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ قبر میں کون اتارے؟

ارشادِ عالی ہوا میرے وہ اہل، جن کے ساتھ بکثرت فرشتے ہوں گے وہ فرشتے تمہیں دیکھیں گے اور تم انہیں نہ دیکھ سکو گے۔

انوارِ تنزیل و مدارک میں ابن عباسؓ کی زبانی تحریر ہے کہ سب سے آخر میں جبریلؑ یہ آیت لے کر نازل ہوئے :

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ .

ترجمہ : ”اس وقت سے ڈرو جب کہ تم اللہ کی طرف لوٹو گے پھر ہر ایک جاندار کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔“

اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا اس آیت کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر (۲۸) سے ملا کر پڑھو۔

اس آیت کے نزول کے بعد رسول اکرم ﷺ اکیس دن بعض کے نزدیک (۸۱) اور

بعض کے تین گھنٹہ مزید ہم لوگوں میں رونق افروز رہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباسؓ نے چشم گریاں کہا مہبطِ وحی الہی کا اختتام و عید و خوف الہی پر ہوا۔

ابتداءِ علالت

روایت ہے کہ بدھ کے دن ۲۸ صفر ۱۱ھ کو رسول اکرم ﷺ کے سر مبارک میں جب

کہ حضرت میمونہؓ کے دولت کدہ میں تشریف فرما تھے۔ درد کی ابتداء ہوئی۔

بعض کے نزدیک یہ تاریخ ۲۹ صفر تھی اور بعض کے نزدیک شروع ماہ ربیع الاول تھا کتاب الوفاء میں مرقوم ہے کہ ۲۰ صفر کو آپ ﷺ علیل ہوئے اور ۱۲ ربیع الاول کو آپ ﷺ نے پردہ فرمایا۔

رزیں نے ابی حاتم کی زبانی آپ ﷺ کی تاریخ وصال ماہ ربیع الاول ۱۱ھ لکھی ہے اور تحریر کیا ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کے دولت کدہ میں آپ ﷺ کو مرض کی ابتداء ہوئی۔ بعض کے نزدیک آپ ﷺ کا قیام ام المومنین زینب بنت جحش بعض کے نزدیک ام المومنین حضرت ریحانہ کے دولت سرا میں تھا۔

خطابی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ پیر کے دن بعض کے نزدیک ہفتہ کے دن اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن علیل ہوئے۔

حاکم نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ ہفتہ کے دن اور بعض کے نزدیک بدھ کے دن مرض در دسر میں علیل ہوئے۔ اور یہی دونوں قول کتاب روضہ میں بھی تحریر ہیں۔ آپ ﷺ کے زمانہ علالت کی مدت میں لوگ باہم مختلف الخیال ہیں بعض لوگ چودہ اور بعض بارہ دن مدت علالت بتاتے ہیں اور بارہ دن تک آپ ﷺ کی علالت اکثر لوگوں کے نزدیک متفق علیہ ہے۔

سلیمان تیمی جیسے ثقہ نے آپ ﷺ کی مدت علالت دس دن بتائی ہے اور کہا ہے کہ ہفتہ کے دن ۲۲ صفر ۱۱ھ کو آپ ﷺ علیل ہوئے اور پیر کے دن بتاریخ ۲ / ربیع الاول ۱۱ھ ملک الموت کو لبیک کہا۔

کتاب الاکتفاء میں مرقوم ہے کہ حجۃ الوداع سے واپس آ کر رسول اکرم ﷺ نے ماہی ایام ذوالحجہ اور ماہ محرم و صفر مدینہ منورہ میں بسر فرماتے ہوئے لوگوں کو احکام الہی سے باخبر فرمایا۔ اور اسی زمانہ میں اسامہ بن زید کو مملکت شام کی جانب جانے کا حکم دیا اور فرمایا سرزمین فلسطین سے بلقاء و روم کی سرحدیں دور کر دیں ساتھ ہی لوگوں کو سامان جنگ مرحمت فرمایا اور مہاجرین اولین کی فوج پر اسامہ بن زید کو سپہ سالار بنا کر روانہ فرمایا۔ اور یہ آخری جمعیت تھی جسے رسول اکرم ﷺ نے بہ نفس نفیس روانگی کا حکم دیا۔ لوگ روانگی کی تیاری کر رہے تھے کہ سرور عالم ﷺ کو وہ مرض لاحق ہوا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے مطابق رحم و کرم کرتے ہوئے ۲۸ صفر یا ابتداء ماہ ربیع الاول ۱۱ھ میں آپ ﷺ کو اپنے پاس بلا لیا۔

مرض لاحق ہونے کے دن سے پہلی والی رات کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ﷺ آدھی رات کو بقیع غرقہ (مشہور قبرستان) تشریف لے گئے اور مرحومین کے لئے دعائے مغفرت کی اور وہاں سے در دولت واپس ہوئے۔ اسی رات کی صبح کو آپ ﷺ کو در ریسر کا مرض لاحق ہوا۔

آپ کے غلام ابو موسیٰ بہہ کا بیان ہے رات کے وقت سرور عالم ﷺ نے مجھے طلب کر کے فرمایا۔ اے ابو موسیٰ بہہ! مجھے حکم دیا گیا ہے کہ بقیع غرقہ کے مدفون کے لئے دعائے مغفرت کروں۔ تم میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ میں آپ ﷺ کے ساتھ چلا۔ آپ ﷺ نے بقیع غرقہ میں قدم رنجہ فرما کر کہا السلام علیکم اے اہل قبور! آنے والی صبح تمہارے لئے مبارک و مسعود ہو۔ اور تمہاری مثال ان لوگوں کی مانند نہ ہو جن کی صبح ہونے سے پہلے ہی انکو اندھیری رات فتنہ و فساد میں مبتلا کرتی ہے۔

اے آگے جانے والو سنو! ہم پیچھے آرہے ہیں۔ اس کے بعد سرور عالم ﷺ نے میری (ابو موسیٰ بہہ کی) طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے ابو موسیٰ بہہ! اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ تمام دنیاوی خزانوں کی کنجیاں لے لوں اور ہمیشہ اس دنیا میں رہوں اور چاہے جنت کو سدھاروں اور وصال حاصل کروں۔

اس پر میں (ابو موسیٰ بہہ) نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان دنیا کے خزانوں کی کنجیاں لے کر ہمیشہ ہمیشہ دنیا میں رہنے اور پھر جنت بھی لے لیجئے گا۔ یہ سن کر ارشاد عالی ہوا۔ نہیں اے ابو موسیٰ بہہ! اللہ کی قسم! میں نے تو وصال رب اور جنت کو پسند کر لیا ہے۔ اس کے بعد سرور عالم ﷺ نے بقیع غرقہ والوں کے لئے دعائے مغفرت فرمائی اور وہاں سے واپس ہونے کے بعد آپ ﷺ کو وہ مرض لاحق ہوا۔ جس میں اللہ نے آپ ﷺ کی روح قبض فرمائی۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب بقیع غرقہ سے واپس ہوئے تو میں نے کہا ”اُف دردسر“ اس پر سرور عالم ﷺ نے فرمایا تم کو نہیں بلکہ اے عائشہ! میں کہتا ہوں ”اُف دردسر“ اور ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ ہم باہم اس طرح خوش مزاجی کے ساتھ ایک دوسرے کو تسلی دیتے تھے اس کے بعد سرور عالم ﷺ نے فرمایا اے عائشہ تمہارا کیا نقصان ہے؟ اگر مجھ سے پہلے فوت ہو جاؤ تو میں تمہارا ذمہ دار ہوں، میں تمہیں کفن دوں گا۔ تمہاری نماز پڑھوں گا میں تمہیں سپرد خاک کروں گا۔ (اس پر میں (عائشہ)

نے کہا گویا میں آپ ﷺ پر بار ہو گئی ہوں) اور اللہ کی قسم میں یہ سب کروں گا۔

اس کے بعد میں اپنے گھر چلی گئی اور آپ ﷺ دوسری بیوی کے پاس اچھے بھلے تشریف لے کے گئے اور پھر اسی دن آپ ﷺ کو دوسرے کا مرض لاحق ہوا۔ اس دن آپ ﷺ حضرت میمونہ کے مکان میں تھے کہ درد کی تکلیف زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ آپ ﷺ نے تمام بیبیوں کو طلب فرما کر اجازت لی کہ میرے (عائشہؓ) کے گھر رہیں اور میں آپ ﷺ کی تیمارداری کروں چنانچہ سب کی اجازت پر آپ ﷺ حضرت میمونہ کے مکان سے میرے گھر دو آدمیوں کے سہارے اس طرح چلتے ہوئے تشریف لائے کہ آپ ﷺ کے قدموں سے زمین پر لکیریں کھینچ گئیں۔ ان دو آدمیوں میں ایک فضیل بن عباس اور دوسرے ایک اور تھے۔

فضیل بن عباس کا بیان ہے کہ دوسرے شخص میرے ساتھ علی بن ابی طالبؓ تھے اور حضرت عائشہؓ کے گھر آنے کے بعد رسول اکرم ﷺ کا مرض زور پکڑ گیا۔

ایک روایت میں ہے کہ ”اف درم“ کہنے کے بعد رسول اکرم ﷺ باہر تشریف لے گئے پھر تھوڑی دیر بعد لوگ آپ کو چادر لپیٹے میرے (عائشہؓ) کے گھر اٹھا کر لائے۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے دیگر بیبیوں کو بلا کر فرمایا میں بیمار ہو گیا ہوں اور اب اتنی سکت نہیں کہ تم بیبیوں کے پاس آمد و رفت کر سکو اس لئے مناسب یہی ہے کہ حضرت عائشہؓ کے پاس مقیم رہوں۔ اس کے بعد میں (عائشہؓ) نے رسول اکرم ﷺ کو اپنے گھر لایا حالانکہ اس سے پہلے میں نے کسی کو بھی وضو نہیں کر لیا تھا۔

ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ مرض کی شدت میں بار بار فرماتے تھے میں کل کہاں رہوں گا۔ اس سے آپ ﷺ کا مطلب یہ تھا کہ حضرت عائشہؓ کی باری کا دن کب ہوگا تاکہ وہاں پہنچ جاؤں۔ یہ سن کر تمام ازواج مطہرات نے متفقہ طور پر اجازت دی کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ جہاں چاہیں قیام فرمائیں۔ تا آنکہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کے در دولت میں آپ ﷺ قیام فرما رہے اور وہیں اللہ کو پیارے ہوئے۔

ایک روایت ہے کہ درد سر کی حالت میں رسول اکرم ﷺ ایک چادر اوڑھے تمام ازواج مطہرات کے ہاں باری باری تشریف لے گئے اور جب حضرت میمونہؓ کے گھر پہنچے تو مرض شدید ہو گیا۔ چنانچہ تمام ازواج مطہرات نے جمع ہو کر متفقہ طور پر آپ ﷺ کو زیادہ بیمار دیکھ کر آپ ﷺ کو لڈو استعمال کرایا۔ چنانچہ آپ ﷺ کو نمونیا ہو جانے کا سبب کو خوف دامن گیر ہو گیا تھا۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ سے مروی ہے کہ رسالت مآب ﷺ دورانِ علالت میں اپنی کوکھ پکڑ لیتے تھے، میں نے بھی ایک مرتبہ آپ ﷺ کی کوکھ پکڑی۔ اور اس وقت آپ ﷺ پر اتنی غشی طاری تھی کہ ہم کو آپ ﷺ کی رحلت کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ سب نے آپ ﷺ کو لدود استعمال کرایا۔ پھر رسالت مآب ﷺ کو خود بخود افاقہ ہو گیا۔ اور آپ ﷺ نے فرمایا، ہمیں یہ دوا کس نے چٹائی؟ جس پر سب نے خوفزدہ ہو کر حضرت عباسؓ کی آڑ لی اور متفقہ طور پر گھر بھر کی سب عورتوں نے حضرت عباسؓ ہی کو دوا چٹانے کا سبب ٹھہرایا۔ حالانکہ حضرت عباسؓ کا اس میں کوئی عمل دخل تو کیا مشورہ تک نہ تھا۔ اور کہا، ہمیں خوف دامن گیر ہو گیا تھا کہ کہیں آپ ﷺ کو نمونیا ہو گیا ہو۔ اور ہم نے آپ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ کے حکم پر آپ ﷺ کو لدود دیا ہے اس پر ارشادِ عالی ہوا۔ نمونیا شیطان کی وجہ سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مسلط ہونے کی شیطان کو کسی قسم کی کوئی قوت نہیں دی ہے۔ اور وہ ہرگز مجھ پر قابو نہیں پاسکتا۔ البتہ یہ سب تم عورتوں کی کارستانی ہے اس لئے تم سب کو لدود پلایا جائے اور اس حکم سے میرے چچا حضرت عباسؓ مستثنیٰ ہیں۔ غرض کہ تمام خواتین کو حتیٰ کہ حضرت میمونہؓ روزہ دار کو بھی لدود چٹایا گیا۔ پھر رسول اکرم ﷺ حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان اُمّ المؤمنین حضرت عائشہؓ کے دولت کدہ میں اس طرح تشریف لے گئے کہ حضرت فضیلؓ آپ ﷺ کی پشت مبارک کو سہارا دیئے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے قدم میمنت لزوم سے زمین پر لکریں کھینچ رہی تھیں۔ اور پھر آپ ﷺ حضرت عائشہ صدیقہؓ کے دولت کدہ ہی میں رہے کیونکہ شدتِ مرض کے باعث کہیں اور جانے کی قوت نہ رہی تھی پھر جب آپ ﷺ کے مرض میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تو آپ ﷺ اس قدر بیمار ہو گئے کہ بچھونے پر کروٹیں بدلتے تھے۔ اس وقت میں (عائشہؓ) نے کہا اگر ہم میں سے کوئی ایسا کرتا تو آپ ﷺ پسند فرماتے؟ ارشاد فرمایا یقیناً مسلمانوں پر سختی ہوتی ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان کو جب کوئی کاٹنا چھتا ہے یا اس سے کم و بیش تکلیف ہوتی ہے اور وہ توبہ کرتا ہے تو اسی کے موافق اللہ، مسلمانوں کا درجہ بلند کرتا ہے اور اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا رسول اکرم ﷺ سے زیادہ کسی پر میں نے مرض کی شدت و تکلیف نہیں دیکھی۔

روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو بے انتہا شدید بخار تھا اور بخار کی تیزی کی وجہ سے کسی کا ہاتھ جسمِ اطہر پر نہیں ٹھہر سکتا تھا اس نوبت پر رسالت مآب ﷺ نے فرمایا کسی نبی کو اتنی

زیادہ تکلیف نہیں ہوئی جتنا مجھ پر تکالیف کا بار ہے اور اللہ نے اتنا ہی ہمارے لیے ثواب بھی زیادہ مقرر کر دیا ہے۔

عبداللہ ابن مسعودؓ کا بیان ہے کہ میں رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ ﷺ کو سخت بخار چڑھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ کو شدید بخار ہے۔ ارشاد فرمایا ہاں مجھے اتنا بخار ہے جتنا تم دو آدمیوں کو ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ﷺ کے لئے دو گنا ثواب مقرر ہے؟ فرمایا ہاں یہی بات ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی امر حقیقی ہے کہ جب کسی کو کاٹنا چھوے یا اس سے کم و بیش تکلیف پہنچے تو اسی قدر اللہ اس مسلمان کے گناہوں کا اس تکلیف کو کفارہ بنا دیتا ہے جس کی مثال ایسی ہے جیسے درخت اپنے پتے گر ادیتا ہے۔ (بخاری)

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسالت مآب ﷺ کو جب زیادہ بخار ہو گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا مجھ پر پانی بھری سات مشکیں بہاؤ شاید اسی سے کچھ آرام ہو اور لوگوں سے گفتگو کر سکوں۔ چنانچہ ہم سب نے آپ ﷺ کو حضرت حفصہؓ کی مملوکہ تانے کی گیلن میں بٹھایا اور آپ ﷺ پر پانی ڈالنا شروع کیا تا آنکہ آپ ﷺ نے اشارہ سے فرمایا۔ بس ٹھیک ہے تم نے حکم کی تعمیل کر دی اور اسی دن آپ ﷺ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور حمد و ثنا کے بعد شہدائے جنگ احد کے لئے دعائے مغفرت فرمائی۔

### شدتِ مرض کے حالات

آپ ﷺ جملہ بارہ دن علیل رہے، بعض کہتے ہیں ۱۸ دن بیمار رہے۔ رسول اکرم ﷺ نے بزمانہ علالت فرمایا۔ مسجد میں آمد و رفت کے تمام دروازے سوائے ابو بکرؓ کے دروازے کے بند کر دو کیونکہ صحابہؓ کے منجملہ میرے نزدیک ابو بکرؓ ہی سب سے زیادہ احسان والے ہیں۔

ایک روایت میں رسول اکرم ﷺ کے الفاظ یہ بیان کئے جاتے ہیں کہ ابو بکرؓ کی کھڑکی کے علاوہ میری طرف مسجد میں کھلنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دو۔

عبداللہ ابن عمرؓ کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آ کر کہا یا رسول اللہ ﷺ مجھے تیمارداری کرنے اور خدمت گرامی میں حاضر رہنے کی اجازت مرحمت فرمائیے۔ اس پر



رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اے ابو بکر! اگر ازواجِ مطہرات صاحبزادیوں اور اہل بیت پر سے اپنی تیمارداری کا بوجھ ہٹا دوں تو ان پر میری وجہ سے عظیم تر مشکلات عائد ہو جائیں گی۔ اور اے ابو بکر! آپ کا اجر کار خیر تو اللہ کے ذمہ لازم ہو گیا ہے۔

آپ ﷺ کے زمانہ مرض کا ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ بحالِ علالت آپ ﷺ نے دورانِ خطبہ میں فرمایا اللہ نے بندہ کو اختیار دیا تھا کہ دنیا پسند کرے یا اللہ کے پاس چلا جائے، اس پر بندہ نے اللہ کے پاس چلے جانا منظور کر لیا ہے یہ سن کر ابو بکر صدیقؓ روئے۔ لوگوں نے آپ کے گریہ پر اظہارِ تعجب کیا کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے تو یہی فرمایا تھا کہ اللہ نے ایک بندہ کو اختیار دیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر صدیقؓ نے اپنی ذہانت سے رسول اکرم ﷺ کی رحلت اس جملہ سے معلوم کر لی۔

ایک روایت ہے کہ بزمانہ علالت سرورِ عالم ﷺ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے (۴۰) غلام آزاد کئے۔

ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنی علالت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے حضور عافیت و صحت کے لئے دستِ دعا بلند فرمائے۔ لیکن مرضِ الموت کے زمانہ میں شفاء کے لئے دعا نہیں کی بلکہ اپنی جان پر سختی برداشت کرتے اور فرماتے تھے اے نفس تیری عجب کیفیت ہے تو ہر آن بیماری سے پناہ کا مطالبہ کر رہا ہے۔

اس علالت کے دوران آپ ﷺ نے حضرت فاطمہؓ سے چپکے سے کچھ کہا تو وہ رونے لگیں، پھر چپکے سے کچھ اور کہا تو وہ ہنسنے لگیں اس پر حضرت عائشہ صدیقہؓ نے پوچھا تو کہا کہ میں رسول اکرم ﷺ کا راز افشا کرنا نہیں چاہتی۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کہا رسالت مآب ﷺ کی رحلت کے بعد میں نے جنابِ فاطمہؓ سے بوقتِ واحد، گریہ و خنداں کا سبب پوچھا تو انہوں نے جواباً کہا ”رسول اکرم ﷺ نے پہلی مرتبہ مجھ سے کہا تھا کہ جبریلؑ ہر سال تین مرتبہ مجھے قرآن سناتے تھے اور اس مرتبہ صرف دو قرآن سنائے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ میرا وقت اب پورا ہو چکا ہے۔ اور میرے اہل بیت میں سے تم سب سے پہلے مجھ سے آملو گی۔ اور میں تمہارا بہترین پیش رو ہوں“۔ یہ سن کر مجھ پر گریہ طاری ہو گیا اس کے بعد سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا ”خوش ہو جاؤ کہ تم میری امت کی خواتین کی سردار ہو“۔ اس پر میں خوش ہو گئی اور ہنسنے لگی۔

## امامت

ابتدائی علالت کے دوران آپ ﷺ نماز پڑھاتے رہے البتہ آخری تین دن آپ ﷺ نے امامت نہیں فرمائی۔ بعض کہتے ہیں کہ آپ ﷺ نے (۱۷) وقت کی نماز اپنی علالت کے آخری زمانہ میں نہیں پڑھائی۔ آپ ﷺ نے اس نماز کے وقت جس میں امامت نہیں فرمائی جب اذان ہوئی تو فرمایا حضرت ابو بکر صدیقؓ سے کہو کہ وہ امامت کریں اور لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ اور یہ نماز عشاء تھی۔

زہری نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن زمعہ سے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جاؤ کہہ دو کہ لوگ نماز پڑھ لیں۔ یہ حکم لے کر عبد اللہ بن زمعہ جب باہر آئے تو حضرت عمرؓ مل گئے اور ان سے کہا لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے۔ حضرت عمرؓ نے لوگوں کو نماز جہری پڑھائی۔ چونکہ حضرت عمرؓ بلند آواز تھے آپ کی آواز جب رسالتاً ﷺ نے سنی تو فرمایا یہ عمرؓ کی آواز ہے لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ اس پر ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اور مسلمان چیخ کر نماز پڑھنے کو مناسب نہیں سمجھتے۔ لوگوں کو چاہیے کہ ابو بکر صدیقؓ کے پیچھے نماز پڑھیں اور وہ امامت کریں۔ (کتاب منتهی میں بھی یہی مذکور ہے)

شرح مواقف میں ہے کہ بلالؓ نے اذان دی جسے سن کر رسول اکرم ﷺ نے عبد اللہ بن زمعہ سے فرمایا جاؤ ابو بکر صدیقؓ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ عبد اللہ بن زمعہ جب باہر آئے تو حضرت عمرؓ چند لوگوں کے ساتھ دروازے پر تھے جن میں ابو بکر صدیقؓ نہ تھے۔ چنانچہ میں (عبد اللہ بن زمعہ) نے کہا اے عمرؓ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیجئے حضرت عمرؓ نے نماز جہری پڑھائی اور آپؓ کی بلند آواز سن کر رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے مسلمانوں کو چیخ کر پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اور پھر تین مرتبہ فرمایا ابو بکرؓ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے اس موقع پر عبد اللہ بن زمعہ سے کہا تم نے بہت بُرا کیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم کو رسول اکرم ﷺ نے میرے نام نماز پڑھانے کا حکم صادر فرمایا ہے۔ جس کے جواب میں عبد اللہ بن زمعہ نے کہا اللہ کی قسم۔ رسول اکرم ﷺ نے مجھے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میں اپنی طرف سے کسی کو حکم دوں۔

ایک روایت ہے کہ بلالؓ اذان دینے کے بعد رسول اکرم ﷺ کی قیام گاہ کے دروازے پر جا کر کھڑے ہوئے اور کہا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پر اللہ کی رحمتیں

ہوں۔ جواب میں ارشادِ عالی ہوا جاؤ ابو بکر صدیقؓ سے کہو وہ امامت کریں۔ چنانچہ بلالؓ وہاں سے اپنا سر پکڑے باہر آئے اور کہا ہائے فریاد میری آرزو میں پامال ہو گئیں میری کمر ٹوٹ گئی۔ کاش میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور اگر پیدا ہوا تھا تو رسول اکرم ﷺ کی یہ حالتِ علالت نہ دیکھتا۔ اس کے بعد وہ مسجد میں آئے اور کہا کہ اے ابو بکر صدیقؓ آپ کو رسول اکرم ﷺ نے حکم دیا ہے کہ آپ امامت کریں۔ ابو بکر نے جب مسجد میں رسول اکرم ﷺ کو نہ دیکھا تو غش کھا کر گر پڑے کیونکہ وہ بڑے نرم دل تھے اور مسجد کو رسول اکرم ﷺ سے خالی دیکھنا برداشت نہ کر سکے اس نوبت پر عام مسلمانوں نے آہ و فغاں کی رسول اکرم ﷺ نے یہ شور سن کر حضرت فاطمہؓ سے پوچھا یہ غل کیا ہے؟ جنہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کی عدم موجودگی پر مسجد میں لوگ آہ و فغاں کر رہے ہیں۔ چنانچہ رسول اکرم ﷺ نے حضرت علی و ابن عباسؓ کو طلب فرمایا اور ان کے کندھوں کے سہارے مسجد میں تشریف فرما ہو کر نماز پڑھائی پھر ارشاد فرمایا اے مسلمانو! اللہ تعالیٰ تمہارا حافظ و نگہبان ہے۔ بخدا میں تم پر ایک خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اللہ سے ڈرو اور اس کی اطاعت سے کسی صورت انحراف نہ کرنا۔ اور میں عنقریب دنیا چھوڑنے والا ہوں۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ کا مرض جب شدت پذیر ہو گیا تو بلالؓ نماز کی اطلاع دینے آئے جس پر ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکر صدیقؓ سے کہو وہ امامت کریں تو میں (عائشہؓ) نے کہا یا رسول اللہ میرے والد بزرگوار حضرت ابو بکر صدیقؓ نہایت رقیق القلب ہیں۔ وہ آپ کی جگہ کھڑے ہو کر اپنی آواز مقتدیوں کے کانوں تک نہ پہنچا سکیں گے۔ مناسب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کو امامت کا حکم صادر فرمایا جائے۔ اس پر پھر ارشاد فرمایا جاؤ ابو بکرؓ سے کہو کہ وہ امامت کریں۔ پھر میں (عائشہؓ) نے حضرت حفصہؓ سے کہا آپ کہیے۔ چنانچہ حضرت حفصہؓ نے رسالت مآب ﷺ سے عرض کیا یا رسول اللہ! ابو بکر صدیقؓ نہایت نرم دل ہیں۔ وہ آپ ﷺ کی قائم مقامی کی صورت میں اپنی آواز لوگوں تک نہ پہنچا سکیں گے۔ حضرت عمرؓ کو حکم امامت صادر فرمائیں تو انبیب ہے۔ اس پر سرور عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا تم یوسفؑ کی عورتوں کی مانند ہو۔ جاؤ ابو بکرؓ سے کہو وہ امامت کریں۔ چنانچہ جبہ، حضرت ابو بکرؓ نے نماز پڑھانا شروع کی تھی کہ رسول اکرم ﷺ کو کچھ آفاقہ ہوا اور آپ ﷺ دو آدمیوں کے سہارے بدیں طور کے قدم مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے مسجد میں تشریف

ئے۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپ کی آہٹ پا کر ہٹنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو۔ پھر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے بائیں جانب آکر بیٹھ گئے۔ اور رسول کریم ﷺ نے اس طرح نماز پڑھائی کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ ﷺ کے دائیں جانب حضرت ابو بکر صدیقؓ کھڑے ہوئے آپ ﷺ کے مقتدی تھے اور دوسرے تمام نمازی حضرت ابو بکر صدیقؓ کی اقتدا کر رہے تھے۔

سیرۃ ابن ہشام میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ جب در دولت سے مسجد میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ ﷺ کو آگے آنے کے لئے جگہ دی اس سے حضرت ابو بکر صدیقؓ کو رسالت مآب ﷺ کی تشریف آوری محسوس ہوئی اور آپ مصلیٰ سے پیچھے ہٹنے لگے تو رسول اکرم ﷺ نے آپ کی پیٹھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا لوگوں کی امامت کرتے رہو۔ اور خود سرور عالم شریف لاکر ابو بکرؓ کے پاس بیٹھ گئے اور صدیق اکبر دائیں جانب کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں نماز کے بعد ابو بکرؓ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی خواہش کے موافق آپ کو اللہ کی نعمت و فضل کے سبب صحت مند پارہے ہیں۔ آج بنت خارجہ کا دن ہے اجازت ہو تو وہاں چلا جاؤں ارشاد فرمایا ہاں۔ اس کے بعد سرور عالم اپنی قیام گاہ میں تشریف لے گئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیقؓ "مقام سخ میں اپنے اہل و عیال کے پاس چلے گئے۔

غرض کہ تمام روایات اس امر کا ثبوت ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ہی امام تھے۔ ابن عباسؓ کی زبانی بیان کیا جاتا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنی امت میں سے صرف ابو بکر صدیقؓ کے پیچھے نماز پڑھی اور ایک مرتبہ دوران سفر میں عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھی ایک رکعت پڑھی۔

ابی سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے اپنی والدہ کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ وہ ایک جنگ میں حاضر تھے کہ دوران سفر میں سرور عالم قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا اور لوگوں نے عبد الرحمن بن عوف کی امامت میں نماز شروع کر دی۔ ایک رکعت کے بعد رسول اکرم ﷺ تشریف لائے اور عبد الرحمنؓ کی امامت میں آپ ﷺ نے ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت خود مکمل فرمائی پھر بعد نماز ارشاد فرمایا کسی نبی نے اس وقت تک رحلت نہیں کی جب تک اپنی امت کے کسی صالح شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھ لی ہو۔ (کتاب الصفوۃ میں بھی یہی مرقوم ہے)

مغیرہ بن شعبہ "کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کے ساتھ غزوہ تبوک میں شریک تھا جہاں قبل فجر آپ ﷺ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے گئے اور میں آپ ﷺ کے ساتھ پانی کا لوٹا لئے ہوئے تھا۔ رفع حاجت سے فراغت پا کر آپ ﷺ واپس ہوئے تو میں نے آپ ﷺ کے دست مبارک پر لوٹے سے پانی ڈالا۔ آپ ﷺ نے دست مبارک اور چہرہ اقدس دھویا۔ اس وقت آپ ﷺ اولیٰ جبہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے۔ پھر جبہ کی آستینوں میں سے ہاتھ نکالنے لگے لیکن جبہ کی آستین تنگ تھیں اس لئے آپ ﷺ نے جبہ کے نیچے دست مبارک نکالے اور جبہ کو اپنے کندھوں پر ڈال کر کہنیوں تک ہاتھ دھوئے پھر منہ دھو کر پیشانی اور عمامہ پر مسح کیا۔ پھر میں (مغیرہ بن شعبہ) جھک کر آپ ﷺ کے موزے اتارنے لگا تو فرمایا رہنے دو۔ میں نے وضو کر کے موزے پہنے ہیں۔ پھر آپ ﷺ نے موزوں پر مسح فرمایا۔

مغیرہ بن شعبہ سے ایک روایت یہ بھی مروی ہے کہ میں مغیرہ نے عرض کیا یا رسول اللہ شاید آپ ﷺ پاؤں دھونا فراموش فرما گئے۔ ارشاد عالی ہوا۔ نہیں بلکہ تم بھول گئے۔ اور اللہ نے مجھے یہی حکم دیا ہے (کہ وضو کر کے موزے پہننے کے بعد اگر دوبارہ وضو کیا جائے تو پہننے ہوئے موزوں پر مسح کیا جائے)۔

ابوداؤد و دارمی نے بھی یہ روایت اسی مضمون کے تحت لکھی ہے۔ مغیرہ کا بیان ہے کہ پھر رسول اکرم ﷺ اور میں سواری پر بیٹھ کر مسلمانوں کی جمعیت میں آئے جہاں نماز شروع ہو چکی تھی۔ اور عبد الرحمن بن عوف امامت کر رہے تھے۔ آپ ﷺ نے ان کے ساتھ دوسری رکعت کا رکوع کیا۔ اس دوران انہیں رسول اکرم ﷺ کی تشریف آوری کا احساس ہوا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے تو سرور عالم ﷺ نے انہیں ارشاد فرمایا کہ پیچھے نہ ہٹو بلکہ نماز پوری کرو۔ غرض کہ عبد الرحمن کے سلام پھیرنے کے بعد رسول اکرم ﷺ کے ساتھ میں بھی کھڑا ہو گیا اور ہم نے دوسری رکعت پڑھ کر نماز پوری کی۔ (مسلم و مشکوٰۃ)

رافع بن عمر بن عبید نے اپنے والد کی زبانی بیان کیا ہے رسول اکرم ﷺ جب شدتِ علالت کے باعث دولت کدہ سے باہر تشریف نہ لاسکے تو ابو بکر صدیق "کو حکم دیا کہ وہ امامت کریں علاوہ ازیں اکثر یہ بھی ہوا کہ ابو بکر صدیق "جب نماز پڑھاتے ہوتے تو رسول اکرم ﷺ تشریف لا کر ان ہی کی امامت میں نماز ادا فرماتے اور حضرت ابو بکر صدیق " کے علاوہ کسی دوسرے کے پیچھے رسول اکرم ﷺ نے نماز نہیں پڑھی۔ البتہ یہ دوران سفر ایک رکعت عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے پڑھی ہے۔

اسد الغلبۃ میں حسن بصریؒ کے حوالہ سے حضرت علیؑ کی زبانی مرقوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ابو بکر صدیقؓ کو امامت تفویض فرمائی جنہوں نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور یہ واقعہ میری موجودگی کا ہے مجھے کسی قسم کی بیماری وغیرہ نہ تھی بلکہ میں تندرست تھا۔ سرورِ عالم ﷺ نے مجھے آگے بڑھاتے تو میں امامت کرتا لیکن اللہ اور رسالت مآب ﷺ نے ابو بکر صدیقؓ سے یہی امور کی انجام دہی میں خوش تھے اسی لئے ہم نے اپنے دنیاوی معاملات کی انجام دہی میں بھی ابو بکر صدیقؓ پر اظہارِ رضامندی کیا۔

بزمانہ علالت جمعرات کو جب مزاج عالی زیادہ ناساز ہوا تو آپ ﷺ نے ایک تحریر لکھوانے کا ارادہ کر کے عبدالرحمن بن ابوبکرؓ سے فرمایا شانہ کی ہڈی یا تختی لاؤ تا کہ وہ تحریر کر دوں جس سے بحق ابوبکرؓ کوئی اختلاف نہ رہے اور جب عبدالرحمنؓ بہ تعمیل حکم عالی کوئی تختی وغیرہ لانے کے لئے جانے لگے تو فرمایا کسی مسلمان کو ابو بکر صدیقؓ سے اختلاف کرنے کی اللہ نے ممانعت کی ہے۔ (اسد الغلبۃ)

ابن عباسؓ کا بیان ہے رسالت مآب ﷺ کے وصال کے وقت درِ دولت میں کثر حضرات موجود تھے جن میں عمرؓ بن خطاب بھی تھے۔ سرورِ عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا ”کیا میں تمہیں ایک خریدے دوں جس سے میرے بعد تم گمراہی میں نہ پڑو“۔ اس پر حضرت عمرؓ نے لوگوں سے کہا اس وقت رسول اللہ ﷺ پر مرض کا سخت غلبہ ہے (آپ کو فرمان دہی کی تکلیف دینا مناسب نہیں) لوگو! تمہارے پاس قرآن کریم موجود ہے۔ جس میں ہر قسم کا علاج موجود ہے اور ہمارے لئے اللہ کی کتاب بہت کافی ہے۔ اس پر اہل بیت میں باہمی اختلاف رائے پیدا ہوا۔ بعض کہنے لگے کاغذ پیش کرو تا کہ رسول اکرم ﷺ وہ فرمان صادر فرماویں جس پر آپ ﷺ کے بعد سب متفق رہیں اور کوئی گمراہی میں نہ پڑے۔ اور بعض نے حضرت عمرؓ کی ہم نوائی کی۔ اس اختلافِ آرا کے موقع پر لوگوں کی جب آوازیں بلند ہوئیں تو سرورِ عالم ﷺ نے فرمایا ”جاؤ میرے پاس سے چلے جاؤ“۔ اتنی روایت بیان کر کے حضرت ابن عباسؓ ”کہا کرتے تھے کہ اختلافِ رائے رکھنے والوں کے شور و غل کرنے کے باعث رسول اکرم ﷺ کے نوشتہ کی تحریر و عدم تحریر کی وجہ سے نئی نئی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ (بخاری)

## ذاتی ملکیت

رسالتِ مآب ﷺ کے پاس صرف سات دینار تھے جو آپ ﷺ کے وصال میں صرف ہو گئے۔ (بخاری)

سہل بن سعد کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے پاس سات دینار تھے جو آپ ﷺ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے پاس رکھوائے تھے سخت بیماری کے دوران ایک دن فرمایا۔ اے عائشہ محولہ دینار لاؤ اس کے بعد آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی۔ سرورِ عالم ﷺ نے تین مرتبہ دینار لانے کیلئے فرمایا اور تینوں مرتبہ آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت عائشہ صدیقہؓ مشغول بکار تھیں تا آنکہ وہ ساتوں دینار حضرت عائشہ صدیقہؓ نے حضرت علیؓ کے پاس خیرات کرنے کے لئے بھیج دیئے۔ اور پیر کی شام کو جب کہ رسول اکرم ﷺ ملک الموت کو لبیک کہنے والے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کسی زوجہ مطہرہ کے پاس اپنا چراغ بھیج کر کہلویا اس میں ذرا سا تیل ڈال دیجئے (کیونکہ ہمارے گھر میں اندھیرا ہے) اور رسول اکرم ﷺ ملک الموت کو لبیک کہنے کی تیاری کر رہے ہیں۔

ایک روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنی گود میں لئے بیٹھی تھیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا اے عائشہ تم نے ان اشرفیوں کا کیا کیا؟ (جو ہم نے تمہاری تحویل میں دی تھیں) جواب دیا وہ میری تحویل میں موجود ہیں۔ فرمایا وہ خرچ کر دو۔ اس کے بعد آپ ﷺ پر غشی طاری ہو گئی اور حضرت عائشہؓ آپ ﷺ کو گود میں لئے بیٹھی تھیں کہ آپ ﷺ کو افاقہ ہوا اور پھر آپ ﷺ نے فرمایا کیا تم نے وہ اشرفیاں خرچ کر دیں؟ جواب دیا جی نہیں، تو آپ ﷺ نے طلب کر کے وہ اشرفیاں اپنی ہتھیلی پر رکھیں اور فرمایا جب تک یہ سونا میرے پاس ہے اس وقت تک وصال الہی نہ ہو۔ چنانچہ وہ سب اشرفیاں خرچ کر دیں اور اسی دن آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔

## اختیارِ قیام

حضرت عائشہؓ کا بیان ہے میں سنا کرتی تھی کہ ہر نبی کو وفات سے پہلے دنیا یا آخرت میں رہنے کا اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ جسے چاہے قبول کرے۔ اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو مرض کے آخری زمانہ میں فرماتے سنا ہے۔ ”ان لوگوں کے ساتھ (شامل کر) جن پر تو نے انعام کیا ہے جو نبی، صدیق، شہید اور مصلح حضرت ہیں اے اللہ تو بہترین رفیق ہے میرا۔“

(عائشہؓ کا) خیال ہے کہ جب آپ ﷺ نے یہ دُعا کی اسی وقت آپ ﷺ کو اختیارِ قیامِ دُنیا یا آخرت ملا تھا۔

اور ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں (جن کا ترجمہ یہ ہے) کہ میں (اختیار کرتا ہوں) رفیقِ اعلیٰ کو جنت میں اور میرے ساتھ نبی، صدیق، شہید اور صالح حضرات ہوں گے اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہوں گے۔

شدتِ مرض کے زمانہ میں وصال سے قبل آپ ﷺ نے مسواک کی۔

### حالاتِ وصال

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ اللہ کی مجھ پر یہ نعمت ہوئی کہ میرے گھر میں میری باری کے دن میری گود میں میرے سینہ پر رسالتِ مآب ﷺ نے وصال فرمایا۔

ایک روایت میں ہے کہ میری ٹھوڑی اور میری گردن پر آپ ﷺ نے سہارے لے کر وصال فرمایا اور اللہ نے میرا آپ ﷺ کا لعابِ ذہن وصالِ الہی سے پہلے ایک جا کیا وہ اس طرح کہ میرے بھائی عبدالرحمن بن سیدنا ابو بکر صدیقؓ نے اپنے ہاتھ میں مسواک لئے میرے گھر آئے۔ اور رسولِ اکرم ﷺ میری گود میں آرام فرما رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ بھائی عبدالرحمن کی مسواک کی طرف آپ ﷺ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا کہ آپ ﷺ مسواک چاہتے ہیں چنانچہ میں نے کہا یا رسول اللہ مسواک پیش کروں؟ تو سر کے اشارہ سے کہا ہاں۔ غرض کہ میں نے وہ مسواک پیش کی اور وہ آپ ﷺ کو سخت معلوم ہوئی تو میں نے کہا کہ سزوم کر دوں؟ آپ ﷺ نے سر کے اشارہ سے فرمایا ہاں۔ چنانچہ میں نے ملائم کر دی جس سے آپ ﷺ نے مسواک کی۔ نیز آپ ﷺ کے پاس ایک برتن میں پانی رکھا ہوا تھا جس میں ہاتھ ڈالتے اور چہرہ اقدس پر پھیرتے اور لا الہ الا اللہ کہتے اور فرماتے موت کے وقت سکرات ہوتی ہے پھر آپ ﷺ ہاتھ لہوئے کر کے فرمانے لگے رفیقِ اعلیٰ رفیقِ اعلیٰ تا آنکہ روح پرواز ہوئی اور دستِ مبارک زمین پر آ رہے۔

حاکم و سعد نے مختلف روایتوں کے ذریعہ لکھا ہے کہ رسولِ اکرم ﷺ کا سر مبارک بوقتِ وصالِ الہی حضرت علیؓ کی گود میں تھا۔ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے کہ حاکم کی روایات کے راوی مشتبہ ہیں۔ اس لئے ان روایات کی طرف التفات نہ کیا جائے۔

شدتِ مرض کے زمانہ میں پیر کے دن آپ ﷺ نے مسجد میں کھلنے والے دروازہ کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھتے دیکھا۔



حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی علالت کے زمانہ میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نماز پڑھاتے تھے۔ بروز وصال پیر کے دن جبکہ نماز ہو رہی تھی کہ رسول اکرم ﷺ نے کھڑے ہو کر مسجد میں کھلنے والے دروازہ کا پردہ اٹھا کر ہم لوگوں کی طرف دیکھا اس وقت چہرہ اقدس ہمیں کتاب الہی کا ایک ورق معلوم ہوا۔ آپ ﷺ مسکرائے اور ہم نے ارادہ کیا کہ نماز چھوڑ کر ہم آپ ﷺ کے دیدار سے آنکھوں کو متور اور دل کو ٹھنڈک دیں۔ اسی دوران حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اس خیال سے کہ رسول اکرم ﷺ نماز کے لئے تشریف لا رہے ہیں ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹنا چاہا لیکن آپ ﷺ نے اشارہ فرمایا نماز پڑھاتے رہئے۔ پھر آپ ﷺ نے پردہ چھوڑ دیا اور اسی دن آپ ﷺ نے رحلت فرمائی۔

شدتِ مرض کے زمانہ میں ایک دن ابن عباسؓ و علیؓ دونوں دولت کدہ رسالت مآب ﷺ سے باہر آئے جہاں ایک شخص نے مل کر پوچھا اے ابوالحسن! رسول اللہ ﷺ کا مزاج کیسا ہے؟ جواب دیا تجھے ہیں اس کے بعد ابن عباسؓ نے علیؓ سے کہا تین دن بعد تم بے سہارا ہونے والے ہو۔ پھر ذرا الگ ہو کر کہا میرا خیال ہے اور میں بخوبی واقف ہوں کہ بوقتِ وفات اولادِ عبدالمطلب کے چہرے بشر سے کیسے ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے خوف ہے کہ موجودہ علالت سے رسول ﷺ جانبر نہ ہوں گے۔ اس علئے ہمارے ساتھ چلو تا کہ آپ ﷺ سے پوچھ لیں کہ امامت کس کو دی جا رہی ہے اگر ہم لوگوں کو امیر نہ بنایا گیا ہو تو اپنے حقوق میں عمدہ قسم کی وصیت لکھو لیں۔ اس پر حضرت علیؓ نے جواباً کہا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس چلنے پر بھی اگر ہمیں امیر نہ بنایا تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ﷺ کے بعد لوگ ہمیں تسلیم کریں گے؟ اور بخدا میں کبھی بھی آپ ﷺ سے امارت کے بارے میں کوئی دریافت نہیں کروں گا۔

شدتِ مرض کے زمانہ کا ایک واقعہ یہ ہے کہ رسالت مآب ﷺ کے وصال سے تین دن پہلے تک جبریل روزانہ آتے، اور مزاج پُرسی کرتے تھے، یعنی ہفتہ اتوار اور پیر کے دن مسلسل آتے رہے اور اسی پیر کے دن ملک الموت بھی اجازت لے کر دولت کدہ کے اندر داخل ہوئے۔

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے مرض الموت کے زمانہ میں جبریلؓ نے حاضری دے کر کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کو سلام کہا ہے اور مزاج پُرسی کی ہے۔ آپ ﷺ نے جواباً کہا اے اللہ کے امین! میں علیل ہوں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا

اے جبریلؑ میں خود کو گرفتار تکلیف پارہا ہوں۔ پھر دوسرے دن جبریلؑ نے آکر کہا اے محمدؐ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور مزاج دریافت کیا ہے جو اب دیا اے اللہ کے امین! میں خود کو علیل پاتا ہوں۔ پھر تیسرے دن جبریلؑ نے آکر عرض کیا اے محمدؐ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور مزاج عالی دریافت کیا ہے۔ ارشاد فرمایا۔ اے اللہ کے امین! میں دردمند ہوں چونکہ جبریلؑ کے ساتھ ملک الموت بھی تھے جنہیں دیکھ کر رسول اللہؐ نے دریافت فرمایا یہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبریلؑ نے کہا یہ ملک الموت ہیں اور دنیا میں یہ میری آخری آمد ہے۔ آپ ﷺ کے بعد کسی آدمی کے پاس میں نہیں آؤں گا۔ چنانچہ اسی وقت رسول اللہ ﷺ پر موت کی سختی ہوئی۔ آپ ﷺ کے پاس پانی بھرا ایک برتن رکھا تھا جس میں سے تھوڑا سا پانی لے کر چہرہ اقدس پر مل لیتے اور فرماتے اے اللہ سکرات موت پر میری مدد کرنا۔

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ مرض الموت کے زمانہ میں رسول اکرم ﷺ فرماتے تھے خیر کا زہر بڑا لقمہ ہمیشہ بُرے اثرات ظاہر کرتا رہا اور اس وقت بھی رگ گلو کھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے۔ ابن الخلق نے اپنی شفاء میں تمام مسلمانوں کا خیال لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ شہید ہوئے باوجودیکہ اللہ نے آپ ﷺ کو شرفِ نبوت سے بھی سرفراز فرمایا تھا۔ حضرت عائشہؓ کا بیان ہے رسول اللہ ﷺ کلمات ذیل پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتے تھے :

أذهب الباس رب الناس اشفه وانت الشافي لا شفاء إلا شفاك  
شفاء لا يغادر سقما .

”اے لوگوں کے رب تو موجودہ تکلیف دور کر کے صحت دے دے۔ تو ہی شفا دینے والا ہے۔ تیری شفاء کے علاوہ کوئی اور صحت و شفاء نہیں ہے اور تو ایسی شفاء دے دے کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔“  
(حدیث متفق علیہ)

پھر جب رسول اللہ ﷺ زیادہ بیمار ہو گئے جس میں آپ ﷺ نے وصال الہی حاصل کیا تو میں نے (عائشہؓ) نے مذکورہ بالا دعا پڑھ کر آپ ﷺ کے جسم اطہر پر ہاتھ پھیرا۔ اور آپ ﷺ نے میرا ہاتھ ہٹا کر فرمایا اے اللہ مجھے اپنی رحمتوں میں لے لے اور (اے ملک الموت) مجھے رفیقِ اعلیٰ سے ملا دے۔ رسول اکرم ﷺ کے یہ آخری کلمات میں (عائشہؓ) نے اپنے کانوں سے خود سنے ہیں۔ (صحیح بخاری و مسلم)

ماثبت بالسنة فی ایام السنہ

سہیلی کا بیان ہے کہ میں نے واقدی کی کسی کتاب میں لکھا دیکھا ہے، کہ رسول اللہ ﷺ نے سب سے پہلا کلمہ اللہ اکبر اس وقت کہا جب کہ آپ ﷺ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس شیر خوار تھے۔ اور زندگی کی آخری گھڑی میں آپ ﷺ نے الرقیق الاعلیٰ فرمایا۔

حاکم نے انسؓ کی یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے سب سے آخر میں یہ کلمہ فرمایا۔ ”میرے رب کا جلال برتر ہے“ مواہب لدنیہ میں بھی یہی مرقوم ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ کا آخری فرمان یہ تھا کہ جزیرہ عرب میں دو مذہب باقی نہ رکھے جائیں۔

حضرت اُمّ سلمہؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے زمانہ علالت میں عام طور پر یہ وصیت فرمائی کہ نماز کی حفاظت کرو اور غلاموں کے حقوق تلف نہ کرو۔ اور بوقت وصال بھی یہی فرمایا۔ تا آنکہ سانس اُکھڑی اور آپ ﷺ نے زبان مبارک سے مزید کچھ نہ فرمایا۔ (اکتفاء)

حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے بوقت وصال الہی یہ وصیت فرمائی کہ نماز پڑھتے رہو اور غلاموں کے حقوق ملحوظ رکھو تا آنکہ آپ ﷺ کو غرغره لگا اور پھر زبان نے کچھ نہ فرمایا۔

روایت ہے کہ ملک الموت اجازت لے کر دولت کدہ میں آئے اور سامنے آ کر کہا یا احمد مجتبیٰ رسول اللہ، اللہ نے مجھے آپ کے پاس روانہ کر کے حکم دیا ہے کہ میں آپ ﷺ کے حکم کی تعمیل کروں۔ اگر اجازت دیں تو روح قبض کروں اور اگر منع فرمائیں تو روح کو رہنے دوں۔ ارشادِ عالی ہوا اے ملک الموت کیا تم ایسا ہی کرو گے؟ ملک الموت نے عرض کیا مجھے آپ ﷺ کے حکم کا پابند بنایا گیا ہے آپ ﷺ جو فرمائیں گے وہی کروں گا۔ (اس موقع پر جبریلؑ بھی موجود تھے) جبریلؑ نے کہا اللہ آپ ﷺ کا مشتاق ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ملک الموت تم کو جو حکم دیا گیا ہے اس کی تعمیل کرو۔ اس پر جبریلؑ نے کہا یا رسول اللہ دنیا میں یہ میری آخری آمدھی کیونکہ دنیا میں مجھے صرف آپ ﷺ ہی سے ضرورت پڑتی تھی۔ اب میں دنیا میں کسی آدمی کے پاس نہیں آؤں گا۔ اور پھر رسول اکرم ﷺ نے جام بقانوش فرمایا۔

اکتفاء میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کا یہ بیان مرقوم ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے سینہ پر میری گود میں رحلت فرمائی۔ اور اس مرحلہ پر کسی نے مجھ پر ظلم نہیں کیا۔ یہ میرے بھولے پن اور کم سنی کا زمانہ تھا جب کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں اللہ کو پیارے ہوئے پھر

میں نے آپ ﷺ کا سر مبارک تکیہ پر رکھ دیا اور دوسری خواتین کے ساتھ گریہ و زاری میں مصروف ہو کر منہ پیٹنے لگی۔ اور رسول اللہ ﷺ کے وصال پر ایسے تعزیت کرنے والے آئے جن کی صورت نظر نہ آتی بلکہ ان کی آواز صاف سنائی دیتی تھی۔ ان میں سے کسی نے یہ بھی کہا اے اہل بیت! آپ پر اللہ کی سلامتی، برکت اور رحمت ہو اور ہر ایک جاندار کو موت کا مزہ چکھنا لازمی ہے اور روزِ محشر تم کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ منجانب اللہ ہر مصیبت پر تعزیت کی جاتی ہے، یاد رہے کہ ہر مرنے والے اور فوت ہونے والے کو بدلہ اور اجر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرو اسی پر امید کی نظریں لگاؤ اور درحقیقت مصیبت زدہ وہ ہے، جو ثواب سے محروم رہا۔ اور تم پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ اس پر علیؑ نے کہا آپ خواتین جانتی ہیں یہ کون تھے؟ یہ خضرؑ تھے۔ (مشکوٰۃ۔ دلائل نبوت)

اس کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ کی رحلت پر صحابہ اجتماعی طور پر آپ ﷺ کے ارد گرد نوحہ کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص جس کے لمبے بال کندھوں تک تھے، تہبند باندھے چادر اوڑھے صحابہ کے مجمع کو چیرتا اندر آیا اور دولت کدہ عالی کی چوکھٹ پکڑ کر رسول اکرم ﷺ پر گریہ و زاری کرنے لگا۔ پھر صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر اس نے کہا ہر مصیبت کی منجانب اللہ ہی تعزیت دی جاتی ہے اور ہر ایک رحلت کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ (تایم حدیث) اس کے بعد وہ شخص واپس ہو گیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا اس آنے والے شخص کو ہمارے پاس لاؤ۔ لوگوں نے اسے دائیں بائیں ہر طرف تلاش کیا لیکن وہ کسی کو نہ ملا تو صدیق اکبرؓ نے کہا یہ خضرؑ تھے جو بہر تعزیت تشریف لائے تھے۔

اس روایت کو ابن ابی دینار نے حضرت علیؑ کی زبانی بیان کر کے اس پر بحث بھی کی ہے۔

امام شافعیؒ نے اس روایت کو اپنی کتاب الامم میں بھی تحریر کیا ہے لیکن اس میں خضرؑ کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور مواہب لدنیہ میں بھی اسی طرح مرقوم ہے۔

### سن وصال

ابن عباسؓ کا یہ بیان ہے کہ چالیس سال کی عمر میں رسالت مآب ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی (یعنی تاج نبوت سے سرفراز فرمایا گیا) اس کے بعد آپ ﷺ تیرہ سال مکہ اور دس سال مدینہ میں قیام فرما رہے ۶۳ سال کی عمر میں آپ ﷺ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ صحیح بخاری و مسلم

اسی طرح صحیح روایت یہ ہے کہ ابو بکر صدیقؓ و عمر فاروقؓ اور حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بھی ۶۳ سال کی عمر پائی۔

انسؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے (۶۰) سال کی عمر پائی۔ ابو حاتم نے اپنی تاریخ میں بصحت یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی عمر (۶۵) سال کی ہوئی۔

ابن عساکر نے اپنی تاریخ میں ساڑھے باسٹھ سال ابن شیبہ نے اپنی کتاب میں (۶۱، ۶۲) سال لکھتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ میرے نزدیک آپ ﷺ نے ۶۳ سال کی عمر نہیں پائی۔ اور تمام اقوال کی مطابقت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو لوگ آپ ﷺ کی عمر ۶۵ سال کی بتاتے ہیں انہوں نے سال پیدائش و رحلت دونوں کو محسوب کیا ہے۔ اور ۶۳ سال عمر بتانے والوں نے جو مشہور ہے پیدائش و وصال کا سال ترک کر دیا ہے۔ اور (۶۰) سال کی عمر کہنے والوں نے کسور ترک کر دی ہیں۔ ساڑھے باسٹھ سال کی عمر کہنے والوں نے ”اکلیل“ کی مرقومہ حدیث پر بھروسہ کیا ہے۔

اور یہ جو مشہور ہے کہ ہر نبی نے اپنے پہلے والے نبی کی نصف عمر پائی ہے۔ اور اس میں بھی کلام ہے کہ حضرت عیسیٰ نے (۱۲۵) سال کی عمر پائی اور جنہوں نے رسول اکرم ﷺ کی عمر (۶۱ یا ۶۲) سال لکھی ہے وہ شک و شبہ کے شکار ہیں۔ ان میں یقین و ایتقان کا کوئی جزو نہیں ہے۔

اور آپ ﷺ کی عمر کے بارے میں اختلاف رائے کا سبب یہ ہے کہ آپ ﷺ نے بعثت کے بعد کتنی مدت تک قیام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ (مغلطائی)

### وقتِ رحلت

پیر کے دن ۱۲ / ربیع الاول ۱۱ھ کو چاشت کے وقت رسالتاً آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔ اور یہی وہ وقت ہے جس میں ہجرت کے موقع پر مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہوئے تھے۔

ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ پیر کے دن پیدا ہوئے اور پیر کے دن مبعوث ہوئے اور پیر کے دن ہی بوقتِ ہجرت مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے پیر کے دن ہی آپ ﷺ نے حجرِ اسود اٹھا کر موجودہ مقام پر نصب کیا اور پیر کے دن اس صورت میں وصال الہی فرمایا کہ آپ ﷺ پیوند والی چادر اوڑھے ہوئے تھے۔

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ نے ہمیں ایک پیوند والی چادر اور موٹی ازار دکھاتے ہوئے فرمایا۔ یہی کپڑے زیب تن کئے ہوئے رسول اکرم ﷺ نے وصال فرمایا۔

کتاب اکتفا میں قلمبند ہے کہ بوقت وصال رسالتما آب ﷺ رونے آوازوں اور فرشتوں کی تسبیح کا غل تھا اکثر صحابہ کا بیان ہے لوگ مدہوش اور حواس باختہ تھے۔ بعض دیوانے نظر آتے، بعض سکتہ کے عالم میں خاموش تھے اور بعض فرش زمین پر تڑپ رہے تھے۔ اور حضرت عمرؓ کا یہ حال تھا کہ مجنونانہ انداز میں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے۔ بعض منافق کہتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے وفات پائی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی قسم! آپ ﷺ نے وفات نہیں پائی بلکہ آپ ﷺ اللہ کے پاس گئے ہیں اور بالکل اسی طرح تشریف لے گئے ہیں جس طرح حضرت موسیٰ بن عمران اپنی قوم سے چالیس دن پوشیدہ رہ کر پھر آگئے تھے۔ حضرت موسیٰ بن عمران کی بابت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ انتقال کر گئے اور اللہ کی قسم! حضرت موسیٰ بن عمران کی واپسی کی طرح رسول اکرم ﷺ بھی یقیناً تشریف لائیں گے۔ بد باطن لوگ جو آپ ﷺ کی وفات کے قائل ہیں ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیئے جائیں۔

ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمرؓ ننگی تلوار ہاتھ میں لئے فرماتے تھے، اگر میں نے کسی کو یہ کہتے سنا کہ رسول اللہ ﷺ انتقال کر گئے تو اس شمشیر برآن سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔

حضرت عثمانؓ غنی کی یہ کیفیت تھی کہ وہ بالکل گم سم ہو کر رہ گئے تھے انہیں بعض لوگ ادھر ادھر لے جاتے لیکن بالکل گنگ تھے اور کوئی بات ان کی زبان سے نہ نکلتی تھی اور ان پر یہ کیفیت دوسرے دن تک رہی۔

حضرت علیؓ بے حس و حرکت ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ عبداللہ بن انیسؓ رنج و الم میں ایسے علیل ہوئے کہ آپ ﷺ کے غم میں گھل گھل کر انتقال کیا۔ البتہ تمام صحابہؓ کے منجملہ حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عباسؓ سب سے زیادہ ثابت قدم اور استوار نظر آ رہے تھے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سب سے زیادہ ثابت قدم تھے لیکن جب اندر آئے تو رو رہے تھے۔ اور سانس اکھڑی ہوئی معلوم ہو رہی تھی۔ لیکن جب رسول اکرم ﷺ

کے پاس حاضری دی تو آپ ﷺ پر جھک گئے اور چہرہ اقدس سے چادر اٹھا کر کہا اے حبیب آپ کی زندگی و وصال دونوں پاکیزہ و صدا فریں۔ آپ ﷺ کے تشریف لے جانے سے خیر منقطع ہو گئی جو دوسرے انبیاء کی وفات سے منقطع نہیں ہوئی تھی۔ اے حبیب آپ تعریف و توصیف سے بالاتر اور گریہ و زاری سے بلند ہیں۔ اگر آپ ﷺ کی رحلت پر اختیار ہوتا تو ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی رحلت کے عوض ہم اپنی جانیں قربان کر دیتے۔ اے حبیب محمد ﷺ، بارگاہِ الہی میں ہمیں یاد رکھئے اور خاطرِ عالی میں ہمارا خیال رکھئے۔

ایک روایت میں ہے کہ بوقتِ وصالِ سرورِ دو عالم، لوگ مختلف رائے ہو گئے بعض آپ ﷺ کی وفات اور بعض دوبارہ زندہ ہو کر آنے کے قائل بن گئے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے رسولِ اکرم ﷺ کہ وصال پر لوگ گریہ و زاری کرنے لگے تو حضرت عمر فاروقؓ نے مسجد میں کھڑے ہو کر فرمایا۔ آئندہ تمہارے یہ الفاظ میرے کانوں تک نہ آئیں کہ محمد رسول اللہ ﷺ نے رحلت کی سنو! آپ ﷺ اللہ کے پاس اسی طرح تشریف لے گئے ہیں جیسے حضرت موسیٰ بن عمران اپنی قوم سے چالیس دن تک پوشیدہ رہ کر اللہ کے پاس گئے تھے۔ اور جو لوگ آپ ﷺ کی وفات کے قائل ہیں اللہ کی قسم ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں گے۔

عکرمہ کا بیان ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کا سلسلہ کلام جاری تھا وہ لوگوں کو ڈرارہے تھے اور ان کے منہ میں جھاگ بھرا آئے تھے۔ اس پر حضرت عباسؓ نے کہا جیسے عام طور پر لوگ سویا کرتے ہیں ویسے ہی رسولِ اکرم ﷺ بھی مجھ خواب ہیں۔ اور چونکہ وصال کر چکے ہیں اس لئے اے لوگو آپ ﷺ کی تدفین میں مشغول ہو جاؤ۔

رسالتِ مآب ﷺ کے وصال کے وقت ابو بکر صدیقؓ اپنی بیوی بنتِ خارجه کے گھر میں بمقامِ سخ یعنی مدینہ منورہ کے محلہ عالیہ میں تھے جہاں سرورِ عالم سے اجازت لے کر گئے تھے۔ جب حضرت عمرؓ شمشیر بکف ہو کر لوگوں کو ڈرانے لگے کہ رسول اللہ کی وفات کے قائل کی گردن اڑادوں گا تو یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ اپنے مکانِ سخ سے روانہ ہو کر سیدھے حضرت عائشہ صدیقہؓ کے درِ دولت پر آئے اور گھر میں داخل ہو کر رسولِ اکرم ﷺ کے چہرہ مبارک پر سے چادر ہٹا کر دیدار کیا پھر جھک کر آپ ﷺ کو بوسہ دیا اور رو، رو کر کہا رسول اللہ نے وصالِ الہی فرمایا۔ اور قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ اے رسول اللہ

آپ کی حیات و ممات دونوں بہتر و پاکیزہ ہیں۔ (ریاض از طبرانی)

بعض روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی اور اپنا منہ آپ ﷺ کے دہان مبارک پر رکھ کر موت کی خوشبو سونگھی پھر چادر اڑھادی۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ وہ در ماجد حضرت ابو بکر صدیقؓ اپنے مقامِ سخ سے جو مدینہ منورہ کے ایک سمت میں بنو حارث بن خزرج کے قبیلہ کے پاس ہے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس آئے۔ مقامِ سخ سے دولت کدہ رسالت ﷺ کا فاصلہ ایک میل کا ہے۔

روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ سخ سے واپسی پر سیدھے مسجد میں آئے جہاں سے حضرت عائشہؓ کے گھر میں آکر سب سے پہلے رسول اللہ کے پاس پہنچے جن پر یمنی چادر پڑی ہوئی تھی۔ ابو بکرؓ نے آپ ﷺ کے چہرہ اقدس سے چادر ہٹائی اور جھک کر بوسہ دیا۔ پھر رو کر کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان اللہ کی قسم! اس ایک مرتبہ کے علاوہ آپ ﷺ دو مرتبہ کی موت سے دو چار نہ ہوں گے اور ابتدائی موت جو مقدر تھی وہ آپ ﷺ نے قبول فرمائی ہے۔ (بخاری)

## دو موتیں

حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ قول کہ آپ دو مرتبہ کی موت سے دو چار نہ ہوں گے اس میں لوگ باہم مختلف رائے ہیں۔

بعض کہتے ہیں اس جملہ کا معنی بالکل واضح ہے جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ زندہ ہو کر دوبارہ تشریف لائیں گے اور لوگوں کے ہاتھ پاؤں قطع کریں گے ان کے اس گمانِ باطل کی ابو بکرؓ کے قول سے تردید ہوتی ہے۔ اور اگر لوگوں کے اس گمانِ باطل کو صحیح مان لیا جائے تو نتیجتاً لازم آتا ہے کہ آپ ﷺ دو بارہ موت سے دو چار ہوں گے۔ اس لئے ابو بکر صدیقؓ نے بتا دیا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ آپ ﷺ موت سے دو دفعہ دو چار نہ ہوں گے۔ اور ان لوگوں کے مماثل نہ ہوں گے۔ جو اپنے وطن سے ہزاروں کی تعداد میں طاعون کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اور نہ اس شخص کی مانند جن کا گزرا ایک گاؤں پر ہوا تھا۔

بعض کہتے ہیں کہ ابو بکرؓ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوسرے قبر میں پھرفرن میں پھر زندہ کئے جاتے اور منکر نکیر کے سوال و جواب کے بعد پھر ان کو موت سے دو چار کر دیا جاتا ہے ان تمام لوگوں کی مانند رسول اکرم ﷺ کو موت نہیں آئے گی۔



بعض کہتے ہیں کہ ابو بکر کے قول سے مراد یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ کی رحلت کے ساتھ آپ ﷺ کی شریعت کو موت نہیں آئے گی۔

فتح الباری میں تحریر ہے کہ ابو بکرؓ کے قول میں دوسری موت سے مراد ہے ”بے چینی“ یعنی آج کی بے چینی و بے قراری کے بعد آپ ﷺ کو آئندہ کوئی کرب و بے چینی نہ ہوگی۔

## وصال شریف

ابن عباسؓ کا بیان ہے ابو بکر صدیقؓ ”جب دولت کدہ عالی سے باہر آئے تو عمرؓ لوگوں سے مخاطبت کر رہے تھے۔ ابو بکرؓ نے کہا عمرؓ بیٹھ جائیے لیکن عمرؓ نے انکار کیا تو ابو بکرؓ نے لوگوں کی جانب متوجہ ہو کر کہا تم میں سے جو کوئی محمد ﷺ کی پرستش کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ آپ ﷺ کا وصال ہو چکا ہے اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی سن لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور اللہ نے کہا ہے :

”وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل“ . (تاختم آیت)

”حضرت محمد ﷺ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے اکثر رسول گذر چکے ہیں۔“ (تاختم آیت)

اس کے بعد ابن عباسؓ نے بیان کیا ہے اللہ کی قسم لوگوں نے آیت متذکرہ بالا کی موجودگی کو شاید طاق نسیاں بنا دیا تھا جس کی یاد وہی کے لئے ابو بکرؓ نے آیت تلاوت کی۔

صحیح بخاری میں ہے کہ ابو بکرؓ خطبہ دینے لگے تو عمر بیٹھ گئے ابو بکرؓ نے حمد و صلوة کے بعد کہا اچھی طرح سن لو جو کوئی حضور انور محمد ﷺ کی پرستش کرتا تھا وہ بخوبی یقین کر لے کہ آپ ﷺ نے وصال فرمایا۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ بھی بخوبی یقین کر لے کہ اللہ تعالیٰ زندہ و پائندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

”انك ميت وانهم ميتون وما محمد إلا رسول قد خلت

من قبله الرسل“

یقیناً آپ ﷺ کو بھی موت سے دوچار ہونا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے اور حضرت محمد ﷺ

اللہ کے رسول ہیں اور آپ ﷺ سے پہلے کے رسول گزر چکے ہیں۔

اور ابو بکرؓ کے خطبہ کے دوران میں لوگوں کی روتے روتے ہچکی بندھ گئی۔

ابن عمرؓ نے ابن شیبہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمرؓ کے پاس سے حضرت ابو بکرؓ گذرے اور حضرت عمرؓ کہہ رہے تھے رسول اللہ ﷺ نے وفات نہیں پائی تا آنکہ تمام منافقوں کو قتل کر دیں گے۔ اور دوسری روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ تمام منافقوں کو فنا کر دیں گے۔ اور یہ اس وقت تھا جبکہ منافق سراٹھا رہے تھے اور خوب خوشیاں منارہے تھے۔ ان حالات کی موجودگی کے باوجود حضرت ابو بکرؓ نے کہا لوگو! سنو حضرت محمد مصطفیٰؐ نے وصال فرمایا اور تم نے اللہ کا یہ حکم سنا ہی ہے کہ ”آپ ﷺ بھی موت سے دو چار ہوں گے اور وہ بھی“۔

اور اس کے بعد یہ آیت پڑھی :

”وما جعلنا لبشرٍ من قبلك الخلد“۔

”اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ زندہ نہیں رکھا“۔

اس کے بعد حضرت ابو بکرؓ منبر کی جانب بڑھے۔ (تایم حدیث)

انس بن مالک کا بیان ہے کہ جس وقت ابو بکرؓ کی بیعت مسجد نبوی میں ہو رہی تھی اس وقت میں نے حضرت عمرؓ کو کہتے خود سنا ہے۔ حضرت عمرؓ نے منبر رسالت مآب ﷺ پر چڑھ کر اولاً کلمہ شہادت پڑھا پھر بعد حمد الہی کہا۔ کل میں نے تم سے ایک بات کہی تھی لیکن جیسی میں نے کہی تھی وہ ویسی نہ تھی۔ اور اللہ کی قسم! میں نے جو بات کل کہی تھی اس کی صحت کا ثبوت قرآن کریم اور سنت و سیرت نبوی ﷺ میں موجود نہیں۔ مجھے امید تھی کہ ہمارے بعد تک محمد مصطفیٰ ﷺ زندگی گزاریں گے۔ یا باقی رہیں گے لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کے لئے وہ امر پسند کیا جو اس کی مرضی تھی اور اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ آپ ﷺ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزارتے رہیں اللہ نے ہمیں قرآن کریم عنایت کیا ہے اور اپنے رسول ﷺ کے ذریعہ اسے ہدایت نامہ بنایا ہے۔ اس لئے احکام قرآن پر مضبوطی سے عمل کرو اور جس طرح رسول اللہ ﷺ نے ہدایت فرمائی اس پر عمل پیرا ہو۔

ابونصر کا بیان ہے کہ حضرت عمرؓ نے ابتداً جو کچھ کہا وہ سب کچھ غم و الم کے سبب سے فتنہ و فساد برپا ہونے کے خوف، اور منافقوں کے چڑھ دوڑنے کے خیال سے کہا۔ پھر جب انہوں نے حضرت صدیقؓ کی قوت یقینی کا مشاہدہ کیا اور اللہ کے احکام، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آپ ﷺ کو بھی موت سے دو چار ہونا ہے اور ان سب کو بھی ”ابو بکرؓ کی زبانی مکرر سنے اور شدت غم میں ڈوبے ہوئے اثرات سے دل کو یک گونہ تسلی ہوئی تو اپنے کلمات اولین کی تردید

و توجیہ کرتے ہوئے حقیقی امر واقعہ بیان کیا کہ حضرت محمد ﷺ نے وصال الہی فرمایا ہے۔

ابن عسا کرنے ابو ذر و ویب ہذلی کی زبانی لکھا ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی علالت کی ہمیں اطلاع ملی جس سے ہمارے قبیلہ والے حیران و پریشان ہو گئے اور یہ شب دراز ہم نے آنکھوں میں کائی البتہ صبح کے وقت قدرے غنودگی آگئی تھی اس وقت ہاتھ غیبی نے یہ اشعار کہے۔

خَطْبُ اجَلْ اناخ بالاسلام بَيْنَ النَّخِيلِ مَقْعَدِ الاطامِ

قَبْضِ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ فَعْيُونَا تَبْدَى الدَّمُوعُ عَلَيْهِ بِالاسْجَامِ

یہ نہایت حادثہ ہے کہ باغات اور پختہ مکانوں کی نشست گاہوں میں اسلام بیٹھ گیا حضرت محمد مصطفیٰ نے وصال فرمایا۔ اور آپ ﷺ کی جدائی کے صدمہ میں ہماری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔

اور میں ڈر کر نیند سے چونک پڑا اور پھر میری نظر آسمان کی طرف اٹھی جہاں مجھے سعد ذابح (مشہور ظالم سیارہ) دکھائی دیا اس پر مجھے معلوم ہوا کہ آپ ﷺ کی روح پرواز کر گئی یا قریب الوصال ہیں چنانچہ میں تیزی سے مدینہ آیا جہاں مدینہ والوں کو دھاڑیں مار مار کر اس طرح روتے دیکھا جیسے حاجی بحالت احرام لبیک پڑھتے ہیں میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کیوں رورہے ہو؟ تو کسی نے جواباً کہا کہ محمد مصطفیٰ نے وصال فرمایا ہے۔

علامہ دبیری نے اپنی کتاب حیوۃ الحیوان میں علامہ واقدی کے شیوخ کے حوالہ سے لکھا ہے لوگوں کو رسول اکرم ﷺ کی رحلت میں جب شک و شبہ ہوا تو اسماء بنت عمیس نے اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے کندھوں کے درمیان رکھ کر کہا رسول اکرم ﷺ نے رحلت فرمائی کیونکہ آپ ﷺ کے کندھوں کے درمیان سے مہربوت اٹھالی گئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ﷺ وصال فرما چکے ہیں۔ (امام بہقی و ابو نعیم)

حضرت ام سلمہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے وصال کے وقت میں نے اپنا ہاتھ آپ ﷺ کے سینہ انور پر رکھا تھا۔ باوجودیکہ میں کھانا بھی کھاتی ہوں اور وضو بھی کرتی ہوں لیکن اب تک میرے ہاتھ سے مشک آمیز خوشبو نہیں گئی ہے۔

ابو نعیم نے حضرت علیؓ کی زبانی تحریر کیا ہے کہ وصال سرور عالم ﷺ کے بعد ملک الموت گریہ کنناں آسمان پر چڑھ گئے۔ اور کہا بخدا! اللہ نے آپ ﷺ کو معبود فرمایا تھا، پھر

حضرت علیؑ نے فرمایا قسم بخدا! میں نے اپنے کانوں منادی کو یہ کہتے سنا ہے یا محمدؐ۔ تمام مصائب آپ ﷺ کی جدائی کی تکلیف کی بہ نسبت کوئی حیثیت نہیں رکھتیں بلکہ سب ادنیٰ اور معمولی ہیں۔

سنن ابن ماجہ میں مرقوم ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے اپنی علالت میں فرمایا۔ لوگو اور مسلمانو! اگر تم کسی مصیبت سے دوچار ہو تو اپنی مشکل میں میری مصیبت کو پیش نظر رکھو۔ کیونکہ میرے بعد میرا کوئی امتی اس مصیبت و مشکل سے دوچار نہ ہوگا۔ جسے میں برداشت کرتا رہا ہوں۔ اور میری رحلت نہایت سخت گراں بار ہے۔

### غسل شریف

سرورِ عالم ﷺ کے وصال کے بعد جب تمام لوگ امر خلافت پر مجتمع ہو گئے اور حضرت ابوبکرؓ کو خلیفہ مان کر آپ ﷺ کی خلافت حقہ پر بیعت کر چکے تو تمام صحابہ غسل شریف اور تجہیز و تکفین کی جانب متوجہ ہوئے۔

روایت ہے کسی نے ابن عباسؓ سے پوچھا رسول اکرم ﷺ کو کس طرح غسل دیا گیا؟ جواب دیا کہ والد ماجد حضرت عباسؓ نے یمنی کپڑے کا ایک پردہ ڈالا اور یہ پردہ ڈالنے کی رسم تمام صالح مسلمانوں میں رائج ہو گئی پھر ہاشمیوں سے کہا آپ دیوار اور پردہ کے درمیان سے ہٹ جائیے۔ پھر والد ماجد پردہ کے اندر گئے آپ نے حضرت علیؓ، فضیل، ابوسفیان بن حارث اور اسامہ بن زیدؓ کو طلب فرمایا جب یہ سب لوگ پردہ کے اندر آ گئے تو ان پر اور پردہ کے باہر واہوں اور سب گھر والوں پر نیند طاری ہو گئی۔ اتنے میں ندائے غیب نے متنبہ کیا اور کہا رسول اکرم ﷺ کو غسل نہ دو کیونکہ آپ ﷺ بالکل پاکیزہ ہیں۔ اور اہل بیت نے بھی کہا کہ یہ ندائے غیبی چنانچہ آپ ﷺ کو غسل نہ دیا جائے لیکن والد ماجد نے فرمایا کہ ایک غیر آواز کی وجہ سے ہم سنت نبوی کو ترک نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر سب پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور ندائے غیبی نے یہ کہہ کر خبردار کیا کہ آپ ﷺ کو کپڑے پہنے ہوئے غسل دو۔ اس پر اہل بیت نے کہا ہم یہ بات نہیں مانتے۔ اور والد ماجد نے فرمایا ہاں مع لباس کے غسل نہیں دیں گے۔

### کیفیت غسل شریف

پردہ کے اندر حضرت عباسؓ اور حضرت علیؓ جا کر چارزانوں ہو کر بیٹھے اور رسول اکرم ﷺ کو اپنے درمیان بٹھانا چاہا کہ ندائے غیبی آئی۔ آپ ﷺ کو پیٹھ کے بل چت لٹا دو اور پردہ پوشی

کرتے ہوئے غسل دو۔ چنانچہ جس تختہ پر بیٹھے تھے اس سے الگ ہو کر اس پر آپ ﷺ کو چیت لٹا دیا۔ سر مبارک مغرب کی جانب اور پائے اقدس مشرق کی طرف تھے۔ آپ ﷺ کے جسم اطہر پر قمیض تھی جس کی آستین ایک طرف سے کھلی ہوئی تھی اسی پر سے آپ ﷺ کو غسل دیا آپ ﷺ کو خالص پانی سے غسل دیا گیا اور پھر کافور کی خوشبودی گئی۔ غسل کے بعد آپ ﷺ کی قمیض اور آستین نچوڑی۔ سجدہ گاہ اور جوڑوں پر خوشبو ملی اور آپ ﷺ کے چہرہ، ہاتھوں اور ہتھیلیوں کو بحیثیت وضو خالص پانی سے دھویا گیا۔ اس کے بعد قمیض اور کھلی ہوئی آستین کے اوپر ہی کفن پہنایا اور عوداگر کی تین مرتبہ دھونی دی۔ پھر آپ ﷺ کو اٹھا کر تابوت میں لٹایا اور سب تسبیح پڑھنے لگے۔

ابن عباسؓ کہا کرتے تھے اپنے نبی کا پردہ کرو، اللہ تمہاری پردہ پوشی کرے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے رسالتآب کے غسل شریف پر لوگوں کا باہمی اختلاف ہوا کہ آپ ﷺ کو لباس پہنے غسل دیں یا لباس اتار کر جب اختلاف باہمی نے شدت اختیار کی تو ہم سب پر نیند غالب آگئی اور حالت یہ ہوئی کہ ہر ایک کی ٹھوڑی اس کے سینہ سے لگ گئی اتنے میں ہمارے گھر کے کونے سے آواز آئی اور ہمیں نہیں معلوم کہ کہنے والا کون تھا جس نے کہا رسالتآب کو لباس پہنے ہوئے ہی غسل دو۔ چنانچہ آپ ﷺ کے غسل شریف کے لئے لوگ کھڑے ہو گئے اور آپ ﷺ کو لباس پہنے ہی غسل دیا۔ اور بوقت غسل آپ ﷺ قمیض زیب تن کئے ہوئے تھے۔

مشکوٰۃ میں ہے کہ آپ ﷺ کی قمیض کے اوپر سے پانی ڈالا گیا اور قمیض ہی کے ذریعہ جسم اطہر کو ملا گیا۔ (دلائل نبوت از بیہقی)

حضرت عائشہ صدیقہؓ فرماتی تھیں اگر مجھے اپنے حال سے خبر ہوتی جو بعد کو معلوم ہوا تو سرور عالم کو ازواج مطہرات کے سوائے کسی اور سے غسل نہ دلاتی۔

### غسل دینے والے

اکثر لوگوں کا بیان ہے کہ آپ ﷺ کو غسل دینے کی آپ ﷺ کے چچا زاد بھائی حضرت علیؓ کے چچا حضرت عباسؓ ابن عبدالمطلب اور ان کے دونوں صاحبزادوں فضل و ثمامہ آپ ﷺ کے آزاد کردہ غلام اسامہ بن زید اور آپ ﷺ کے غلام شقوان نے ذمہ داری لی تھی۔ جب سب لوگ آپ ﷺ کو غسل دینے کے لئے جمع ہو گئے تو اوس بن خولی انصاری جن کا

تعلق عوف بن خزرج کے قبیلہ سے تھا اور جو جنگ بدر میں شریک رہ چکے تھے انہوں نے دروازہ کے باہر سے حضرت کو پکارا اور کہا اے علیؑ میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے رسالتِ آب کے غسل شریف میں شرکت کی درخواست کرتا ہوں۔

حضرت علیؑ نے کہا آ جاؤ۔ چنانچہ وہ بھی سرپردہ میں آگئے لیکن غسل دینے میں کچھ حصہ نہ لے سکے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بن خوی انصاری، پانی اٹھا کر دیتے تھے۔

ایک روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے جسم اطہر پر قمیض تھی اور بوقت غسل شریف حضرت علیؑ اپنے سینہ سے آپ ﷺ کے جسم اطہر کو ٹیک لگائے ہوئے تھے اور حضرت عباسؑ، فضلؑ و قثم بشمولیت علیؑ آپ ﷺ کے پہلو بندنے کی خدمت سرانجام دے رہے تھے اور اسامہ و شقوان اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے ہوئے پانی ڈال رہے تھے۔ کیونکہ حضرت علیؑ کی روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا اے علیؑ سوائے تمہارے مجھے کوئی دوسرا غسل نہ دے۔ اور ایک دوسری روایت حضرت علیؑ کی زبانی یہ ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ اے علیؑ تمہارے سوا کوئی دوسرا مجھے نہ نہلائے اور میرا ستر عورت نہ دیکھے ورنہ اس کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہے گی۔ (سیرۃ مغلطائی)

## آبِ غَسَلِ

کتاب الشفاء میں مرقوم ہے حضرت علیؑ اس پانی سے جس میں بیری کے پتے تھے آپ ﷺ کو غسل دے رہے تھے اور رسول اکرم ﷺ کے جسم اطہر سے وہ چیز دکھائی نہ دی جو عام طور پر مردوں کے جسم پر دکھائی دیتی ہے۔ اور حضرت علیؑ کہتے تھے۔ آپ ﷺ پر میرے ماں باپ قربان آپ ﷺ کی حیات و ممات دونوں پاکیزہ ہیں۔

ابن ماجہ نے جید اسناد کے ساتھ حضرت علیؑ کی زبانی مرفوعاً لکھا ہے کہ جب میں (علیؑ) انتقال کروں تو مجھے میرے مملوکہ کنوئیں ”غرس“ کے پانی کی سات مشکوں سے غسل دینا۔

نہا یہ میں مرقوم ہے کہ لفظ غرس کے غین پر زبر اور ر، س دونوں ساکن ہیں اور یہ وہ کنواں ہے جس کا پانی رسول اکرم ﷺ نوش فرماتے تھے۔

ابن نجار کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رات میں نے خواب میں دیکھا کہ صبح سویرے جنت کے کنوئیں پر ہوں چنانچہ صبح ہوئی تو آپ ﷺ چاہ غرس پر تشریف لے گئے اس

پانی سے وضو کیا اور اس میں لعاب دہن چڑکایا۔ (تاریخ مدینہ از سنودی)  
سیرۃ مغلطانی میں مذکور ہے کہ حضرت علیؑ نے اپنے ہاتھ پر کپڑا پیٹ کر آپ ﷺ کی قمیض کے نیچے ہاتھ ڈال کر ملا۔ آپ ﷺ کو پہلی مرتبہ سادہ پانی سے اور دوسری مرتبہ بیری کے آمیزہ پتوں کے پانی سے اور تیسری مرتبہ کافور آمیختہ پانی سے غسل دیا گیا۔

## آب غسل کی برکت

جعفر بن محمد کا بیان ہے بوقت غسل جب رسالت آب کے حلقہ چشم پر پانی رہ جاتا تو حضرت علیؑ اپنی زبان سے اسے پی لیا کرتے تھے۔

شواہد نبوت میں مذکور ہے کہ کسی نے حضرت علیؑ سے ان کے فہم و ادراک اور قوی الحافظ ہونے کا سبب پوچھا تو جواب دیا۔ رسول اکرم کو غسل کے وقت آپ ﷺ کے حلقہ چشم میں جو پانی رہ جاتا میں اسے اپنی زبان سے چوس کر پی جاتا تھا۔ اور میری دانست میں اسی کی برکت سے قوت حافظہ عطا ہوئی ہے۔

کتاب الشفاء میں مذکور ہے کہ حضرت علیؑ اور فضل بن عباسؑ ان دونوں نے غسل دیا۔ اور بوقت غسل شریف آواز آئی اے علیؑ اپنی نگاہ آسمان کی طرف کر لو۔

## کفن مبارک

غسل شریف کے بعد آپ ﷺ کے جسم اطہر کو خشک کیا گیا پھر آپ ﷺ کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا جس میں دو سفید کپڑے تھے اور ایک یمنی چادر تھی۔

اکتفا میں امام ترمذی کا قول مذکور ہے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہؓ سے کہا آپ ﷺ کو دو کپڑوں اور ایک یمنی چادر کا کفن دیا گیا۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہؓ نے کہا کئی چادریں منگوائیں تھی لیکن یہ آوردہ چادریں واپس کر دیں اور ان کا کفن نہیں دیا۔

ابن عباسؓ کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ کو دو معمولی قسم کی اور ایک نجرانی چادر کا کفن دیا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو تین عدد سفید سوتی چادروں کا کفن دیا گیا۔ جو علاقہ یمن کے شہر ححول کی ساختہ تھیں، اور آپ ﷺ کے کفن میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔

بخاری میں حضرت عائشہؓ کی زبانی تحریر ہے کہ میں (عائشہؓ) والد بزرگوارؓ ابوبکر صدیقؓ کی علالت کے زمانہ میں ان کے پاس گئی وہ اپنی علالت کے زمانہ میں جو کپڑے پہنے تھے میں نے دیکھے آپ کے پہنے ہوئے کپڑے پر زعفران کا دھبہ تھا۔ والد بزرگوار نے مجھ سے فرمایا اس کپڑے کو دھو کر اس میں مزید دو کپڑوں کا اضافہ کر کے ان تین کپڑوں کا مجھے کفن دے دینا میں نے کہا یہ تو پرانا ہے، فرمایا مردہ کی بہ نسبت زندہ نئے کپڑے کا مستحق ہے کیونکہ وہ کام کاج کرتا ہے۔ امام ابو عبد اللہ، مالک بن انسؒ نے اپنی مؤطا میں لکھا کہ رسول اکرم ﷺ کو تین کپڑوں کا کفن دیا گیا۔ اور تمام لوگوں کا اس امر یہ اتفاق ہے کہ ﷺ کے کفن میں قمیض و عمامہ شامل و محسوب نہیں تھے۔

ایک مفرد حدیث میں جسے یزید بن ابی زیاد نے بیان کیا ہے مرقوم ہے کہ آپ ﷺ کفن میں کافور ملایا گیا۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ (سیرۃ مغلطائی)

عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی بیان کیا کہ آپ ﷺ کو تین سفید سوتی روں کا کفن دیا گیا۔ اس روایت کو نسائی میں بھی عبدالرزاق کے ذریعہ معمر کے واسطہ زہری حوالہ عروہ کی روایت سے تحریر کیا ہے۔ نیز اس روایت کو ائمہ سنت نے ہشام بن عروہ کے یہ حضرت صدیقہؓ کی زبانی لکھا ہے جس میں اتنا اضافہ ہے کہ آپ ﷺ کے کفن کی چادریں نہ تھیں۔ اور آپ ﷺ کے کفن میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔

بیہقی نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ کو تین نئے کپڑوں کا کفن دیا گیا جو سحول کے بنے تھے۔ سحول سین پرزبر اور پیش دونوں کے ساتھ آتا ہے۔

امام نووی نے لکھا ہے کہ سحول کے سین پرزبر ہی زیادہ مشہور ہے اکثر کی رائے یہی ہے کہ سحول شہر کی تیار کی ہوئی تھیں اور سحول وہ شہر ہے جو مملکت یمن میں ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ سحول کے معنی دھوبی کے ہیں یعنی وہ چادریں دھلی ہوتی تھیں۔ اور سحول سین کے پیش کے ساتھ یہ جمع ہے سخل کی جس کے معنی ہیں صاف سفید شفاف کپڑا جو سوتی ہو۔ اور اس طرح لفظ سحول کا استعمال بالکل شاذ ہے کیونکہ جمع دینے کی صورت میں کوئی جمع منسوب نہیں ہوتی۔ بعض کہتے ہیں کہ سخل سین کے پیش سے ایک گاؤں کا نام ہے۔

گرسف کے معنی ہیں روئی اور سوت۔



ترمذی نے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے کفن کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں جن کے مجملہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت بالکل صحیح ہے اور اکثر و بیشتر علماء از قسم صحابہ و غیر صحابہ کا اسی پر عمل درآمد ہے۔

اور یہی نے اپنی ”خلائیات“ میں ابو عبد اللہ یعنی حاکم کی زبانی لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب، ابن عباس، حضرت عائشہ صدیقہ، ابن عمر، جابر بن عبد اللہ اور عبد اللہ بن مغفل رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بیان یہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو جن تین کپڑوں میں کفن دیا گیا اس میں قمیض و عمامہ نہ تھا۔

احمد نے اپنی مسند میں عبد اللہ بن محمد بن عقیل کے ذریعہ ابن حنفیہ کی وساطت سے حضرت علی کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو سات کپڑوں کا کفن دیا گیا۔

ابن حزم کہتے ہیں کہ روایت کے یہ الفاظ کہ کفن میں قمیض و عمامہ نہ تھا اس کے معنی سمجھنے میں ابن عقیل اور بعد والوں کو وہم و شک ہو گیا ہے۔ حالانکہ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ آپ ﷺ کے کفن میں قمیض و عمامہ نہ تھا یعنی کفن دینے میں بصورت کفن آپ ﷺ کو قمیض نہیں دی اور عمامہ بھی نہیں لپیٹا اور ایک دوسرے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ ﷺ کو جن تین کپڑوں کا کفن دیا گیا وہ قمیض و عمامہ کے علاوہ تھے۔

شیخ تقی الدین ابن دینق العید کا بیان ہے کہ پہلے مرادی معنی ہی واضح ہیں کہ آپ ﷺ کو کفن میں قمیض و عمامہ نہیں دیا گیا۔

امام نووی نے شرح مسلم میں لکھا ہے کہ پہلے معنی ہی کے تمام جمہور علماء قائل ہیں اور حدیث کے ظاہری الفاظ بھی یہی بتا رہے ہیں اور یہی درست ہے کہ آپ ﷺ کے قمیض و عمامہ نہیں دیا گیا۔ اور دوسرا قول بالکل ضعیف ہے کیونکہ حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ آپ ﷺ کو کفن قمیض و عمامہ دیا گیا ہو۔

علماء کا بیان ہے کہ مذکورہ بالا روایت ہے کے معنی علماء کے باہمی اختلاف کے سبب یہ اختلاف رونما ہے کہ کفن میں قمیض و عمامہ کا ہونا مستحب ہے یا نہیں؟

بعض علماء کہتے ہیں اگر قمیض و عمامہ کو بھی شریک کیا جائے تو کفن کے پانچ کپڑے ہو جاتے ہیں۔ جسے جنابی علماء مکروہ کہتے ہیں۔ اور شافعیوں کے نزدیک یہ جائز ہے لیکن غیر مستحب ہے اور خواتین کے لئے تاکید کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سات کپڑوں تک کفن دیا جائے

جو مکروہ نہیں ہے البتہ کفن میں سات کپڑوں سے مزید کا اضافہ فضول خرچی ہے۔  
 علماء احناف کا مسلک یہ ہے کہ کفن میں صرف تین کپڑوں ازار، قمیض اور کفنی یعنی  
 لفافہ ہیں اور روایت تکفین میں اس امر کا بین ثبوت ہے کہ جس قمیض کو پہنے ہوئے آپ ﷺ کو  
 غسل شریف دیا گیا وہ بوقت تکفین اتار لی گئی تھی۔

امام نووی نے اپنی شرح مسلم میں تحریر کیا ہے کہ علماء احناف کا مسلک ہی بالکل  
 درست ہے جو اعتراضات سے بلند ہے اور سنن ابوداؤد کی روایت جو ابن عباسؓ کی زبانی یہ ہے  
 کہ آپ ﷺ بوقت وصال زیب تن کئے ہوئے تھے، یہ سنن ابوداؤد کی متذکرہ حدیث بالکل  
 ضعیف ہے جس سے کسی طرح بھی صحت حجت و دلیل نہیں لائی جاسکتی کیونکہ اس میں ایک  
 راوی یزید بن زید بھی ہے جس کو تمام محدثین نے ضعیف راوی لکھا ہے۔ اور جبکہ ثقہ راویوں کی  
 روایت ہو تو وہ بالکل ہی ضعیف و ناقابل اعتماد ہے۔

### نماز جنازہ

امام محمدؒ نے لکھا ہے کہ سرور عالم کی نماز جنازہ لوگوں نے فردا فردا پڑھی۔ نماز جنازہ  
 کسی امام کے ساتھ باجماعت نہیں پڑھی گئی مسلمان گروہ درگروہ آتے نماز پڑھتے اور چلے  
 جاتے کیونکہ حضرت عمرؓ فرما رہے تھے کہ جنازہ کے پاس سے چلتے جائیے۔

اور روایت ہے کہ آپ کے جنازہ پر سب سے پہلے حضرت علیؓ و عباسؓ و بنو ہاشم نے  
 نماز پڑھی پھر مہاجرین و انصار پھر دوسرے لوگوں نے فردا فردا نماز پڑھی اور انہوں نے  
 باجماعت نہیں پڑھی اس کے بعد خواتین اور آخر میں بچوں نے نماز پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ رسالتاً ﷺ نے وصیت فرمائی تھی کہ سب سے پہلے  
 مجھ پر میرا رب صلوٰۃ پڑھے گا پھر جبریل، میکائیل، اسرافیل یکے بعد دیگرے اور پھر ملک  
 الموت اپنے لشکر سمیت پھر دوسرے فرشتے گروہ درگروہ آکر صلوٰۃ و درود پڑھیں گے۔ اس  
 صلوٰۃ و درود کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام فرشتے دعا مانگیں گے اور چلے جائیں گے۔

ابن ماجہ نے لکھا ہے جب یہ پوچھا گیا کہ آپ ﷺ پر کتنی مرتبہ صلوٰۃ پڑھی گئی تو  
 جواب دیا (۷۲) ہزار مرتبہ۔ اس پر کسی نے پوچھا یہ کیسے معلوم ہوا۔ جواباً کہا اس صندوق کی  
 کتابوں کے ذریعہ جو امام مالکؒ کی خودنوشت تھیں۔

علاوہ ازیں نافع نے ابن عمرؓ کی زبانی بھی یہی بیان کیا ہے (سیرۃ مغلطائی)  
 کتاب الفائق میں مرقوم ہے کہ نماز پڑھنے والے آدمیوں کی تعداد (۳۰) ہزار تھی

اور فرشتے جو صلوٰۃ و درود پڑھتے اور دعائیں مانگنے آئے تھے ان کی تعداد (۶۰) ہزار اور ہر فرشتے کے ساتھ مزید دو فرشتے اور بھی تھے۔

ابن ماجہ نے لکھا ہے رسول اکرم ﷺ کو منگل کے دن جب کفنا چکے تو جسم اطہر آپ ﷺ کے در دولت والے پلنگ پر رکھا گیا۔ آپ ﷺ کے انوار کدہ کے اندر لوگ گروہ در گروہ آتے اور بعد درود و صلوٰۃ واپس ہو جاتے۔ مردوں کے بعد خواتین کی باری آئی اور جب یہ سب فارغ ہو گئیں تو سب سے آخر میں بچوں نے آکر صلوٰۃ پڑھی۔ اور آپ ﷺ کے جنازہ پر کسی انسان نے باجماعت نماز نہیں پڑھی۔

ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے آپ ﷺ کے جنازہ پر فرشتوں نے گروہ در گروہ ہو کر صلوٰۃ پڑھی پھر آپ ﷺ کے اہل بیت نے۔ ان کے بعد انسانوں کے گروہوں نے پھر سب سے آخر میں خواتین نے۔

ایک روایت یہ ہے کہ اہل بیت آپ ﷺ پر صلوٰۃ پڑھ رہے تھے اور عوام کو معلوم نہ تھا کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ جنہوں نے ابن مسعود سے پوچھا کیا پڑھیں؟ حضرت ابن مسعود نے فرمایا حضرت علیؑ سے پوچھو چنانچہ حضرت علیؑ نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔

ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ و سلموا تسلیما . لیکالہم ربنا و سعذیک صلوٰۃ اللہ البر الرحیم و الملائکة المقربون و النبین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و ما سبح . لک من شئی یارب العالمین علی محمد بن عبد اللہ الخاتم النبیین و سید المرسلین و امام المتقین و رسول رب العالمین الشاہد البشیر؛ الداعی الیک السراج المنیر و علیہ السلام .

ترجمہ : ”اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسالتاً آپ پر صلوٰۃ بھیجتے ہیں۔ اے مسلمانو! تم بھی آپ ﷺ پر درود سلام بھیجو (اور آپ ﷺ کی پیروی کرو) اے اللہ ہم حاضر ہیں اور اے ہمارے رب تو ہی ہمارا مددگار ہے اللہ جو پاکیزہ و مہربان ہے اس کی اور اس کے مقرب فرشتوں، تمام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں، صالح لوگوں اور اے تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والے مالک ان تمام کی طرف سے جو پاکیزگی کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں ان سب کی طرف سرور عالم ﷺ حضرت محمد ﷺ ابن عبد اللہ پر جو خاتم النبیین رسولوں کے سردار، متقیوں کے امام

رب العالمین کے فرستادہ رسول شاہد و بشارت دینے والے، تیرے ہی حکم سے تیری طرف بلانے والے روشن چراغ ہیں آپ ﷺ پر سلام ہو۔

### قبر مبارکہ کی نوعیت

شیخ زین الدین مراغی نے اپنی کتاب تحقیق المنصرۃ میں تحریر کیا ہے کہ مدینہ طیبہ میں دو گورکن تھے۔ ایک بغلی قبر کھودتا تھا اور دوسرا صندوقی۔ حضرت عباس بن عبدالمطلبؓ نے ان دونوں کو بلا کر کہا تم میں سے ایک حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے پاس جائے اور انہیں بلا لائے اور یہ جانے والا گورکن وہ تھا جو اہلیانِ مکہ کی قبریں کھودتا تھا۔ اور دوسرے گورکن کو حکم دیا کہ تم حضرت ابو طلحہ انصاری کے پاس جاؤ اور انہیں بلا لائے اور یہ وہ گورکن تھا جو صرف مدینہ والوں کیلئے قبریں کھودتا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباسؓ نے دعا کی اے اللہ تو اپنے رسول کے لئے بہتری کر۔ مکہ والوں کی قبریں کھودنے والے نے حضرت ابو عبیدہ کو تلاش کیا مگر وہ نہ ملے البتہ مدینہ والا گورکن حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلا لایا اور ان کی رائے کے موافق گورکن نے آپ ﷺ کے لئے اپنے دستور کے موافق بغلی قبر کھودی۔

### مقام مزار شریف

رسول اکرم ﷺ کے مقامِ دفن کے متعلق صحابہؓ میں باہم اختلاف رونما ہوا بعض کہتے ہیں مکہ میں تدفین کی جائے اور بعض مدینہ طیبہ میں۔ بعض کہتے قدس میں اور بعض رخت البقیع میں۔ ان تمام اختلاف آرا کی موجودگی میں حضرت ابو بکرؓ نے کہا میں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے سنا ہے کہ ہر نبی کی اسی جگہ قبر بنائی گئی جہاں اس نے وصال کیا۔ اور ایک روایت یہ ہے

عام طور پر تمام مسلمان اور احناف نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے ہیں :

اللهم اغفر لحينا وميتنا و ما عملنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا . اللهم من احبته

منافا حبه علی الاسلام و من توفيته منافتوه علی الایمان .

ترجمہ : ”یا اللہ ہمارے زندوں، مردوں حاضر و غائب چھوٹے، بڑے، مرد، عورت سب کی مغفرت فرما

اے اللہ ہم میں سے تو جسے زندہ رکھنا چاہتا ہے اسے دین اسلام پر زندہ رکھ اور جسے موت دینا چاہتا ہے اس کا

ایمان پر خاتمہ بالخیر کر۔ لڑکے کی میت پر یہ دعا پڑھتے ہیں :

اللهم اجعله لنا فرطا و اجعله لنا اجرا و ذخرأ و جعله لنا شافعا مشفعا .

ترجمہ : ”اے اللہ اس میت والے کو ہمارے لئے اچھی منزل بنا دے اسے ہمارے لئے اجر و ذخیرہ کر دے

۔ اور اے اللہ اسے ہمارے لئے شفاعت کرنے والا بنا دے اور ایسا شفاعت کرنے والا بنا دے جس کی

شفاعت تیرے نزدیک مقبول ہے۔ لڑکی میت کی صورت میں منامز مونث لاتے ہیں۔“ از مترجم۔ ۱۲

کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا اللہ نے ہر نبی کو اسی جگہ موت سے ہم آغوش کیا جہاں اس کی خواہش تدفین تھی۔ ان احادیث کے پیش نظر جس جگہ آپ ﷺ نے ملک الموت کو لبیک کہا تھا آپ ﷺ کے بستر کو ہٹا کر اسی جگہ آپ ﷺ کے لئے قبر مبارک تیار کی گئی۔

### کوائف تدفین

قبر انور تیار ہونے کے بعد اس میں علیؑ، عباسؑ اور حضرت عباسؑ کے دونوں صاحبزادے فضل و قثم اترے سب لوگ تو نکل آئے لیکن جناب قثم جو رسول اکرم ﷺ کی خدمت میں اخیر میں آئے تھے وہ قبر مبارک میں سب سے زیادہ دیر تک ٹھہرے رہے اور سب سے اخیر میں قبر مبارک سے اوپر آئے۔

منیرہ کا وہ قصہ کہ انہوں نے اپنی انگٹھی آپ ﷺ کی قبر مبارک میں ڈال دی اور اپنی انگٹھی ڈھونڈ نکالنے کے بہانہ سے قبر مبارک میں ان کا اترنا وغیرہ یہ سب بالکل غلط ہے۔ اور حقیقت حال صرف اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

رسول اکرم ﷺ کے غلام شقران اور اوس بن خولی نے حضرت علیؑ سے کہا۔ اے علیؑ اللہ کے واسطے رسول اکرم ﷺ کی خدمت کرنے کی مجھے بھی اجازت دو۔ حضرت علیؑ نے جواباً کہا اچھا آ جاؤ۔ چنانچہ یہ اپنی قوم والوں کے ساتھ قبر مبارک میں اترے اور ان کی تعداد (۵) تھی۔

حضرت علیؑ کا بیان ہے کہ میں (علیؑ) اور حضرت عباسؑ اور عقیل بن ابوطالب اور اسامہ بن زید اور ابن عوف اور اوس بن خولی یہ چھ آدمی قبر مبارک میں اترے اور یہی وہ لوگ تھے جو آپ ﷺ کی تکفین کے ذمہ دار شریک کار تھے۔

میری (عبدالحق محدث دہلویؒ) اور اکثر و بیشتر محدثین کی رائے میں اولین روایت ہی صحیح ہے کہ جسم اطہر کو قبر مبارک میں اتارنے والے حضرات علیؑ، عباسؑ اور ان کے دونوں صاحبزادے تھے۔

ایک روایت ہے کہ سرخ رنگ کی وہ بخرانی چادر جسے رسالتما ب ﷺ نے خود اوڑھا اور بچھایا تھا اور جو خیبر میں شقران کو مرحمت فرمائی تھی یہ چادر شقران نے آپ ﷺ کے جسم اطہر کو قبر میں اتارنے سے پہلے آپ ﷺ کے نیچے بچھادی اور یہ کہا بخدا اس چادر مبارک کو آپ ﷺ کے بعد کوئی شخص استعمال نہیں کر سکتا ہے اور یہ چادر آپ ﷺ کے ساتھ ہی قبر میں رہے

گئی۔ اور قبر مبارک کچی اینٹوں سے بنائی گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ ان اینٹوں کی تعداد (۹) تھی جو چٹی گئی تھیں۔

ابو عمرو حاکم کا بیان ہے بغلی میں کچی اینٹیں رکھنے کے بعد لوگوں نے وہ بخرانی

چادر نکالی۔

### میت کے لئے بچھونا

امام نوویؒ نے لکھا ہے کہ امام شافعی اور دیگر تمام شافعی علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ قبر میں میت کے نیچے ریشمی چادر وغیرہ کا بچھانا قطعاً مکروہ ہے۔ البتہ امام بغوی کا قول ہے کہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کیونکہ شقران کے عمل و روایت سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے اس کے علاوہ جمہور علماء و محدثین کے نزدیک اور میرے (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) خیال سے قبر میں میت کے نیچے ریشمی چادر وغیرہ بچھانا مکروہ ہے۔ نیز تمام علماء نے کہا ہے کہ شقران کے اس فعل کی کسی صحابی نے موافقت نہیں کی اور شقران نے یہ فعل اپنے اس نظریہ کے تحت کیا تھا جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ انہیں یہ ناپسند تھا کہ رسول اکرم ﷺ کی استعمال کردہ چادر کوئی دوسرا آدمی استعمال کرے۔

سیرۃ مغلطائی میں تحریر ہے کہ یہ امر بالکل درست ہے کہ قبر مبارک میں (۹) اینٹیں رکھنے کے بعد شقران کی بخرانی چادر نکالی گئی۔ پھر لحد پر مٹی ڈال کر قبر مبارک کو مسطح کر دیا گیا۔

### قبر پر چھڑکاؤ

مشکوٰۃ میں جابر کی زبانی تحریر ہے کہ قبر شریف پر بلالؓ بن رباح نے سرہانے کی طرف سے پانچ تک ایک مشک پانی چھڑکا۔  
(تفصیل کے لئے دیکھئے دلائل نبوت از امام بہقی)

### نوعیت قبر مبارک

سفیان بن نمار کا بیان ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کی قبر مبارک کو ہان نما دیکھی ہے۔

صحیح بخاری میں ابو بکر بن عیش کی زبانی تحریر ہے کہ میں نے آپ ﷺ کی قبر مبارک کو ہان نما دیکھی ہے۔

ابونعیم نے اپنی مستخرج میں مذکور بالا قول لکھتے ہوئے مزید تحریر کیا ہے کہ حضرات شیخین<sup>ؓ</sup> کی قبریں بھی کوہان نما تھیں اور پھر اس سے یہ استدلال کیا ہے کہ کوہان نما قبریں بنانا مستحب ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، امام احمد، علامہ مزنی، قدیم شوافع اور اکثر علماء شافعی کے نزدیک قبر کو مسطح و ہموار بنانا مستحب ہے اور بہت ممکن ہے کہ رسول اکرم ﷺ کی قبر مبارک پہلے مسطح و ہموار ہو۔


ابوداؤد و حاکم نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے قاسم بن محمد کی قبر بنانے کے لئے رسول اکرم ﷺ اور شیخین کی قبور کھولی تھیں اور یہ تینوں قبریں نہ تو زمین سے زیادہ اونچی تھیں اور نہ بہت پست۔ بلکہ سر زمین مکہ کے سرخ پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ مکہ کے سرخ اور سفید پتھروں سے بنی ہوئی تھیں۔ اور سرور عالم ﷺ کی قبر مبارک زمین سے ایک بالشت اونچی ہے۔ قبر مبارک کے اونچے ہونے کا واقعہ حضرت امیر معاویہؓ کے زمانہ میں رد بعمل لایا گیا۔

قبر مبارک پہلے مسطح و ہموار تھی لیکن حضرت عمیر بن عبدالعزیز کے دور امارت میں جبکہ ولید بن عبدالملک عباسی خلیفہ کے زمانہ میں وہ مدینہ کے امیر و گورنر تھے آپ ﷺ کے مزار مبارک کو اونچا کیا گیا۔


علماء کا باہمی اختلاف رائے یہ ہے کہ مسطح افضل ہے یا کوہان نما۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جبکہ دونوں طرح کی قبور بنانی جائز ہیں تو مسطح و ہموار کو حق ترجیح حاصل ہے جس کے ثبوت میں مسلم میں فضالہ بن ابی عبید اللہ کی یہ حدیث مذکور ہے کہ مسلم بن فضالہ نے ایک دن قبر کے پاس آ کر اسے ہموار کر دیا اور کہا میں نے رسول اکرم ﷺ کو حکم دیتے خود سنا ہے کہ قبور کو ہموار کر دو۔

### قبور شیخین<sup>ؓ</sup>

علامہ سمودی نے اپنی کتاب خلاصۃ الوفاء میں لکھا ہے کہ مزار رسالت مآب ﷺ سب سے آگے ہے اور آپ ﷺ کے دونوں کندھوں کے نزدیک ابو بکر صدیقؓ کی قبر ہے اور عمر فاروق کی قبر آپ ﷺ کے پائنتی ہے جس کا سیدھا خاکہ یہ ہے سب سے آگے مزار مبارک نبی کریم ﷺ آپ ﷺ کے کندھوں کے پاس قبر ابو بکر صدیقؓ۔



پائنتی قبر عمرؓ




قبر ابو بکرؓ


۱ شیخین سے مراد ہیں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت عمر فاروقؓ۔ از مترجم۔ ۱۲

رزین نے لکھا ہے کہ مزار نبی کریم آگے ہے اور آپ ﷺ کے سرو کندھوں کے درمیان سے ابوبکر صدیقؓ کا مزار ہے اور پاؤں آگے نکل گئے ہیں اور عمرؓ کا مزار اس سے نیچے اس طرح ہے۔


مزار مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم



مزار حضرت ابوبکر صدیقؓ



مزار حضرت عمر فاروقؓ



اور خلاصۃ الوفاء کی عبارت (کا ترجمہ) درج ذیل ہے :

ترجمہ : دولت کدہ گرامی میں مزارات مبارکہ کے محل وقوع میں لوگ باہم مختلف رائے ہیں اور اس کی سات کیفیت ہیں جسے ہم نے کتاب الوفاء میں مکمل طور پر یہ دلائل تحریر کیا ہے۔ اکثر حضرات اس امر پر متفق ہیں کہ رسول اکرم ﷺ کا مزار مبارک سمت قبلہ میں قبلہ کی جانب دیوار کے قریب ہے۔ اور آپ ﷺ کے کندھوں کے درمیان سے ابوبکرؓ کا مزار شروع ہوا ہے۔ اور حضرت ابوبکرؓ کے کندھے کے پاس حضرت عمرؓ کے مزار کی ابتدا ہوئی ہے۔

مزار مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم



مزار ابوبکر صدیقؓ



مزار عمر فاروقؓ



### پرستش قبور کی ممانعت

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ آخری زمانہ علالت میں رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ یہودیوں و عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبور کو سجدہ گاہ بنا لیا (یعنی قبروں کی پرستش کرنے لگے)۔

اور میرا (عائشہؓ) کا خیال ہے کہ اگر قبور انبیاء کی پرستش کا خوف نہ ہوتا جو رسالت



مآب ﷺ کے فرمان سے ظاہر ہے تو آپ ﷺ کا مزار کھلا ہوا رکھا جاتا اس کے اطراف دیواریں نہ کھینچی جاتیں اور آپ ﷺ کو کمرہ کے بیرونی حصہ میں رکھا جاتا۔

اس کے بعد عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ میرا پہلے کا بیان اس وقت کا ہے جب کہ مسجد نبوی کی توسیع نہیں ہوئی تھی اور جب مسجد نبوی ﷺ توسیع ہونے لگی تو مزار مبارک والے کمرہ کو مثلث و تکونہ بنایا گیا تا کہ کوئی شخص قبلہ رو ہو کر مزار مبارک کے سامنے بحالت نماز بھی سجدہ نہ کر سکے۔

### سبز گنبد میں تدفین عیسیٰؑ

مورخین نے حضرت سعید بن مسیب کی زبانی لکھا ہے۔ رسول اکرم ﷺ کے سبز گنبد میں مشرقی جانب ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ ابن مریم دفن کئے جائیں گے۔

### وقت تدفین محمد ﷺ

آپ ﷺ کی تدفین کے وقت میں باہمی اختلاف رائے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے ہمیں معلوم ہی نہ ہوسکا کہ سرور عالم ﷺ کس وقت سپرد زمین کئے جائیں گے آخر کار منگل کے دن صبح کے وقت پھاڑے سے مٹی کھودنے کی ہمیں آواز آئی۔

امام مالکؒ نے موطا میں لکھا ہے ہمیں اطلاعات بہم پہنچی ہیں کہ سرور عالم ﷺ نے پیر کے دن وصال فرمایا اور منگل کے دن سپرد زمین کئے گئے۔

ترمذی نے لکھا ہے جس مقام پر آپ ﷺ نے وصال فرمایا اسی مقام پر رات کے وقت آپ ﷺ کو سپرد زمین کیا گیا۔

محمد بن اسحاق کا بیان ہے سرور عالم ﷺ نے پیر کے دن ملک الموت کو بلایا کہا۔ اس دن اور منگل کے دن کے بعد بدھ کی رات کو سپرد زمین کئے گئے۔

بعض کہتے ہیں منگل کے دن بعد زوال آفتاب آپ ﷺ کو سپرد زمین کیا گیا۔ شعبی نے کفایہ میں لکھا ہے۔ لوگوں نے بدھ کے دن آپ ﷺ پر صلوٰۃ پڑھی اور پھر آپ ﷺ سپرد زمین کئے گئے۔

### دفن میں تعویق کا سبب

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ ﷺ کی تدفین میں تعویق کیوں کی گئی حالانکہ آپ ﷺ کے اہل بیت نے جب اپنی کسی میت کی تدفین میں تعویق کی تھی تو فرمایا تھا میت دفن

کرنے میں جلدی کرو دیر نہ لگاؤ۔

اس اعتراض کا جواب ایک تو وہ ہے جو پہلے لکھا جا چکا کہ آپ ﷺ کی رحلت پر سب متفق نہ تھے، یا پھر یہ جوابات ہیں کہ مقام دفن پر اختلاف تھا کہ کس مقام پر سپرد زمین کیا جائے یا تعویق کا سبب یہ تھا کہ مہاجرین و انصار میں خلافت کی حوالگی پر باہمی اختلاف تھا تا آنکہ مہمات امروین میں سے جب خلافت خلیفہ کا مسئلہ بالکل طور پر سب نے طے کر لیا اور خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر لوگوں نے مجمع عام میں دوبارہ بیعت کر لی تو آپ ﷺ کی تدفین کی جانب توجہ کی کیونکہ مذہب اسلام کا ایک بڑا اہم کام اولاً مکمل ہونا تھا اور مسلمانوں کے اتحاد کو باقی و برقرار رکھنا ضروری تھا۔ اس اہم کام کے تکمیل کے بعد صحابہؓ نے غسل و کفن کا کام انجام دیا اور سپرد زمین کیا اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

داری میں حضرت انسؓ کی زبانی مرقوم ہے کہ جس دن رسول اکرم ﷺ ہمارے ہاں مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے وہ دن بہترین دن اور نہایت تاباں و درخشاں تھا اور جس دن آپ ﷺ نے ہم کو داغ مفارقت دیا یہ دن نہایت تاریک و غمناک تھا۔

ترمذی نے بھی حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے جس دن رسول اکرم ﷺ مدینہ میں تشریف فرما ہوئے تھے تو اس دن مدینہ کی ہر چیز منور ہو گئی تھی اور جس دن آپ ﷺ نے ملک الموت کو لبیک کہا اس دن ہر چیز تاریک ہو گئی تھی۔ اور لوگوں کی یہ کیفیت ہوئی کہ ابھی ہم تدفین میں مصروف تھے اور ہم نے اپنے ہاتھوں کی مٹی تک نہ جھاڑی تھی کہ لوگوں کے دل پھر گئے۔

گر یہ و مرثیہ

جب آپ ﷺ کو سپرد زمین کیا جا چکا تو جناب فاطمہؓ مزار اقدس پر آئیں اور کہا تمہارے دلوں نے کس طرح قبول کر لیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالو۔ (بخاری)

ایک دوسری روایت یہ ہے کہ جب آپ ﷺ کی تدفین ہو چکی تو جناب فاطمہ نے آکر کہا اے ابوالحسن (علیؓ) تم نے رسول اللہ ﷺ کو سپرد زمین کر دیا؟ جواب دیا ہاں۔ اس پر جناب فاطمہؓ نے فرمایا تمہارے دلوں نے کس طرح قبول کیا کہ تم رسول اللہ پر مٹی ڈالو؟ کیا آپ ﷺ نبی رحمت نہیں؟ حضرت علیؓ نے کہا بیشک تھے لیکن حکم الہی کوئی نہیں ٹال سکتا اس پر جناب فاطمہؓ بیٹھ کر گریہ و زاری کرنے لگیں اور فرماتی تھیں۔ اے ابا جان! ہائے رسول اللہ ہائے نبی رحمت اب وحی نہیں آئے گی۔ اب جبرئیل کی آمد ختم ہو گئی۔ اے اللہ میری روح کو سرور

عالم ﷺ کی روح سے ملا دے۔ آپ ﷺ کے دیدار سے میری نگاہوں کو سیراب کر دے۔  
قیامت کے دن آپ ﷺ کی شفاعت سے محروم نہ رکھ۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جناب فاطمہؓ نے رسول اکرم ﷺ کے مزار مبارک کی مٹی  
اٹھا کر سو نگھی اور یہ اشعار پڑھے۔

ماذا على من شمّ تربة احمد ان لا يشمّ مدى الزمان غواليا

صبت على مصائب لو انّها صبت على الايام صرن لياليا

جس نے احمد مجتبیٰ کے مزار کی مٹی سو نگھی اس کا کیا کہنا وہ آئینہ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی  
خوشبو نہ سو نگھے گا اور مجھ پر جو مصیبتیں پڑی ہیں اگر یہ دنوں پر پڑتیں تو راتیں ہو جاتیں یعنی  
دن، رات بن جاتے۔

کتاب الاکتفاء میں مرقوم ہے کہ حضرت علیؓ اور جناب فاطمہؓ کی جانب جو شعر  
منسوب ہیں وہ یہی دونوں شعر ہیں۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ جب علالت کی وجہ سے زیادہ کمزور ہو گئے  
اور نشست و برخاست نہ کر سکتے تھے تو جناب فاطمہؓ نے کہا ہائے ابا جان کی تکلیف! اس پر ارشاد  
عالی ہوا آج کے بعد تمہارے والد کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ پھر آپ ﷺ کے وصال پر حضرت  
فاطمہؓ نے کہا اے ابا جان! اللہ نے آپ ﷺ کی دعا سن لی۔ آپ ﷺ کا مسکن جنت الفردوس  
ہے۔ اب جبرئیل کہاں ہے جس نے آپ ﷺ کو وصال الہی کی خبر دی تھی۔

حدیث بخاری میں مرقوم ہے کہ جناب فاطمہؓ نے کہا اے انسؓ تمہارے دل نے  
کس طرح قبول کیا کہ تم سرور عالم ﷺ پر مٹی ڈالو۔

طبرانی نے اس روایت کو اس اضافہ کے ساتھ لکھا ہے اے ابا جان! اب اللہ سے  
آپ ﷺ بہت زیادہ قریب ہو گئے۔

رسول اکرم ﷺ کے وصال کے بعد جناب فاطمہؓ "صرف چھ ماہ زندہ رہیں اور اس  
عرصہ میں آپ نے کبھی خندہ نہیں فرمایا۔ اور حق یہ ہے کہ نہ ہنسا ہی آپ کو زیبا تھا۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں جناب فاطمہؓ کے در دولت پر حاضر ہوا  
اور رسول اکرم ﷺ پر آپؓ بدین مرثیہ نوحہ کر رہی تھیں۔

اے نبی ﷺ جو کی روٹی کھا کر بھی آپ ﷺ شکم سیر نہ ہوئے۔ اے نبی ﷺ پلنگ کے

عوض آپ ﷺ نے چٹائی کو پسند کیا۔ اے نبی ﷺ مالک دوزخ کے خوف سے آپ ﷺ کبھی رات بھر نہیں سوئے۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ وصال رسالت مآب ﷺ کے بعد والد ماجد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے اپنا منہ آپ ﷺ کی دونوں آنکھوں کے درمیان رکھا اور اپنے دونوں ہاتھ آپ ﷺ کی کنپٹیوں پر رکھے پھر کہا ہائے نبی ہائے دوست، ہائے منتخب دوست۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ کے وصال کے بعد والد ماجد حضرت ابوبکر صدیقؓ نے گھر میں آکر پردہ اٹھایا اور سرور عالم ﷺ کے پاس جا کر آپ ﷺ کے چہرہ انور پر سے چادر ہٹا کر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا۔ پھر کہا اللہ کی قسم رسول اکرم ﷺ نے رحلت فرمائی۔ پھر گھوم کر سر ہانے کی طرف جا کر کہا ہائے نبی ﷺ پھر اپنا منہ جھکا کر پیشانی کا دوبارہ بوسہ لیا اور کہا ہائے منتخب دوست پھر اپنا منہ جھکا کر آپ ﷺ کی پیشانی کا تیسری مرتبہ بوسہ لیا اور آپ ﷺ کے چہرہ انور پر چادر ڈال دی۔ پھر باہر چلے گئے۔

علامہ بوسیری کے قصیدہ بردہ کی شرح میں ابوالعباس قصاب نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیقؓ کے کہنے سے حضرت فاروق اعظمؓ کو جب رسالت مآب ﷺ کے وصال کا یقین ہوا تو اپنے قول سے رجوع کیا اور بہ صد گریہ وزاری کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ وہ کھجور کا ٹھنڈھ جس سے سہارا دے کر آپ ﷺ خطبہ دیا کرتے تھے لوگوں کی اکثریت تعدادی کے پیش نظر جب آپ ﷺ نے اس کے بجائے ایک نیا منبر بنوا کر خطبہ دینا شروع کیا تو وہ ٹھنڈھ آپ ﷺ کی جدائی کے سبب رونے لگا تھا اور آپ ﷺ نے ازراہ کرم جب اس پر اپنا دست مبارک رکھا تو اس کا رونا بند ہوا تھا۔ اس واقعہ کے پیش نظر بھی آپ ﷺ کی امت آپ ﷺ کے فراق میں گریہ وزاری کرنے کی زیادہ مستحق ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان اللہ کے نزدیک آپ ﷺ کا درجہ بلند و بالا ہے جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اس نے اپنی اطاعت بنا دیا اور صاف کہہ دیا ہے۔ ”من یطع الرسول فقد اطاع اللہ“ جس نے رسول اکرم ﷺ کے احکام کی فرمانبرداری کی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔

میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ اللہ کے نزدیک آپ ﷺ کا درجہ بہت بلند و بالا

ہے جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اگرچہ آپ ﷺ کو تمام انبیاء کے بعد مبعوث فرمایا لیکن آپ ﷺ کی اولیت کو یوں بیان کیا ہے۔

”لقد اخذنا من النبین میثاقہم منک ومن نوح“:

یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان۔ اللہ کے نزدیک آپ کا رتبہ نہایت بلند و بالا ہے جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ دوزخی تک تمنا کریں گے اے کاش ہم آپ ﷺ کی اطاعت کرتے اور یہ دوزخی اس وقت جبکہ وہ طبقات دوزخ کے اندر عذاب میں گرفتار ہوں گے یوں اظہار تمنا کریں گے۔

”یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول“: کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی اور رسول اکرم ﷺ کے فرمانبردار ہوتے۔

ابوالجوزاء کا بیان ہے کہ ایک مدنی جب کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا تو اس کا بھائی آکر اس سے مصافحہ کرتا اور کہتا۔ اے عبد اللہ! اللہ تعالیٰ سے ڈرو کیونکہ رسول اکرم ﷺ کی پیروی کی وجہ سے آپ ﷺ کے اسوۂ حسنہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔

”اصبر بکل مصیبة وتجلد واعلم بان المر غیر مخلد و صبر کما صبر  
الکرام فانہا نوب تنوب الیوم تکشف فی غد و اذا اتک مصیبة  
تشجی بہا فاصبر مصابک بالنبی محمد ﷺ“

ترجمہ: ہر مصیبت پر صبر و تحمل کرو اور یقین کرو کہ کوئی آدمی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ بزرگوں کے صبر کی طرح تم بھی صبر کرو کیونکہ مصیبت وہ تکلیف ہے جو آج ہے اور کل چلی جائے گی۔ تم جب کسی مصیبت میں مبتلا ہو کر غمگین ہو تو رسول اکرم ﷺ کی تکالیف پر غور کر کے اپنی مصیبت کی برداشت کے لئے سینہ سپر ہو جاؤ۔

اور ایک دوسرے شاعر نے یوں کہا ہے۔

”تذکرت لما فرق اللہ بیننا فعزیت نفسی بالنبی محمد و قلت لها  
ان المنایا سبیلنا فمن لم یمت فی یومہ مات فی غد“

ترجمہ: مجھے وہ وقت یاد ہے جبکہ زمانہ نے ہم میں جدائی ڈال دی اور اس سے میں نے رسول اکرم محمد مجتبیٰ ﷺ کے وصال کے پیش نظر اپنے نفس کو پر سادیا اور اس

سے کہا موت تو ہماری راہ ہے جو آج نہیں مرادہ کل جان بحق ہو جائے گا۔

روایت ہے رسول اکرم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت بلالؓ اذان دینے میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ (شہادت دیتا ہوں کہ محمد رسول اکرم ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں) کہتے تو گریہ وزاری سے پوری مسجد گونجنے لگتی۔ اور سرور عالم ﷺ کی تدفین کے بعد حضرت بلالؓ نے اذان دینا چھوڑ دیا تھا۔

اور یہ شعر بر محل ہے۔

ترجمہ : اگر رضوی پہاڑ بھی فراق سے دو چار ہوتا تو یقیناً وہ بھی اپنی جگہ سے ٹل جاتا مجھ پر شوق و ذوق کا اس قدر غلبہ ہے کہ اگر فولاد پر پڑتا تو وہ بھی برداشت کی سکت نہ رکھتا۔

### مرثیہ صفیہؓ

سرور عالم کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے آپ ﷺ کی جدائی پر بکثرت نوحے لکھے اور مرثیے کہے۔ جن میں سے ایک نوحہ یہ ہے :

الایا رسول اللہ کنت رجائنا و کنت بنا بر اولم تک جافیا و کنت  
رحیماً ہادیا و معلماً لیک علیک الیوم من کان با کیا لعمرک ما  
ابکی النبی لفقده ولكن لاخشی من الهجراتیا کان علی قلبی ل ذکر  
محمد و ماخفت من بعد النبی المکاویا افاطم صلی اللہ رب محمد  
علی حدث امسی بیثرب تاو یاندی لرسول اللہ امی و خالتی و عمی  
و خالی ثم نفسی و مالیا فلوان رب الناس ابقی محمد سررنا و لکن  
امرہ کان ما ضیا علیک من اللہ السلام تحیة و ادخلت جنبت  
من العدن راضیا۔

ترجمہ : اے رسول اللہ آپ ﷺ ہماری آرزو امید تھی آپ ﷺ ہمارے محسن تھے اور آپ ﷺ نے کبھی قطع رحمی نہیں کی۔ آپ مہربان، ہادی اور معلم تھے۔ آج آپ ﷺ پر ہر ایک رونے والے کو خوب گریہ کرنا چاہیے آپ ﷺ کی حیات مبارکہ کی قسم صرف میں تنہا ہی آپ کی جدائی پر گریہ وزاری نہیں کر رہی ہوں بلکہ پورا عالم نوحہ کننا ہے اور مجھے آپ ﷺ کے آئندہ فراق نے خوف زدہ کر دیا ہے کہ

خدا نخواستہ آئندہ آپ ﷺ سے نہ مل سکوں۔ میرا دل آپ ﷺ کی یاد سے بھر پور ہے۔ اور آپ ﷺ کے بعد آنے والے حوادث سے دوچار ہونے کا خوف دامن گیر ہے بتائیے میں کس طرح صبر کروں؟ اے محمد ﷺ اللہ جو آپ ﷺ کا بھی رب ہے وہ آپ ﷺ پر اس صورت میں بھی رحمتیں نازل کرے جبکہ آپ ﷺ نے سرزمین مدینہ کے اندر قیام گاہ بنالی ہے۔ اے رسول اللہ ﷺ میری والدہ، چچا ماموں اور میری جان و مال قربان اگر اللہ آپ ﷺ کو باقی رکھتا تو ہم خوش ہوتے لیکن حکم الہی پورا ہو کر رہتا ہے آپ ﷺ پر منجانب اللہ تحیۃ و سلام ہو اور آپ جنت کے باغوں میں خوش و خرم رہیں۔

### مرثیہ ابوسفیانؓ

رسول اکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلبؓ نے

یہ مرثیہ لکھا۔

الرقیۃ فبتُّ همی لایزول ولیل اخی المصیبة فیہ طول و اسعد فی البکاء  
و ذاک فیما اصیب المسلمون بہ قلیل لقد عظمت مصیبتنا و جلّت  
عشیة قیل لقد قبض الرسول و اوضحت ارضنا ما عراها تکاد بنا جو انبہا  
تمیل فقدنا الوحی و التنزیل فینا بروح بہ ویغد و جبرئیل و ذاک احق ما  
سالت علیہ نفوس و الناس او کانت تسیل نبی کان یجلوا الشک عنا  
بما یوحی الیہ و ما یقول و یهدینا فلا ننحشی ضللاً علینا و الرسول لنا  
دلیل افاطمة ان جزعت فذاک السبیل فقیر ابیک سید کل قبر و فیہ  
السید الناس الرسول.

ترجمہ : میری نیندر خست ہوگئی اور میرا غم لازوال ہو گیا ہے اور درحقیقت مصیبت زدہ کی بات بڑی طویل ہوتی ہے۔ آہ و بکا میرے ساتھ ہے اور تمام مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی ہے اس کی بہ نسبت میری تکلیف کمتر ہے۔ ہماری مصیبت اس رات کو بہت زیادہ ہوگئی جس شب کسی نے کہا رسول اکرم ﷺ نے داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس زمین پر جو سانحہ عظیم ہوا ہے اس سانحہ عظیمی کی وجہ سے عنقریب اس زمین کے کنارہ ہم پر جھک پڑیں گے جبرئیل کی صبح و شام آمد اور وحی کے نزول کو ہم کھو چکے

ہیں جن پر یہ سانحہ عظیم پڑا ہے ان کی بابت یقین ہے کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بہہ جائیں یا آئندہ بہا کریں۔ اے نبی کریم ﷺ اس وحی کے ذریعہ جو آپ ﷺ پر آتی ہے اور آپ ﷺ جو کچھ فرماتے ہیں اس سے ہمارے تمام شکوک و شبہات دور فرما دیا کرتے تھے۔ اے محبوب ہمیں آپ ﷺ ہدایت کرتے تھے جس کی وجہ سے ہمیں کسی گمراہی کا خوف نہ تھا۔ اور یا رسول اللہ آپ ﷺ ہمارے رہبر و رہنما تھے۔ اے فاطمہ تم جزع و فزع کرنے پر مغرور ہو اور اگر صبر کرو تو یہ عمدہ راستہ ہے۔ آپ ﷺ کے والد ماجد کا مزار مبارک تمام مزاروں کا سردار ہے کیونکہ اس میں تمام لوگوں کے سردار آرام فرما ہیں۔

### مرثیہ صدیق اکبرؓ

حضرت ابو بکر صدیقؓ نے بھی رسول اللہ کی جدائی پر مرثیہ لکھا جس کے دو

شعریہ ہیں۔

ودعنا الوحي اذ ولّيت عنا فودّ عنا من الله الكلام سوى ما قد تركت  
لنا رهينا تضمّنه القراطيس الكرام

ترجمہ : اے رسول اللہ جب سے آپ ﷺ ہم سے جدا ہوئے تب سے وحی الہی نے بھی ہمیں چھوڑ دیا اور اللہ کے کلام سے بھی ہم محروم ہو گئے۔ البتہ وہ کلام ہمارے پاس موجود ہے جو آپ ﷺ مکرم کاغذوں پر مرقوم ہمارے پاس چھوڑ گئے ہیں۔  
علاوہ ازیں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے حسب ذیل مرثیہ بھی لکھا ہے۔

لما رأيتُ نبينا مُستجداً ضاقت عليّ بعرضهن الدور فار تاع قلبی عند  
ذلك بهلكةٍ والعظم مني ما حَيَّيتُ كَسِير عتيق و يحك ان حبك  
قد تويّ فالصبرُ عنك لما بقيتُ ليسير يا ليتني من قبل مهلك  
صاحبي غَيِّتُ في جدث عليّ صُخور فلتحدث بدائع من بعدك  
يعني بهنّ جوانح و صلور .

ترجمہ : میں نے جب اپنے محبوب نبی کریم ﷺ کو بے حس و حرکت دیکھا تو پورا گھر اپنی وسعتوں کے باوجود میری نظر میں تنگ ہو گیا۔ میرا دل اس وقت مرجانا چاہتا تھا۔ اب میری ہڈیاں تازندگی شکستہ رہیں گی۔ اے عتیق (ابو بکر صدیقؓ) افسوس



تیرا محبوب جدا ہو گیا اور اب تازہ زندگی صبر کرنا پڑے گا۔ کاش میں اپنے آقا کے وصال سے پہلے ہی مر جاتا۔ قبر میں پوشیدہ ہو جاتا اور مجھ پر بھاری پتھر رکھ دیئے جاتے۔ آپ ﷺ کے بعد وہ حادثات رونما ہوں گے جن سے پسلیاں اور سینے چکنا چور ہو جائیں گے۔

### مرثیہ حسانؑ

حضرت حسان کے فراقِ رسول اللہ ﷺ میں ایک مرثیہ کے دو شعر یہ ہیں۔

كنت السواد لنا ظري فعمى عليك الناظر من شاء بعدك فليمت  
فعليك كنت أحاذر.

ترجمہ : اے محبوب آپ ﷺ ہماری نگاہوں کی روشنی تھی اب آپ ﷺ کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے ہماری آنکھیں اندھی ہو گئیں آپ ﷺ کے بعد اب جو چاہے مرے مجھے کوئی پروا نہیں مجھے تو آپ ﷺ کی ہی رحلت کا خوف دامن گیر تھا۔

### میراث و ترکہ اور حکم عالی

رسول اکرم ﷺ نے بوقتِ وصال پیسہ روپیہ اور غلام وغیرہ کچھ بھی ترکہ نہ چھوڑا البتہ ایک سفید حجر، کچھ ہتھیار اور زین باقی بچی تھی اور یہ بھی حین حیات صدقہ و خیرات کر دیئے تھے۔

خلاصۃ السیر میں مذکور ہے کہ روزِ وصال سرورِ عالم ﷺ نے دو یمنی چادریں، ایک عثمان کا تہبند، دو سو تہ چادریاں یا ایک سو تہ قمیص، ایک یمنی جبہ، ایک حاشیہ دار سفید چادر، اور تین چار چھوٹی مستعملہ ٹوپیاں، یہ سب چیزیں ترکہ میں چھوڑی تھیں۔ آپ ﷺ نے جو تہبند چھوڑا تھا اس کی لمبائی پانچ بالشت تھی اور چادریں کہنہ تھی۔

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے ہم گروہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیز قابلِ ورثہ نہیں ہوتی بلکہ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔

### حکم عالی

رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے میرے ورثا باہمی طور پر میرا روپے پیسہ تقسیم نہیں کریں گے، البتہ ازواجِ مطہرات کے نفقے اور اہل و عیال کے خرچ کے بعد جو کچھ باقی رہے وہ صدقہ خیرات ہے۔

ابو ہریرہؓ کا بیان ہے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے پاس جنابِ فاطمہ بنت

رسالت مآب ﷺ تشریف لائیں اور کہا بتائیے آپ ﷺ کا وارث کون ہے؟ جواب دیا میری اولاد اور متعلقین۔ اس پر حضرت فاطمہؑ نے کہا پھر میرے والد ماجد کا ورثہ مجھے کیوں نہیں ملا؟ ابو بکرؓ نے جواب دیا میں نے خود سنا ہے کہ رسول اکرم ﷺ فرماتے تھے ”نبی کا تمام مال صدقہ ہے۔ البتہ ذاتی طور پر خورد و نوش کی اشیاء اس حکم سے مستثنیٰ ہیں اور ہم گروہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیز قابل ورثہ نہیں ہوتی“۔ اب بحالت موجودہ میں ان اخراجات کی ذمہ داری لیتا ہوں جو سرورِ عالم ﷺ خرچ فرماتے تھے اور ان لوگوں کو لازمی طور پر خرچ دوں گا جنہیں سرکارِ عالم ﷺ سرفہ مرحمت فرماتے تھے۔

### مطالبہ حضرت فاطمہؑ

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے رسول اکرم ﷺ کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیقؓ سے رسول اکرم ﷺ کے خیر، باغ فدک اور مدینہ کے صدقات میں سے حضرت فاطمہؑ نے ترکہ مانگا۔ تو حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا رسول اکرم ﷺ کا ارشاد گرامی ہے۔ ”ہماری چھوڑی ہوئی کوئی چیز قابل میراث و ورثہ نہیں اور ہم جو کچھ چھوڑیں وہ سب صدقہ ہے“۔ رسول اکرم ﷺ کے اس فرمان کی تعمیل میں حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جناب فاطمہؑ کو ناقابل ورثہ چیز کے دینے سے انکار کیا۔ اور جناب فاطمہؑ کے دل میں یہ بات گھر کر گئی۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہؑ نے اپنے انتقال تک پھر کسی ورثہ کا مطالبہ نہیں کیا۔

روایت ہے کہ جناب فاطمہؑ نے جب انتقال کیا تو آپؑ کے شوہر حضرت علیؑ نے راتوں رات ہی آپ کو دفن کر دیا اور ابو بکر صدیقؓ کو جناب فاطمہؑ کے انتقال کی خبر تک نہ دی اور خود حضرت علیؑ نے ہی آپ کی نماز جنازہ بھی پڑھائی۔ چونکہ جناب فاطمہؑ کی موجودگی کی وجہ سے حضرت علیؑ کی لوگوں میں عزت و وجاہت تھی اور جناب فاطمہؑ کے انتقال کے بعد لوگوں کو حضرت علیؑ نے خود سے کشیدہ پایا تو ابو بکر صدیقؓ سے مصالحت کرنے ہی کو مناسب سمجھا اور آپؑ سے بیعت کی۔

روایت ہے حضرت علیؑ نے کئی ماہ تک بیعت نہیں کی لیکن جناب فاطمہؑ کے انتقال کے بعد حضرت علیؑ نے حضرت ابو بکر صدیقؓ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ (صحیح بخاری و مسلم)

### حضرت فاطمہؑ کی رضا مندی

امام بیہقی نے شععی کی زبانی لکھا ہے۔ ”فاطمہ کی علالت کے زمانہ میں حضرت

ابوبکر صدیقؓ بہر عیادت تشریف لائے۔ حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ سے کہا ابوبکر صدیقؓ آپ کی عیادت کے لئے اندر آنا چاہتے ہیں۔ حضرت فاطمہؓ نے کہا اے علیؓ آپ کی اجازت ہے؟ حضرت علیؓ نے جواب دیا ہاں۔ تب حضرت فاطمہؓ نے کہا اچھا نہیں بدلائیے۔ چنانچہ ابوبکر صدیقؓ نے اندر آ کر حضرت فاطمہؓ کو خوش کیا اور وہ راضی ہو گئیں۔ (کتاب الوفا میں یہی لکھا ہے)

ریاض المنصرۃ میں محبت طبری نے لکھا ہے حضرت فاطمہؓ کے پاس حضرت ابوبکر صدیقؓ آئے ان سے معذرت خواہی کی پھر گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ وہ خوش ہو گئیں۔

امام اوزاعی کا بیان ہے مجھے معتبر ذرائع سے یہ واقعہ معلوم ہوا ہے، کہ حضرت فاطمہؓ جو حضرت ابوبکرؓ سے ناراض ہو گئیں تھیں کہ ایک گرم دن ان کے دروازہ پر جا کر حضرت ابوبکرؓ نے کہا میں اس گرمی میں اس وقت تک کھڑا ہوں گا جب تک دختر سرور عالم ﷺ خوش نہ ہو جائیں۔ اس امر پر حضرت علیؓ نے حضرت فاطمہؓ کو قسم دلائی چنانچہ ابوبکر صدیقؓ سے حضرت فاطمہؓ بالکل راضی ہو گئیں۔

ابن سمان نے کتاب المواقف میں تحریر کیا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے زمانہ خلافت میں ایک دن حضرت علیؓ و حضرت عباسؓ کے درمیان رسول اکرم ﷺ کی میراث کے بارے میں تنازعہ ہوا۔ جس کا تصفیہ بحسن و خوبی اس طرح ہوا کہ حضرت عمرؓ نے حضرت طلحہؓ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے قسمیں کھلا کر کہا کیا آپ لوگوں نے رسول اکرم ﷺ کو فرماتے نہیں سنا کہ ”نبی کا تمام مال صدقہ ہے سوائے اس کے جو وہ خود نوش جان کر لیں اور ہم گروہ انبیاء کی چھوڑی ہوئی چیز قابل ورثہ نہیں ہے“۔ اس پر سب نے کہا بخدا آپ سچ کہتے ہیں اور یہی صحیح بھی ہے۔

### زیارت مزار اقدس

سبز گنبد کے مکین سرور عالم ﷺ قرشی، ہاشمی، مکی، مدنی۔

ابوالقاسم محمد ﷺ بن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم خاتم النبیین والمرسلین صلوة اللہ وسلامہ علیہم اجمعین کے مزار اقدس کی زیارت مستحب ہے اور مستحبات میں سے بھی سب سے زیادہ مؤکد اور عبادات میں سے سب سے زیادہ افضل عبادت ہے۔ نیز اس شخص کے لئے جسے گنجائش و قدرت ہو، بمنزلہ واجب کے ہے۔ کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے: ”جس کو وسعت و قدرت ہو اور میری زیارت نہ کرے تو یقیناً اس نے مجھ پر ظلم کیا“۔

ایک روایت میں آپ ﷺ کا فرمان یہ ہے میرا ہر ایک امتی جسے وسعت و قدرت ہو وہ اگر میری زیارت نہ کرے تو اللہ کے حضور اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں۔

حافظ ابوعلی بن سکین نے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ کا فرمان ہے جس نے میری زیارت کی اور اس کا مقصود صرف میری زیارت ہو تو مجھ پر حق ہے کہ بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں۔ اور میں عبدالحق (محدث دہلوی) بھی روایت کرتا ہوں کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے جس نے میرے مزار کی زیارت کی مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہوگئی۔

نیز رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے جس نے میرے وصال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات ظاہری میں میری زیارت کی۔ مزار اقدس کی زیارت کرنے کے حکم سے متعلق بکثرت احادیث وارد ہیں اور جتنی ہم نے بیان کر دی ہیں وہ کافی ہیں۔

### زار کے لئے احکام

جب کوئی زار گھر سے چلے اور مدینہ کی جانب متوجہ ہو تو اسے لازمی ہے کہ دورانِ راہ میں رسول اکرم ﷺ پر بے شمار درود پڑھتا رہے کیونکہ اس راہ کے مسافر کے لئے عبادات مفروضہ کے بعد درود شریف پڑھنا ہی افضل ترین عبادت ہے، زار کی نگاہ جب مدینہ کے کسی درخت پر پڑے یا اسے حرم پاک نظر آئے تو بے انتہا درود شریف پڑھے اور دل میں اللہ سے دعا مانگے کہ زیارت بابرکت سے اسے فائدہ ہو اور دنیا و آخرت میں سعادت مندی حاصل ہو اور زبان سے یہ کہے۔

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَرَمٌ رَسُوْلِكَ فَاجْعَلْ لِي وَقَايَةً مِنَ النَّارِ وَأَمَّا نَا مِنَ الْعَذَابِ وَسْوَ الْحَسَابِ

ترجمہ : اے اللہ یہ تیرے رسول اکرم ﷺ کا حرم محترم ہے اسے میرے لئے آتشِ دوزخ سے پناہ گاہ بنا دے عذابِ آخرت اور برے حساب سے۔ امن و مقام امن بنا دے۔

مدینہ منورہ میں داخلہ سے پہلے غسل کرنا۔ اچھے عمدہ کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور سہولت کے ساتھ جتنا ہو سکے صدقہ کرنا یہ سب مستحب ہے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہونا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ

مُخْرَجٌ صَدَقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سَطَانًا نَصِيرًا .

ترجمہ : شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور میں رسول اللہ ﷺ کی ملت پر ہوں اے اللہ مقام صداقت میں مجھے داخل کر اور صداقت کے مقام پر مجھے نکال۔ اور مجھے اپنے لطف و کرم سے غالب و مددگار بنا دے۔

پھر مسجد نبوی ﷺ کے دروازہ پر پہنچنے کے بعد پہلے اپنا سیدھا پاؤں دروازہ میں رکھ کر یہ دعا پڑھے۔

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي وَافْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَفَضْلِكَ

ترجمہ : اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے اور مجھ پر اپنے فضل و کرم کے دروازے کھول دے۔

اور زائر جب روضہ اقدس کا رخ کرے تو یہاں تا بحد سعی مصلیٰ نبوی ﷺ پر تہیۃ المسجد ادا کرے ورنہ اس روضہ اقدس کے کسی حصہ میں یا مسجد نبوی میں کسی مقام پر نماز تہیۃ المسجد پڑھے۔ اور پھر بقعہ مبارکہ تک پہنچنے سے پہلے سجدہ شکر ادا کرے۔ بعض علماء نماز و تلاوت کے علاوہ سجدہ شکر بجالانے کے بارے میں مختلف رائے ہیں۔ پھر قبول زیارت کی دعا کے ساتھ مزید نعمتوں کے حصول کی بھی دعا کرے۔ پھر مزار مبارکہ کے پاس اس طرح حاضری دے کر آپ ﷺ کے سر مبارک کی طرف منہ اور قبلہ کی جانب پیٹھ کر کے کھڑا ہو۔ مزار مبارک کی جالی کو نہ چھوئے اور اسے بوسہ بھی نہ دے کیونکہ یہ دونوں کام اور اس کے علاوہ دوسری حرکتیں جاہلوں اور ناواقفوں کے طور طریق ہیں اور سلف صالحین کا یہ طرز عمل کبھی نہیں رہا۔ نیز زائر کے لئے لازمی ہے کہ بہر ادب وہ جالی سے چپک کر کھڑا نہ ہو بلکہ مناسب یہ ہے کہ جالی سے تین یا چار ہاتھ ہٹ کر پیچھے کھڑا ہو پھر رسول اکرم ﷺ حضرت صدیق اکبرؓ اور فاروق اعظمؓ کے حضور میں اپنے حضور قلب، پست آواز اور تمام اعضاء کے سکون کے ساتھ یہ کہے۔

السلام عليك يا سيد المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين السلام عليك يا من ارسله الله رحمة للعالمين السلام عليك وعلى اهل بيتك وازواجك واصحابك اجمعين السلام عليك ايها النبي رحمة الله وبركاته اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك عبده ورسوله وامينه وخيرته من خلقه واشهد

انك بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَاذَيْتَ الْاِمَانَةَ . وَجَاهَدْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ  
جِهَادِهِ وَعَبَدْتَ رَبَّكَ حَتَّى اتَاكَ الْيَقِينَ فَجَزَاكَ اللَّهُ عَنَّا يَا رَسُولَ  
اللَّهِ اَفْضَلَ مَا جَزَى نَبِيًّا عَن اُمَّتِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ  
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَي اِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ  
حَمِيدٌ مُّجِيدٌ . وَبَارِكْ عَلَي سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ﷺ كَمَا بَارَكْتَ عَلَي اِبْرَاهِيمَ  
وَعَلَى آلِ اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مُّجِيدٌ . اللَّهُمَّ اِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلُكَ الْحَقُّ  
وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ جَانُوكَ ، فَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
الرَّسُولُ لَوْ جَدَّ وَاللَّهُ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ .

ترجمہ : آپ پر سلام ہوا نبیوں کے سردار۔ آپ ﷺ پر سلام ہوا نبیوں  
کے خاتم۔ آپ پر سلام ہوا درختوں حسینوں کے قائد و رہبر۔ اے رسول آپ  
پر سلام ہوا آپ کو اللہ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا  
ہے۔ آپ پر سلام ہوا آپ کی اہل بیت، ازواج مطہرات اور تمام صحابہ کرام  
پر سلام ہو۔ آپ پر سلام ہوا نبی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوتی رہیں۔ میں  
گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے کوئی اور معبود نہیں، نیز گواہی دیتا ہوں کہ  
آپ اللہ کے بندے، اس کے رسول اس کے امین اور اس کی مخلوقات میں بہترین  
و برگزیدہ ہیں۔ اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ ﷺ نے رسالت کی تبلیغ فرمائی حق امانت ادا  
کیا۔ اور اللہ کی راہ میں پوری طرح حق جہاد ادا فرمایا۔ اور وصال الہی حاصل کرنے تک  
آپ ﷺ نے پروردگار کی عبادت کی۔ ہماری استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ﷺ کو وہ  
بہترین جزا مرحمت فرمائے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے جزا دیتا ہے۔  
اے اللہ درود و انعامات نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ پر اور ان کی آل پر  
جیسا کہ تو نے درود و انعامات سے حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو نوازا ہے۔ اے اللہ  
یقیناً تو ہی برتر لائق حمد ہے۔ اور اے اللہ برکتیں نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد ﷺ  
پر جیسی کہ تو نے حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد پر برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ اے اللہ  
یقیناً تو ہی لائق حمد و برتر ہے۔ اے اللہ تو نے ہی فرمایا ہے اور تیرا یہ فرمان بالکل صحیح  
ہے۔ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اگر وہ آپ ﷺ کے حضور حاضر ہوں اور  
آپ ﷺ کے ذریعہ اللہ سے مغفرت کے طلبگار ہوں تو آپ ﷺ ان کیلئے دعائے

مغفرت فرمائیں۔ اس صورت میں لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔

اور پھر یہ دعا کرے۔ اے اللہ ہم نے تیرا فرمان سنا اور تیرے احکام کی تعمیل میں تیرے نبی کریم ﷺ کے حضور حاضر ہیں جو ہمارے گناہوں کی تیری بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ اے اللہ ہم پر رحم و کرم کر اور سرورِ عالم ﷺ کی زیارت کی برکت سے خوش بخت بنا اور آپ ﷺ کی شفاعت ہمیں نصیب کر۔

اے رسول اللہ ﷺ ہم آپ ﷺ کی بارگاہ میں اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہوئے اور اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ نے آپ ﷺ کو رؤف رحیم قرار دیا ہے جو اپنی جان پر ظلم اور اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہوئے آپ ﷺ کے حضور حاضر ہو اس کی آپ ﷺ نے شفاعت کی۔ اب میری بھی شفاعت فرمائیے۔ میں آپ ﷺ کے قدمِ میمنت لزوم میں حاضر ہوں۔ اور اسی کے ساتھ زائر کے لئے لازمی ہے کہ وہ اپنے اپنے والدین، اعزاء و احباب وغیرہ کے لئے دعا مانگے کیونکہ آپ ﷺ کی بارگاہ میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔

رسائل المناسک میں متفرق شعراء کے اشعار مرقوم ہیں جن میں سے چند یہ ہیں۔ ترجمہ : ہموار زمین میں جن کی ہڈیاں دفن ہوئیں ان سب میں آپ ﷺ بہتر و برتر ہیں اور آپ ﷺ کی خوشبو سے ہموار زمین اور چٹانیں معطر ہو گئی ہیں۔

میری جان قربان ہو۔ اُس مزارِ مبارک میں آپ ﷺ قیام فرما ہیں اور اسی میں پارسائی اور بخشش و کرم موجود ہے۔

اے رسول اللہ ﷺ آپ ﷺ وہ شفیع ہیں جن کی شفاعت کی اس وقت امید و توقع ہے جب کہ پل صراط پر قدم متزلزل ہوں گے۔

مدینہ منورہ سے واپسی، وہاں رفتار کردار کی روش، مدینہ منورہ میں داخلہ کے طریقے، زیارات کے اداب اور مدینہ طیبہ میں رہن سہن وغیرہ کے طور طریق ہم (شیخ عبدالحق محدث و ہلوی) نے اپنی کتاب تاریخ المدینہ المسمیٰ بہ جذب القلوب الی دیار المحبوب میں تفصیل کے ساتھ مکمل طور پر تحریر کئے ہیں جو ضرور مطالعہ کئے جائیں۔

### دیدارِ سرورِ عالم ﷺ

خواب میں سرورِ عالم ﷺ کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے متعلق علماء و محدثین کے بیان پر متذکرہ بالا مضمون انشاء اللہ ختم کروں گا اور درحقیقت اللہ تعالیٰ ہی تکمیل کار کی توفیق

دیتا ہے اور اسی کے ہاتھ مقصود رسائی ہے۔

مواہب لدنیہ میں مذکور ہے رسول اکرم ﷺ کی خصوصیت ہے کہ جس نے خواب میں آپ ﷺ کا دیدار کیا تو اس نے حقیقتاً آپ ﷺ ہی کا جمالِ جہاں آرا دیکھا کیونکہ شیطان آپ ﷺ کی شکل اختیار نہیں کر سکتا ہے۔

صحیح مسلم میں حضرت قتادہ کی زبانی مرقوم ہے ”رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے خواب میں مجھے دیکھا تو اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا“۔ نیز حضرت جابرؓ کی زبانی یہ حدیث لکھی ہے۔ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً میرا دیدار کیا کیونکہ میری شباہت اختیار کرنا شیطان کے بس سے باہر ہے۔“

بخاری میں ابوسعیدؓ کی زبانی لکھا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا شیطان، مجھ جیسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی میری شباہت اختیار نہیں کر سکتا۔ نیز ابوقتادہ کی زبانی تحریر ہے وہ میری صورت میں دکھائی نہیں دے سکتا۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ شیطان میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ میری شباہت اختیار کر سکے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ شیطان کو مختلف صورتیں بدل لینے کی طاقت دی ہے وہ جو صورت چاہے بدل لیتا ہے مگر اس میں رسول اکرم ﷺ کی صورت و شبہہ اختیار کرنے کی طاقت نہیں ہے۔

بعض کہتے ہیں جمالِ جہاں آرا کے دیدار کا اقتضایہ ہے کہ جب کوئی شخص خواب میں سرکارِ ابد قرآن ﷺ کا دیدار کرے تو اس کو آپ ﷺ کی وہ صورت نظر آنا چاہیے جو حالتِ صحت میں تھی۔

بعض تنگ نظر کہتے ہیں دیدار کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ آپ ﷺ کی وہ صورت دیکھے جس میں آپ ﷺ نے وصال فرمایا اور اس دیدار میں آپ ﷺ کے موئے مبارک کا شمار بھی معتبر ہے جن میں وصال کے وقت تک بیس موئے مبارک سفید ہو گئے تھے۔ یعنی زمانہ علالت میں جو صورت آپ ﷺ کی تھی اس کا دیدار خواب میں ہو سکتا ہے۔

حماد بن زید کا بیان ہے محمد ابن سیرین سے جب کوئی شخص دیدارِ سرکارِ ابد قرآن کو بیان کرتا تو وہ کہتے تم نے جو صورت دیکھی ہے اس کی کیفیت بیان کرو۔ دیدارِ ابد قرآن کا اقراری اگر وہ صورت بیان کرتا جس سے محمد ابن سیرین ناواقف ہوتے تو جواب دیتے تم نے ہرگز ہرگز رسول اکرم ﷺ کا دیدار نہیں کیا۔ (اس روایت کی اسناد صحیح ہے)

حاکم نے عاصم بن کلیب کے حوالہ سے ان کے والد کی زبانی یہ روایت لکھی ہے کہ



میں نے حضرت ابن عباسؓ سے کہا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کا خواب میں دیدار کیا ہے انہوں نے کہا کیفیت بیان کرو چنانچہ میں نے رسول اکرم ﷺ کی صورت کو حضرت حسن ابن علیؓ کی صورت کے مشابہہ بتایا جس پر حضرت ابن عباسؓ نے فرمایا تم نے یقیناً جمال سرور عالم ﷺ کا دیدار کیا۔ اگرچہ اس روایت کی اسناد جید ہیں لیکن اس روایت کے معارض ہے جو ابن عاصم نے ایک دوسری سند کے ساتھ ابو ہریرہؓ کی زبانی یوں بیان کی ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے جس نے خواب میں میرا دیدار کیا تو اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا کیونکہ میں ہر صورت میں نظر آتا ہوں۔ اس روایت کے روایوں میں ابن تومہ بھی ہے جو ضعیف راوی اس لئے ہے کہ اس کے ہوش و حواس باقی نہیں رہے تھے۔ اور مندرجہ بالا روایت اس کی زبانی اس زمانہ کی ہے جب کہ وہ ہوش و حواس سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتا ہے۔

قاضی ابوبکر ابن عربی نے لکھا ہے سرور عالم کے معلومہ صفات کے ساتھ آپ ﷺ کا دیدار ہونا دراصل ادراک حقیقی ہے اور غیر معلومہ صفات کے ساتھ جمال جہاں آرا کا دیدار کرنا ادراک مثالی ہے۔

حقیقت امر یہ ہے کہ انبیاء کے جسم کوزمین متغیر نہیں کرتی۔ اس لئے سرکار ابد قرار کی ذات عالی وقار کا دیدار، حقیقتاً آپ ﷺ کا دیدار ہے اور آپ ﷺ کی صفات کا علم و نظر آنا یہ مثالی ادراک یعنی مثال نظر آتا ہے۔

قاضی عیاض نے لکھا ہے رسول اکرم ﷺ نے جو فرمایا ہے کہ ”جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے یقیناً میرا دیدار کیا“ اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جس نے آپ ﷺ کو اس معلومہ صورت میں دیکھا جس میں آپ ﷺ حیات طیبہ کی صورت میں جلوہ گر تھے تو خواب کا ایسا دیدار حق ہوا اور جس نے آپ ﷺ کو خواب کی حالت میں دیکھا اس نے یقیناً سرکار ابد قرار ﷺ کا دیدار کیا۔

شیخ الاسلام ابن حجر نے لکھا ہے کہ قاضی عیاض کا قول بھی منافی دیدار نہیں بلکہ ان کے قول سے یہ صاف ظاہر ہے کہ دونوں حالتوں میں دیدار سے مراد دیدار حقیقی ہے۔ اور پہلی حالت میں خواب، محتاج تعبیر نہیں اور دوسری حالت میں محتاج تعبیر ہے۔ اور جن لوگوں کا یہ خیال ہو کہ بحالت خواب سرور عالم کا دیدار صورت معلومہ کے ساتھ ہی دراصل خواب میں دیدار ہے۔ اور جس نے آپ ﷺ کو کسی اور صفتی صورت میں دیکھا تو وہ خواب

میں دیدار سرورِ عالم ﷺ نہیں بلکہ اس کا خواب، خواب پریشاں ہے تو ایسے کلام زبان پر لانے والے تعلیم اور اسلامی تعلیم سے بے بہرہ ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ سرکارِ ابد قرآن ﷺ کا دیدار خواب میں اس طرح ہو جو حالاتِ دنیا کے موافق نہ ہو تب بھی دیدار ہوا۔ اور شیطان کو کسی طرح بھی یہ قوت نہیں ہے کہ وہ معمولی طریقہ سے بھی آپ ﷺ کا مشابہ ہو سکے اگر وہ آپ ﷺ کی صورت کا ادنیٰ طریقہ سے بھی مشابہ ہو تو آپ ﷺ کے اس ارشادِ عالی کے خلاف ہوگا کہ شیطان میری مماثلت اختیار نہیں کر سکتا۔ اور چونکہ رسولِ اکرم ﷺ کا حکم غلط نہیں ہو سکتا اس لئے مناسب یہی ہے کہ جس طرح سرکارِ ابد قرآن ﷺ کو خود بذاتہ خواب میں دیکھنا دیدار ہے اسی طرح آپ ﷺ کی جانب امور منسوبہ کو دیکھنا بھی دیدار ہے اور اس میں کسی قسم کا وہم و شک نہ کرنا ہی مستحسن ہے اور اس قسم کا اعتقاد ہی حرمت و عصمت و برتری ہے۔ اور جس طرح سرکارِ ابد قرآن ﷺ حیاتِ ظاہری میں بحالتِ بیداری شیطان سے محفوظ تھے اسی طرح اب بھی بحالتِ خواب اپنا دیدار عالی کرنے میں شیطان کے کروت سے محفوظ ہیں۔

مذکورہ بالا حدیث کی صحیح تاویل ہی یہ ہے کہ سرکارِ ابد قرآن ﷺ کا دیدار کسی صورت میں باطل اور غیر صحیح نہیں اور یہ خواب پریشاں بھی نہیں بلکہ درحقیقت فی نفسہ حق و درست ہے۔ اور آپ ﷺ کا دیدار دراصل آپ ﷺ ہی کا دیدار ہے۔ اور اگر کسی دوسری صورت میں دیدار ہو تو اس صورت خواب میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہیں بلکہ یہ بھی منجانب اللہ ہے۔ اور یہی قول قاضی ابوبکر ابن طیب وغیرہ کا ہے جس کی صداقت کی تائید سرورِ عالم ﷺ کے اس فرمان سے ہوتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے بالکل حق و صحیح دیکھا اور اسی کو قرطبی نے لکھ کر صحیح قرار دیا ہے اور لکھا ہے کہ ہمارے شیخ المشائخ حافظ ابن حجر، ہشیمی نے بھی اسی کو درست فرمایا ہے جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ جس نے رسولِ اکرم ﷺ کی جوانی، بڑھاپے، ڈھلتی عمر یا آخری عمر کی شکل، خواب میں دیکھی اس نے دیدار سرورِ عالم ﷺ سے سرفرازی پائی۔

### تعبیر دیدار ﷺ

جس نے سرکارِ ابد قرآن ﷺ کو کسی دوسری حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر دیکھنے والے کے حال کے موافق ہے۔ جیسا کہ بعض علمائے تعبیر کا بیان ہے کہ جس نے سرورِ عالم ﷺ کو بڑھاپے کی شکل میں دیکھا تو اس کی تعبیر، خواب دیکھنے والے کی انتہائی سلامتی ہے۔ اور جس

نے جوان شکل میں دیکھا تو اس کی تعبیر سخت جنگ ہے۔

حافظ ابو سعید احمد بن محمود بن نصر "کا بیان ہے جس نے خواب میں سرورِ عالم ﷺ کو اپنی حالت و ہیئت پر دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات اچھے ہوں گے۔ وہ صاحبِ رائے ہوگا۔ اپنے دشمنوں پر کمال جاہ و حشمت کے ساتھ غالب آئے گا۔ اور جس نے سرورِ عالم ﷺ کو کسی دوسری حالت میں مثلاً ترش رو وغیرہ دیکھا تو یہ دیکھنے والے کی بد حالی کی دلیل ہے۔

عارف بن ابو حمزہ "کا بیان ہے جس نے سرکارِ ابد قرآن ﷺ کو خواب میں اچھی حالت میں دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والا مذہبی اعتبار سے بہت اچھا ہے۔ اور نعوذ باللہ پناہ بخدا اللہ کی امان اگر کوئی آپ ﷺ کے کسی عضو میں چوٹ زخم یا کوئی کمی دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ دیکھنے والے کے دینی عقائد میں فتور اور خلل ہے۔ اور یہی بات بالکل حق و درست ہے اور اس کا کئی مرتبہ تجربہ ہو چکا ہے۔

نیز ان تمام طریقوں کے ذریعہ دیدار کرنے سے دیکھنے والے کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اپنے مذہبی عقائد کا علم ہو جاتا ہے کہ اس سے مذہبی عقائد صحیح ہیں یا ان میں خلل و فتور و نقص ہے۔

رسول اللہ ﷺ نورانی ہیں اور آپ ﷺ کی مثال صاف و شفاف آئینہ کی مانند ہے کہ دیکھنے والے کو اپنی ذات کی اچھائی و برائی بے کم و کاست مکمل طور پر اس آئینہ میں نظر آ جاتی ہے۔

### خواب میں کلام فرمائی

اسی طرح خواب کی حالت میں سرکارِ ابد قرآن ﷺ کے کلام سننے کے بارے میں بھی لوگ مختلف رائے ہیں۔ جس کا بہترین تصفیہ یہ ہے کہ جو شخص بحالتِ خواب آپ ﷺ کا کلام سماعت کرے اگر وہ سنت کے موافق ہو تو بالکل حق و صحیح ہے اور اگر سنت و سیرتِ نبوی ﷺ کے خلاف ہو تو یہ سننے والے کی سماعت کا فتور ہے۔

یعنی دیکھنے والے کو سرورِ عالم ﷺ کا دیدار تو ہوا لیکن اس کی سماعت نے غلطی کی ہے۔ اور یہی وہ بہترین تصفیہ ہے جو میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) نے اب تک سنا ہے۔ اللہ مجھ بندہ کمزور کی اصلاح کرے۔ میں نے سیدی شیخ عارف باللہ عبدالوہاب ابن ولی اللہ مشقی کو فرماتے خود سنا ہے وہ فرماتے تھے کہ ہم نے سیدی شیخ عارف باللہ علی بن حسام الدین متقی کو فرماتے سنا ہے کہ مصر سے ایک استفتاء آیا جس کا مضمون یہ تھا کیا فرماتے ہیں سادات علماء

و عرفاء اس شخص کے بارے میں جس نے اپنے خواب میں رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے سنا ”شراب پی“ اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ یہ استفتاء جس کے پاس پہنچا اس نے کچھ نہ کچھ لکھا اور حسب توفیق تاویلات و اشارات تحریر کئے یہاں تک کہ جب شیخ عارف باللہ تابع رسول اللہ و مقتدائے امت محمد بن عراق شیخ کامل اور مکمل پیروکار سنت کے پاس وہ استفتاء آیا تو آپ نے اس کا یہ جواب تحریر فرمایا خواب دیکھنے والے کی سماعت نے غلطی کی۔ کیونکہ سرور عالم ﷺ نے تو بارہا صاف صاف فرمایا ہے کہ شراب نہ پیو۔ ان صاف احکام کی موجودگی میں امر واقعہ یہ ہے کہ سرور عالم ﷺ نے خواب دیکھنے والے سے فرمایا کہ شراب نہ پی اور اس کی سمجھ میں غلطی سے یہ آیا کہ شراب پی۔ واللہ اعلم۔

نیز یہ امر واقعہ ہے کہ سرکار ابد قرآن ﷺ اب بھی بحالت خواب کلام فرماتے ہیں اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے نوازتا ہے۔

### دیدار خواب، عین دیدار ﷺ

صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے ”جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب حالت بیداری میں بھی میرا دیدار کرے گا“۔ اور یہ روایت بھی مذکور ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو گویا اس نے مجھے بیداری میں دیکھا اور شیطان میری شبابت اختیار نہیں کر سکتا۔ اسمعیلی نے لکھا ہے کہ ”مجھے بیداری میں دیکھا“ کے الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ عنقریب دیدار کرے گا۔

یہی قول ابن ماجہ کا بھی ہے اور اسی کو ترمذی نے حضرت ابن مسعودؓ کی زبانی روایت کر کے اس معنی کو صحیح قرار دیا ہے۔

جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب بحالت بیداری ہماری دید کرے گا اس حدیث کے الفاظ ”وہ عنقریب بحالت بیداری ہماری دید کرے گا“ کی تفسیر میں علماء باہم مختلف رائے ہیں۔ ابن بطال نے لکھا اس جملہ کا مطلب یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو اس کے خواب کی تصدیق حالت بیداری میں ہو جائے گی۔ اور اپنے اس خواب کو صحیح و برحق دیکھ لے گا۔ اور اس سے ہرگز یہ مراد نہیں کہ یہ خواب دیکھنے والا سرکار ابد قرآن ﷺ کو آخرت میں دیکھے گا کیونکہ روز محشر آپ ﷺ کی تمام امت آپ ﷺ کا دیدار کرے گی اس میں خواب دیکھنے والے یا نہ دیکھنے والے کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔

عامہ مازری کا بیان ہے حدیث گویا اس نے حالتِ بیداری میں مجھے دیکھا کے ظاہر معنی ہی یہ ہو سکتے ہیں کہ عنقریب بیداری میں میرے جمالِ جہاں آرا سے سرفراز ہوگا۔ یعنی جو لوگ ہجرت کر کے ابھی مدینہ نہیں آئے ہیں وہ عنقریب ہمارا دیدار کریں گے۔ اور آپ ﷺ کو خواب میں دیکھنا یہ آپ ﷺ کو بحالتِ بیداری دیکھنے کی علامت ہے جس کے بارے میں رسول اکرم ﷺ کو اللہ نے وحی کے ذریعہ مطلع کیا کہ جن لوگوں نے آپ ﷺ کو خواب میں دیکھا ہے وہ عنقریب آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ ﷺ سے فیوض حاصل کریں گے۔ اور عنقریب بیداری میں دید کریں گے۔ اس جملہ کے ایک تاویلی معنی یہ بھی ہیں کہ اس خواب کی تعبیر و صحت کو عین حالتِ بیداری میں دیکھے گا۔

قاضی عیاض نے لکھا ہے جس نے سرورِ عالم ﷺ کو خواب میں آپ ﷺ کی صفات معروفہ کے ساتھ دیکھا تو ہو سکتا ہے کہ معروفہ صفات سے اسے زینت دی جائے روزِ محشر سرکارِ ابد قرآن ﷺ کا دیدار ہو۔ اور صفات معروفہ کے سبب اس کی شان و شوکت میں اضافہ ہو۔ اور اس خواب کے سبب اسے رسول اکرم ﷺ کا قرب نصیب ہو اور اعلیٰ مقامات کے لئے اس کی شفاعت فرمائیں اور مزید دیگر خصوصی انعامات سے بہرہ اندوز کیا جائے۔

بعض لوگ کہتے ہیں ممکن ہے کہ روزِ محشر بعض گناہ گاروں کو اللہ تعالیٰ دیدارِ سرورِ عالم ﷺ سے تھوڑی مدت تک روکے رکھے تاکہ دیدار نہ کرنے کے عذاب میں مبتلا رہیں۔ انہی کے متعلق ارشادِ عالی ہے کہ عنقریب بحالتِ بیداری ہمارا دیدار کریں گے۔

ابن ابی حمزہ نے حدیث کے ان الفاظ کو کچھ دوسرے ہی معنوں پر محمول کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباسؓ نے خواب میں آپ ﷺ کا دیدار کیا۔ پھر بیدار ہونے کے بعد آپ ﷺ کی اس حدیث ”عنقریب بحالتِ بیداری ہمارا دیدار کریں گے“ پر غور و فکر کیا۔ اور اسی تفکر میں اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہؓ کے پاس گئے اور ان سے یہ حدیث بیان کی جس پر انہوں نے سرورِ عالم ﷺ کا مستعملہ آئینہ نکال کر دیا جس میں ابن عباسؓ نے اپنی صورت دیکھنے کے بجائے رسول اکرم ﷺ کی شبیہ مبارک دیکھی اور خود اپنی صورت اس میں دکھائی نہ دی۔

ان تمام جوابات سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک یہ کہ خواب میں جو صورت دیکھی جاتی ہے وہ تشبیہ و تمثیل کے طور پر ہوتی ہے جس کا ثبوت رسول اکرم ﷺ کا یہ فرمان ہے کہ

خواب میں دیکھنے والے نے گویا بیداری کی حالت میں میرا دیدار کیا۔ دوسری یہ کہ ”عنقریب بیداری کی حالت میں دیکھے گا“ کے بطریق تاویل یہ معنی ہوئے کہ حقیقتاً میرے دیدار سے شرف اندوز ہوگا۔

تیسری یہ کہ یہ حدیث خاص ان لوگوں کے حق میں ہے جو آپ ﷺ پر ایمان تو لائے چکے تھے لیکن انہوں نے آپ ﷺ کا دیدار نہیں کیا تھا۔  
چوتھی یہ کہ خواب میں دیکھنے والا آپ ﷺ کو آپ کے مستعملہ آئینہ میں دیکھے گا۔  
بشرطیکہ آئینہ مبارک دستیاب ہو۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے تحریر کیا ہے کہ آئینہ مبارک کا دستیاب ہونا اب مشکل ہے۔  
پانچویں یہ کہ خواب میں دیدار کرنے والا مزید خصوصیات و انعامات کے ساتھ روزِ محشر آپ ﷺ کے دیدار سے نوازا جائے گا۔  
اللہ تعالیٰ ہی حقیقتِ حال جانتا ہے۔ اور وہی ہمارا مرجع و ماویٰ ہے۔

(از اقبال الدین احمد)





## ربیع الآخر

مناسب ہے کہ اس ماہ ربیع آخر کے حالات اختصار کے ساتھ حوالہ قرطاس کئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ اس متبرک ماہ کے ظاہری و باطنی فیوض سے بہرہ ور کرے۔

اسی مہینہ میں سیدنا و مولینا، قطب یگانہ، غوث اعظم شیخ الاسلام و المسلمین غوث الثقلین شیخ محی الدین ابی محمد عبدالقادر حسنی و حسینی جیلانی کی وفات ہوئی ہے۔ اور آپ کے وصال الہی کی تاریخ میں اختلاف پیدا کر لیا گیا ہے بطور اشارہ ہم قول راجح بیان کریں گے۔

کتاب ہجۃ الاسرار جس میں ان شیخ الاسلام کے حالات مشائخ عظام کی زبانی ثقہ راویوں کے ذریعہ لکھے ہیں۔ اس کتاب کے مصنف اور شیخ الاسلام کے درمیان صرف دو واسطے واقع ہیں چنانچہ مصنف ہجۃ الاسرار نے لکھا ہے کہ شیخ الاسلام ماہ رمضان میں بیمار تھے اور آپ کے پاس اس وقت مشائخ کے منجملہ شیخ علی بن ہبتی، شیخ ابونجیب عبدالقادر سہروردی اور شیخ ابونحسن جوستی وغیرہ کی نشست تھی کہ اتنے میں ایک خوبصورت باوقار شخص آیا اور کہا السلام علیک یا ولی اللہ! میں ماہ رمضان ہوں۔ عذر خواہی کیساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہی رمضان آپ کے مقدر میں تھا۔ اب آپ کو الوداع کہتا ہوں اور یہ ہماری آپ کی آخری ملاقات ہے پھر وہ شخص واپس چلا گیا۔ اور ہفتہ کی رات کو بتاریخ ۹۔ ربیع الآخر آپ نے انتقال کیا۔ اور دوسرے سال کے رمضان کے روزے آپ نہ رکھ سکے۔

۱۔ حضرت غوث الاعظم ایران کے مشہور قصبہ جمیل میں یکم رمضان ۴۷۰ھ کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کی والدہ ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبد اللہ الصومعی الحسینی کی عمر (۶۰) سال کی تھی۔ آپ کے والد بزرگوار کا اسم گرامی ابوصالح الحسینی تھا۔ آپ والدہ کی طرف سے حسینی اور والد کی طرف سے حسنی سید تھے۔ اور آپ کے بچپن میں ایران کی حکومت خاندان سلجوقیہ کے تیسرے سلطان معزالدین ابوالفتح ملک شاہ ابن الپ ارسلان کے ہاتھ میں تھی۔ آپ حبلی مسلک رکھتے تھے۔ تمام کا اتفاق ہے کہ آپ نے بہ عمر (۹۰) سال بتاریخ ۱۱۔ ربیع الآخر ۶۱۲ھ مطابق ۱۱۸۲ء میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ کثرت ہجوم کے باعث ہفتہ کے دن رات کے وقت آپ کو خود قائم کردہ مدرسہ میں جہاں علماء آپ سے کتابی علوم حاصل کرتے تھے اس کے سامان کے نیچے آپ کا جسم سپرد زمین کیا گیا بغداد میں آپ کا مزار مبارک اب بھی مرجع خلایق ہے۔ از مترجم۔ ۱۲



## مناقب غوث الاعظمؒ

آپ کی خوبیوں اور مناقب کے بارے میں شیوخ نے لکھا ہے کہ ہر مہینہ اپنی رویت ہلال سے پہلے آپ کے پاس آتا۔ اگر تقدیر الہی کے سبب اس مہینہ میں کوئی ہونے والی برائی یا سزا دہی مقدر ہوتی تو ناپسندیدہ و منکرہ صورت میں آتا اور اگر تقدیر الہی کے سبب اس میں نعمتیں اور خوبیاں ہوتی تو خوبصورت شکل میں نمودار ہوتا۔

ہجرت الاسرار اور شیخ عالم و عارف امام عبداللہ یافعیؒ کی کتاب خلاصہ المفاخر و مناقب شیخ عبدالقادر جس کے مکملہ کتاب کا نام روضۃ الریاحین ہے اس میں مرقوم ہے کہ زمانہ کے بہترین مشائخ میں سے غوث الاعظم کے فرزند سید السادات سیف الدین عبدالوہاب کا بیان ہے کہ والد بزرگوار پیر و مرشد شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کے پاس ہم کئی لوگ جمعہ کے دن سہ پہر کے وقت بتاریخ ختم ماہ جمادی الآخر ۵۶۰ھ نشہ تھے اور پیر و مرشد فرما رہے تھے اتنے میں ایک خوبصورت نوجوان آیا اور پیر و مرشد کے پاس بیٹھ کر اس نے کہا السلام علیک اے ولی اللہ! میں رجب ہوں اور یہ خوشخبری دینے آیا ہوں کہ بہ تقدیر الہی اس ماہ میں لوگوں کے لئے کوئی عام برائی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ مہینہ لوگوں پر بخیر و خوبی گزرا۔ پھر اس ماہ رجب کو آخری دن جو اتوار کا دن تھا ہم لوگ پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک کریمہ المنظر بد صورت شخص آیا اور کہا السلام علیک یا ولی اللہ! میں شعبان ہوں اور اللہ نے اس ماہ میں مقدر کر دیا ہے کہ بغداد میں بلائیں آئیں گی۔ ارض حجاز میں سخت قحط ہوگا اور خراسان میں رن پڑے گا چنانچہ جیسا اس آمدہ بد صورت نے کہا تھا ویسا ہی دیکھنے میں آیا۔

## عرس غوث الاعظمؒ

مستند روایات معلومہ کے پیش نظر غوث اعظم کا عرس ۹۔ ربیع الآخر کو ہونا چاہئے۔ اور اسی تاریخ کو پیر و مرشد امام کامل و عارف شیخ عبدالوہاب قادری لہتمتی مکیؒ آپ کا عرس قرار دیتے تھے۔ یہ وہ تاریخ عرس ہے جو قابل اعتماد اس سبب سے بھی ہے کہ یہی تاریخ عرس ہمارے پیر و مرشد شیخ اعظم علی متقیؒ اور دیگر شیوخ کے نزدیک قابل اعتماد ہے۔


لیکن ہمارے ملک میں ان دنوں ۱۱ ربیع الثانی ہی زیادہ مشہور معروف ہے اور غوث الاعظم کی اولاد و مشائخ عظام مقیم ہند (و پاک) گیارہویں تاریخ کو عرس کرتے ہیں۔

نیز اسی طرح پیر و مرشد سیدنا بہی رضی الوضی ابوالمحسن سید شیخ موسیٰ حسنی جیلانی ابن شیخ کامل عارف حق معظم و مکرم ابوالفتح شیخ حامد حسنی جیلانی نے اور اداقادر یہ میں لکھی ہے اور شیخ حامد حسنی جیلانی ایک متفق علیہ ولی اللہ تھے جن کا لقب مخدوم ثانی اور عبدالقادر ثانی تھا انہوں نے اپنے آباء کرام کی زبانی آپ کے عرس کی تاریخ گیارہویں لکھی ہے۔

شیخ وقت امام عبداللہ یافعی نے اپنی کتاب خلاصہ المفخر اور مشہور عالم تاریخ مسمیٰ مرآة البجنان میں آپ کی تاریخ رحلت ماہ ربیع الثانی ۶۱، ۶۰ھ تحریر کی ہے اور کوئی دن تاریخ تحریر نہیں ہے انہوں نے تاریخ کا تعین شاید عدم معلومات یا اختلاف تاریخ کی وجہ سے نہیں کیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ کی تاریخ وفات ۷ ربیع الثانی ہے اور یہ بے اصل روایت ہے باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

اگر یہ دریافت کیا جائے کہ ہمارے ملک میں مشائخ عظام کی وفات کی تاریخ پر جو عرس کیا جاتا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ میں نے بھی یہی سوال اپنے پیر و مرشد امام عبدالواہب متقی مکی سے کیا تھا جس کے جواب میں فرمایا تھا کہ ہمارے مشائخ کے طور طریقے عادات و رواج اور نیت ہی گیارہویں کی ہے اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ دوسری تو تاریخ کو ترک کرتے ہوئے گیارہویں ہی کو کیوں خاص کر لیا ہے؟ جواب سرفراز فرمایا مہمان نوازی مطلق سنت ہے اس لئے تاریخ سے قطع نظر کرتے ہوئے غرباء کو دعوت دو اور کھانا کھلاؤ۔ نیز شریعت اسلام میں اس کے نظائر بھی موجود ہیں یہ عام طور پر مطلق حیثیت سے سنت ہے اور کسی خاص وجہ سے خصوصیت کی بناء پر ان کا بروئے کار لانا بدعت ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بعض متاخرین نے بعض مغربی مشائخ کی زبانی بیان کیا کہ جس دن آپ نے وصال الہی کیا اس دن کو لوگوں نے از خود دوسرے دنوں کی بہ نسبت زیادہ خیر و برکت کا منور درخشاں دن بنا دیا ہے۔ پھر تھوڑی دیر تک سرنگوں رہ کر سر اٹھایا اور فرمایا زمانہ ماضی میں یہ سب کچھ نہ تھا یہ تو صرف متاخرین کی خوشیاں اور خود کاریاں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔





## ماہِ رجب

لغت قاموس میں رجب کے معنی ”ڈرایا اور تعظیم کی“ کے ہیں اسی سے رجب نکلا ہے اور اس کی جمع ارجاب، رجب اور جبات آتی ہے۔ نیز ماہِ رجب میں قربانی کرنے کو ترجیب کہتے ہیں۔ اور عرب اس ماہ کی تعظیم کرتے تھے۔

جزری نے اپنی نہلیہ میں تحریر کیا ہے کہ ترجیب کے معنی تعظیم کرنے کے ہیں اسی وجہ سے عرب رجب کی تعظیم کرتے تھے۔

ماہِ جمادی الآخر اور ماہِ شعبان کے درمیان کا مہینہ رجب ہے اس کو رجب مضر بھی کہتے تھے کیونکہ قبیلہ مضر اس کی خاص طور پر حرمت و تعظیم کرتے تھے۔

رسول اکرم ﷺ نے جو یہ فرمایا ہے کہ ماہِ رجب وہ مہینہ ہے جو ماہِ جمادی الآخر اور ماہِ شعبان کے درمیان ہے اس میں اس امر کی تاکید مقصود ہے کہ لوگ ایک ماہ کو ہٹا کر دوسرے ماہ کی جگہ دیا کرتے تھے۔ اور زمانہ جاہلیت کے لوگ جو روز و ماہ میں کمی بیشی کر لیا کرتے تھے ان کے خیالِ باطل اور عملِ ناقص کو راہ پر لانے کا سرورِ عالم ﷺ نے اس طرح بھی سبق دیا ہے۔

عسیرہ رجبیہ اس قربانی کا نام ہے جو جاہلیت والے ماہِ رجب میں جانور ذبح کیا کرتے تھے۔

رجب کو اصم (بہرا) بھی کہتے تھے کیونکہ قاموس میں ہے کہ رجب بہرا ہے یعنی اس ماہ میں کوئی آواز نہیں آتی اور کوئی منادی ندا نہیں کرتا کہ اے فلاں اور اے دوست وغیرہ۔

نہایہ میں مرقوم ہے کہ اللہ کا مہینہ رجب دراصل بہرہ ہے کیونکہ اس میں ہتھیاروں کی آوزیں نہیں آتیں۔ اور چونکہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اس لئے انسانی صفت کے مد نظر اسے بہرا کہا جانے لگا۔

بندۂ مؤلف (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) عنی اللہ عنہ عرض پرداز ہے کہ لوگوں میں یہ جو مشہور ہے کہ اس مہینہ کو بہرا اس لئے کہتے ہیں کہ روزِ محشر یہ خود بہرا بن جائے گا اور لوگوں کے جرائم و عیوب پر گواہی نہیں دے گا اور کہے گا میں تو بہرا ہوں۔ میں کوئی چیز سنتا ہی نہیں ہوں۔ اور اسے اللہ کا مہینہ اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت ستر پوشی کی طرح یہ بھی لوگوں کی

عیب پوشی کرتا ہے۔“ لوگوں کے ان اقوال کی کوئی اصلیت اور معقولیت نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت ستاری (پردہ پوشی) کا اقتضایہ نہیں کہ بہرہ پن کی خصوصیت پائی جائے۔ نعوذ باللہ من ذلک اور یہ امر بالکل واضح ہے کہ بہر اپنے بہرے پن کی وجہ سے صرف اقوال و گفتگو سننے سے عاجز ہوتا ہے اور بہرے پن کھڑ کر کے لوگوں کے اقوال چھپا سکتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جامع الاصول میں صحاح ستہ کی کوئی حدیث بھی ماہِ رجب کی فضیلت کی ہمیں نہیں ملی۔ البتہ جامع کبیر میں کچھ احادیث ماہِ رجب کے فضائل اور اس ماہ کے اعمال کے فضائل کی مذکور ہیں۔ جن میں سے چند یہ ہیں۔

### فضائل ماہِ رجب

ابو اسحاق بن فوائس نے اپنی امالی میں حسن لہریؒ کے حوالہ سے مرسلًا لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ شعبان میرا اور رمضان میرے امتیوں کا مہینہ ہے اور رجب وہ پر عظمت مہینہ ہے جس میں نیکیوں کا چند در چند کئی گنا ثواب دیا جاتا ہے جس نے اس ماہ ایک دن کا روزہ رکھا اسے سال بھر کے روزوں جیسا ثواب ملتا ہے۔

امام رافعی نے سعید کی زبانی لکھا ہے کہ رجب یقیناً اللہ کا مہینہ ہے۔ اسے بہر اس لئے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ اس مہینہ میں جدال و قتال بند رکھتے اور اپنے ہتھیار اٹھا رکھتے تھے لوگ اس ماہ میں امن امان سے رہتے۔ تمام راستے پر امن ہوتے اور کوئی کسی سے خائف نہ رہتا اور اس پورے مہینہ میں امن و امان نظر آتا تھا۔

### تقدیر و آیات فضیلت

امام بیہقی نے اپنی شعب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی تحریر کیا ہے کہ رجب وہ پر عظمت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا ثواب کئی گنا زیادہ دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ میں ایک دن کا روزہ رکھا تو گویا اس نے سال بھر کے روزے رکھے۔ اور جس نے اس ماہ میں سات دن کے روزے رکھے تو اس پر دوزخ کے سات دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے اس ماہ میں آٹھ دن روزے رکھے اس کے لئے جنت کے آٹھ دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور اس ماہ دس دن کے روزے رکھنے والا اللہ سے جو مانگے گا وہ اسے اللہ تعالیٰ

۱۔ واضح ہو کہ ہمارے اوزان و پیمانہ جات کی مانند اللہ تعالیٰ ثواب کو نہیں ناپتا۔ رسول اکرم ﷺ کی موجودہ مثال ایک تمثیلی مثال ہے۔ اور تشویق ثواب کی جانب مائل کرتی ہے۔

عنایت کرنے گا۔ اور جو اس ماہ پندرہ روزہ رکھے تو آسمانی منادی آواز دیتا ہے اے روزہ دار تیرے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیئے گئے۔ اب نیک عمل شروع کر دو جو زیادہ عمدہ عمل کرے گا اسے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔

اور اس حدیث کی بابت یہ لکھا ہے کہ وہ روایت ہے جس کا مرفوع ہونا منکر و

ناپسندیدہ ہے۔

طبرانی نے سعید بن ابی راشد کی زبانی لکھا ہے کہ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو کشتی میں سوار کیا تو انہوں نے خود روزہ رکھا اور اپنے ساتھیوں کو روزے رکھوائے تا آنکہ چھ ماہ تک ان کی کشتی چلتی رہی اور جس دن جو دی پہاڑ پرز کی اس دن محرم کی دسویں تھی۔ جس کے شکر میں نوح اور ان کے ساتھیوں نے روزہ رکھا اور دیگر تمام جانوروں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔

عاشورہ ہی وہ دن ہے جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کے لئے دریا کو پایاب کر یا تھا۔ عاشورہ کے دن اللہ نے حضرت آدم، یونس کی توبہ قبول کی اور اسی دن حضرت ابراہیمؑ تولد ہوئے۔

امام بیہقی نے شعب الایمان میں لکھا ہے کہ ماہ رجب میں ایک دن اور ایک رات بہت ہی برتر و افضل ہے جس نے اس دن روزہ رکھا اور اس رات عبادت کی تو گویا اس نے سو سال کے روزے رکھے اور سو سال تک عبادت کی اور یہ تاریخ ۲۷/رجب ہے اور اسی ماہ اللہ نے رسول اکرم ﷺ کو تاج نبوت سے رونق افزا فرمایا۔ نیز اس روایت کی بابت تحریر کیا کہ اسے حضرت سلیمان فارسیؑ کی زبانی منسوب کرنا منکر و ناپسندیدہ ہے۔

طبرانی نے اوسط میں اور ابن ابی شیبہ نے خرشہ بن خرقی روایت سے لکھا ہے کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو دیکھا ہے کہ وہ رجبی کے روزہ داروں کو پکڑ کر کھانا کھلاتے اور فرماتے یہ رجبی، رجبی کیا چیز ہے۔ سنو رجب وہ مہینہ ہے جسے ایام جاہلیت میں معظم مانا جاتا تھا۔ لیکن اسلام نے اس کی خود ساختہ عظمت کو ترک کر دیا ہے۔

ابن عسا کرنے ابی قلابہ کی روایت لکھی ہے کہ رجب کے روزہ داروں کے لئے جنت میں محل بنائے جاتے ہیں۔

ابن شاہین نے اپنی ترغیب میں عامر بن شبل جرمی کی یہ روایت لکھی ہے میں نے ایک آدمی سے سنا ہے جو کہتا تھا کہ میں نے حضرت انس بن مالکؓ کو فرماتے سنا ہے جنت

میں ایک محل ہے جس میں صرف ماہ رجب کے روزے دار داخل ہونگے۔

شیرازی نے اپنی القاب میں لکھا ہے جنت کی ایک نہر کو رجب کہتے ہیں جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے جس نے ماہ رجب میں ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ سے اس نہر سے سیراب کرے گا۔

امام بیہقی نے اپنی شعب الایمان میں حضرت انسؓ کی روایت سے لکھا ہے پہلی ماہ رجب کا روزہ تین سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور رجب کی دوسری و تیسری تاریخ کا روزہ دو سال اور ایک سال کے گذشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔

(اسے ابو محمد خلال نے ابن عباسؓ کی زبانی فضائل رجب میں تحریر کیا ہے)

ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے جس میں عبادت کرنے والے کو سو سال کی نیکیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اور یہ ۲۷/ رجب کی شب ہے۔ جس نے اس رات بارہ رکعتیں اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر سو مرتبہ پڑھا۔ اور بعد نماز سو مرتبہ استغفر اللہ پڑھ کر سو مرتبہ درود شریف پڑھا اور پھر دن نکلنے پر روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ ایسے نمازی و روزہ دار کی ہر ایک دعا سوائے دعائے معصیت و گناہ کے قبول فرماتا ہے اور ایسا شخص دنیا و آخرت کے حصول کے لئے جو دعا چاہے مانگے۔

اس روایت کو امام بیہقی نے اپنی شعب الایمان میں ابان کے واسطے انسؓ کی زبانی مروی ہونا تحریر کر کے لکھا ہے کہ یہ پہلی والی روایت سے بھی زیادہ ضعیف ہے۔

ماہ رجب میں سرور عالم ﷺ فرماتے تھے اے اللہ! ماہ رجب و شعبان میں ہمارے لئے برکتیں نازل فرما اور ماہ رمضان ہمیں نصیب کر۔

اس کے علاوہ ابن عسا کرنے مزید یہ لکھا ہے کہ شب جمعہ میں آپ ﷺ فرماتے تھے یہ درختاں شب ہے اور جمعہ کی بابت ارشاد فرماتے یہ روشن دن ہے۔

تنزیل الشریعت میں احادیث موضوعہ کے تحت یہ حدیث لکھی ہے کہ تمام مہینوں پر ماہ رجب کی فضیلت کی مثال دیگر تمام کلام پر قرآن کریم کی برتری کی مانند ہے۔

اس روایت کو دیلیمی نے انسؓ کی زبانی لکھا ہے اس کے موضوع ہونے کا سبب نہیں

لکھا نیز اس کے راویوں میں غیر معروف راوی کا نام بھی تحریر نہیں کیا۔

حافظ ابن حجر نے اپنی تبیین العجب میں یہ حدیث بہ اضافہ عبارت ذیل یوں درج کی ہے۔ ماہ رجب کی فضیلت تمام دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کریم کو تمام دیگر اذکار پر حاصل ہے۔ اور ماہ شعبان کو دوسرے مہینوں پر وہی فضیلت ہے جو رسول اکرم ﷺ کو دوسرے انبیاء پر ہے۔ اور ماہ رمضان کو دوسرے مہینوں پر افضلیت وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنے تمام بندوں پر حاصل ہے۔

حافظ ابن حجر نے تحریر کیا ہے کہ روایت مذکورہ سلفی کی ہے جس کے ثقہ راویوں میں ایک شخص ہبتہ اللہ سقظی بھی ہے جو آفت کا پر کالا ہے باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

یہ حدیث کہ ۲۷/ رجب کی رات عبادت اور اس دن کا روزہ سو سال کی مانند ہے اور اسی تاریخ رسول اکرم ﷺ کی بعثت ہوئی۔ اسے دیلمی نے سلمان کی روایت سے لکھ کر تحریر کیا ہے کہ راویوں میں خالد بن ہباج بھی ایک راوی ہے جو متروک قرار دیا گیا ہے۔ اور خالد بن ہباج وہ متروک راوی ہے جو آفت کا پر کالا ہے۔

اور یہ حدیث کہ ۲۷/ رجب کو مجھے معبوث کیا گیا جس نے ستائیسویں رجب کا روزہ رکھا اور افطار کے وقت دعا مانگے تو اس کے گزشتہ بیس سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ہناؤ نسفی نے اپنی فوائد میں حضرت انس کی زبانی مرفوعاً لکھ کر تحریر کیا ہے کہ اس کی اسناد منکر و ناپسندیدہ ہے۔

ابو معاذ شاہ مروزی نے اپنی جزء میں ماہ رجب کے فضائل مولفہ عبدالعزیز کتابی کو نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس نے ستائیسویں رجب کا روزہ رکھا اسے اللہ (۶۰) مہینہ کے روزہ کا ثواب دے گا اور اسی تاریخ رسول اللہ ﷺ مبعوث ہوئے۔

یہ روایت اس معنی کی حد تک مناسب ہے لیکن اسے ضمیر نے ابن شواب مطر و راق، شہر بن خوشب کے ذرائع سے ابو ہریرہ کی روایت سے موقوفاً ہونا تحریر کیا ہے۔ اور یہ مرفوع بھی ہے۔

جس نے ماہ رجب کی کسی رات میں شب بیداری کی اور اس کی صبح کو روزہ رکھا تو اللہ روز محشر اسے مامون و محفوظ اٹھائے گا اور یہ شخص لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہوا پل صراط پر سے بہ آسانی گزر جائے گا۔ اس حدیث کو دارمی نے جابر کی زبانی اسمعیل بن یحییٰ تمیمی کی روایت سے بیان ہونا تحریر کیا ہے جو ضعیف ہے۔



جس نے ماہ رجب کی ایک رات شب بیداری کی اور ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے عوض میں اس کو جنت کے میوے کھلائے گا، جنت کے قیمتی لباس پہنائے گا اور جنت کی مہرزہ شراب نوش کرائے گا“ اس حدیث کو دارمی نے حسین بن علیؑ کی زبانی حسین بن مخارق کی روایات سے ہونا تحریر کیا ہے جو مطعون ہے۔

ماہ رجب پر حرمت مہینہ ہے اور اس کے ایام کا آسمان ششم پر اندراج ہے جب کوئی شخص ماہ رجب میں کسی دن روزہ رکھتا ہے اور اسے تقویٰ سے آراستہ کرتا ہے تو اس شخص کا روزہ اور وہ دن دونوں کہتے ہیں اے اللہ اس روزہ دار کی بخشش کر دے۔ اور اگر تقویٰ کے ساتھ روزہ نہ رکھا تو روزہ اس کے بخشش کی دعا نہیں کرتا اور یہ دونوں اس روزہ دار سے کہتے ہیں کہ تو نے اپنے نفس کو دھوکہ دیا۔

اس روایت کو ابن شاہین و دارمی نے ابوسعید کی زبانی تحریر کر کے لکھا ہے کہ اس کے راویوں میں اسمعیل تیمی بھی ہے جو ضعیف ہے۔

ماہ رجب وہ بہرا مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک بلند درجات کا حامل ہے۔ اور اسے اللہ نے اپنی ذات کے لئے خاص کر لیا ہے۔ جس نے ماہ رجب کے کسی دن حصول ایمان و ثواب کی خاطر روزہ رکھا تو یہ اللہ کی خوشنودی کا سبب ہوتا ہے۔ اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے جس میں ان کے گناہ کا عدم کر دیئے جاتے ہیں۔ مسلمان جب روزہ رکھتا ہے اور جھوٹ نہ بول کر غیبت بھی نہیں کرتا اور پاکیزہ افطار کرتا ہے تو یہ روزہ دار اپنے گناہوں سے اس طرح پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے سانپ کینچلی اتار کر صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث حاکم نے اپنی تاریخ میں ابوسعید کی زبانی لکھ کر تحریر کیا ہے کہ اس کے راویوں میں ابو ہارون عبدی اور عصام بن طلحہ ہیں جو ناکارہ راوی ہیں۔ میں (عبدالحق محدث دہلوی) کہتا ہوں کہ ابو ہارون وہ آفت کا پر کالا راوی ہے جسے سب ہی نے جھوٹا و لپاٹیا کہا ہے اور بعض تو اسے فرعون سے بھی زیادہ جھوٹا کہتے ہیں۔

روایت ہے کہ ابو درداء سے کسی نے ماہ رجب کا روزہ رکھنے کی بابت دریافت کیا انہوں نے جواباً کہا تم نے اس ماہ کی بابت پوچھا ہے جس کی زمانہ جاہلیت والے تعظیم کرتے تھے۔ اور اسلام نے بھی اس ماہ کی عظمت برقرار رکھی ہے اور رجب کے کسی دن نفل روزہ رکھنے والے کو یہ روزہ نفع دے گا اور اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا۔

نیز دوزخ کے ایک دروازے کو تیغا لگا دے گا۔ اس روزے کے بدلے میں اگر زمین کے برابر سونا دیا جائے تب بھی دنیا میں اس کے ثواب کا بدلہ و عوض نہیں ہو سکتا، ہاں روزِ محشر اس کا ثواب ملے گا۔ اس روزہ دار کی شام کو افطار کے وقت، دس دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر کوئی دنیاوی چیز مانگے تو اللہ فوراً دیتا ہے اور اس کے لئے خیر و خوبی کا اتنا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے جتنا کہ اولیاء اللہ محبوب و اصفیاء میں سے کسی نے طلب کیا ہو۔ اور جو شخص رجب کے روزے رکھے تو اس کے ثواب کے ساتھ اسے مزید دس صدیقیوں کے کارہائے نمایاں کے ثواب سے زیادہ انعام دیا جاتا ہے۔ اور جس نے رجب کے تین روزے رکھے تو اس کو ان کے ثواب کے ساتھ بوقت افطار اس شخص سے اللہ کہتا ہے۔ میرے اس بندہ کے حقوق ادا کرنا مجھ پر واجب ہو گئے اور اس کے حق میں میری محبت و ولایت لازم و واجب ہو گئی ہے۔ اے فرشتو میں تمہیں گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیئے ہیں۔ اور جس نے ماہِ رجب میں چار روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس کا حشر اس طرح ہوگا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح کھیت کرنا ہوگا۔ اور اس روزہ دار کی نیکیاں ریگستانِ عاج کے ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اس کے نلمہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ نیز اس روزہ دار کو جنت میں داخل کر کے کہا جائے گا آج اللہ سے جو چاہتا ہے مانگ لے۔ اور جس نے ماہِ رجب میں چھ دن روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزہ دار کو وہ نور دیا جائے گا جس سے روزِ محشر تمام لوگ روشنی حاصل کریں گے اور آمینین کے ساتھ اس کا حشر کیا جائے گا اور پل صراط بغیر کسی حساب کتاب کے عبور کرے گا۔ والدین کی نافرمانی اور قطع رحم کرنے کے علاوہ اس کے تمام جرائم معاف کر دیئے جائیں گی اور اللہ تعالیٰ مل کر اس کی پیشانی کو بوسہ دے گا۔ اور جس نے اس ماہ سات روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزہ دار پر دوزخ کے سات دروازے تیغا کر دیئے جائیں گے۔ اس پر آتشِ دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ اور جنت واجب و لازم قرار دی جائے گی۔ اور حکم دیا جائے گا جنت میں جہاں چاہو رہو۔ اور جس نے آٹھ روزے رکھے تو ان کے ثواب کے ساتھ اس روزہ دار کے نلمہ اعمال میں اعلیٰ علیین کا قیام رکھ جائے گا۔ اور آمینین کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور اس کی قبر سے نور پھوٹ پھوٹ کر نکلے گا اور اس کا چہرہ اتنا متور ہوگا کہ مشرق کے تمام لوگ جگمگا اٹھیں گے اور گمان کریں گے کہ یہ حضرت محمد مجتبیٰ ﷺ ہیں اور ادنیٰ سے ادنیٰ کرم الہی یہ ہوگا کہ بغیر حساب و کتاب یہ سیدہ جنت میں

داخل ہو جائے گا۔ اور جس نے دس روزے رکھے اس کا کیا کہنا اس کو دس گنا ثواب دینے کے ساتھ اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ اور اللہ کے نیکو کار مقررین میں شمار کیا جائے گا۔ اور اللہ کے اس بندہ کی طرح ہو جائے گا جس نے ہزار سال تک روزے رکھے، شب بیداری کی، صبر و ثابت قدمی کو اختیار کیا اور امید وار ثواب و رحم و کرم رہا اور جس نے بیس روزے رکھے تو ان کا اجر بیس گنا زیادہ ملے گا اور حضرت ابراہیم کی قبر کی مانند ایک قبہ کا مالک ہوگا اور قبیلہ ربیعہ و مضر کے باشندوں کی تعداد سے زیادہ لوگوں کی شفاعت کرے گا اور جس نے ماہِ رجب کے پورے تیس دن روزے رکھے تو ہر روزہ کا ثواب تیس گنا سے زیادہ ملے گا اور آسمان سے منادی ندا کرے گا۔ اے ولی اللہ مبارک ہو۔ اللہ کے حضور تمہارا درجہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اللہ کا دیدار کرو، انبیاءِ صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ نشست و برخاست کرو اور یہ تمہارے بہترین رفیق اور ساتھی ہیں۔ پھر تین مرتبہ کہا جائے گا خوش رہو خوش رہو اور جب حجابِ الہی اٹھا لیا جائے گا تو تمہیں انعامات سے نوازا جائے گا۔ پھر جب فرشتہ موت اس کے پاس آئے گا تو اس کو موت نہ آئے گی بلکہ حوضِ فردوس سے اسے سیراب کیا جائے گا۔ اور اسے موت کی تکلیف نہ ہوگی اور اپنی قبر میں فرحاً و شاداًں رہے گا۔ اور حوضِ کوثر سے سیراب ہوتا رہے گا۔ اور روزِ حشر اپنی قبر سے اس شان سے اٹھے گا کہ ستر ہزار فرشتے عمدہ موتی اور یاقوت اپنی بہترین پوشاک میں زیور کے طور پر لگائے آکر اس سے کہیں گے، اے ولی اللہ! اللہ کے پاس تشریف لے چلے۔ یہ اس روزہ کا عوض ہے جس میں آپ اللہ کے لئے پیاسے رہے اور اپنے جسم کو اللہ کے لئے لاغر و کمزور کیا۔ اور یہ روزہ دار جناتِ عدن میں داخل ہونے والوں میں سب سے پیش پیش ہوگا۔ اللہ اس سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہوگا۔ اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ہر روزہ کے دن حسبِ توفیق صدقہ بھی دے تو اس کے ثواب کا اندازہ لگانا ہی مشکل ہے۔ یعنی تمام مخلوق اگر جمع ہو کر اس کے ثواب کا اندازہ لگائیں جو اسے ملے گا تو یہ اندازہ لگانا قدرت و طاقتِ مخلوق سے خارج ہے۔ بلکہ محصلہ ثواب کے دسویں حصہ کا بھی اندازہ نہیں لگایا جاسکتا۔

ان تمام روایات کو ابن شاہین نے اپنی کتاب ترغیب میں بروایت مکحول تحریر کیا ہے جس کی اسناد نہایت تاریک اور ناقابلِ اعتبار ہیں۔ نیز ان روایوں کے علاوہ ایک راوی داؤد بن مجز بھی ہے جو متہم و بدنام ہے۔ اور ایک راوی سلیمان بن حکم ہے جس کو تمام محدثین نے ضعیف لکھا ہے اس کے علاوہ ایک راوی علاء بن کثیر بھی ہے جس کے ضعیف ہونے پر سب کا اجماع ہے۔

حافظ ابن حجر عسقلانی نے اپنی ”تیسین العجب“ میں لکھا ہے کہ روایات مندرجہ بالکل موضوع اور من گھڑت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھڑنے والے کو رو سیا کرے۔ اللہ کی قسم بوقت تحریر اس روایت کو پڑھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس غلط روایت کی ذمہ داری، روسیہ داؤد محبر اور علاء بن خالد کے سر پر ہے یہ دونوں بالکل لپاٹھے اور لپاٹھے ہیں اور راوی مکحول وہ شخص ہے جس نے ابو داؤد کا زمانہ پایا ہی نہیں۔ اور میری کتاب میں اللہ کی قسم یہ روایت مکحول کی نہیں ہرگز نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ کسی اور لپاٹھے کی ہے۔

حضرت انسؓ نے بیان کیا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کو سورہ بقرہ میں فرمایا۔ لوگو! اللہ کا ایک بزرگ مہینہ ماہِ رجب تم پر سایہ نکلن ہے جو اللہ کا بہرہ مہینہ ہے۔ اس میں نیکیاں چند در چند ملتی ہیں اس میں لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ غم و الم برہو جاتے ہیں اس میں کسی مسلمان کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا اس ماہ میں جو شخص نیکیاں کرتا ہے اس کو ثواب کئی گنا زیادہ دیا جاتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے چند در چند نیکیاں و ثواب عنایت کرتا ہے۔ لوگو اس ماہ میں شب بیداری کرو، روزے رکھو۔ جس نے ماہِ رجب کے اندر کسی دن چپاس رکعتیں اس طرح پڑھیں کہ حسبِ مقدور ہر رکعت میں قرآن کریم پڑھا اللہ ایسے شخص کو بہ مراتب طاق و جفت اور انسانوں اور جانوروں کے بالوں کی تعداد کے برابر نیکیاں عنایت فرماتا ہے۔

جس نے ماہِ رجب میں ایک روزہ رکھا اللہ نے اس کو سال بھر کے روزوں

کا ثواب دیا۔

جس نے ماہِ رجب میں اپنی زبان کو لغویات سے محفوظ رکھا تو منکر و نکیر کے سوال کے وقت اللہ تعالیٰ خود اس شخص کو جواب تلقین کرے گا جس نے ماہِ رجب میں خیرات کی اس کی گردن عذاب کو دوزخ کے پھندے سے چھٹکارا پائے گی۔

جس نے اس ماہ میں صلہ رحمی کی، اللہ دنیا و آخرت میں اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا اور زندگی بھر اس کے دشمنوں پر اسے فتح مند و غالب رکھے گا۔

جس نے اس ماہ کسی کی عیادت و تیمارداری کی، اللہ اپنے فرشتوں کو اس سے ملنے اور

دعائے سلامتی دینے کا حکم دیتا ہے۔

جس نے اس ماہ نمازِ جنازہ پڑھی گویا اس نے ایک مردہ میں جان ڈالی۔ جس کسی مسلمان کو اس ماہ کھانا کھلایا، اس کے عوض اللہ اس کو حضرت ابراہیمؑ اور سرورِ عالم کے دسترخوان پر کھلائے گا۔

جس نے اس ماہ کسی کو پانی پلایا، اللہ اسے سر بلند شربت پلائے گا۔

جس نے اس ماہ کسی مسلمان کو کپڑے پہنائے اللہ اس کو ایک ہزار عمدہ جنتی لباس زیب تن کرائے گا۔

جس نے کسی یتیم پر مہربانی کی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے جتنے بالوں پر ہاتھ پھیرا ہے ان کی گنتی بھر اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہ معاف کرتا ہے۔

جس نے اس ماہ ایک مرتبہ اپنی مغفرت کی دعا کی اللہ اس کی دعائے طلب بخشش قبول فرماتا ہے۔ جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ اور لا الہ الا اللہ پڑھا اللہ اس کا نام بکثرت ذکر الہی کرنے والے مرد و زن کی فہرست میں لکھ دیتا ہے۔ جس نے اس ماہ ایک مرتبہ قرآن کریم ختم کیا اس کے عوض اللہ ایک ایک تاج جو مونگے اور موتیوں سے مرصع ہوگا اس کے والدین کو پہنایا گا۔ اور محشر کی رسوائی سے محفوظ و مامون رکھے گا۔

ابن عساکر نے مندرجہ بالا روایت کو منکر و ناپسندیدہ لکھا ہے اور تبیین العجب میں ان روایات کو موضوع و خود ساختہ تحریر کیا ہے۔

مندرجہ بالا روایات جن کتب میں مذکور ہیں وہ اس وقت سب کی سب میرے سامنے ہیں اور ان تمام مندرجہ بالا روایات کی بابت ان کتب احادیث میں تحریر ہے کہ ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں بلکہ ہر ایک ضعیف ہے۔ نیز یہ سب کی سب خود ساختہ ہیں اور حقیقتِ حال اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

### نماز شبِ رغائب

ماہِ رجب کی پہلی شب جمعہ کو لوگ ”لیلۃ الرغائب“ (شبِ اشتیاق) کہتے ہیں مشائخ کے نزدیک اس رات میں خاص ترکیبوں سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے۔ محدثین نے سختی سے انکار کیا ہے۔ علامہ محی الدین امام نووی نے لکھا ہے کہ الرغائب اور ماہِ شعبان کی پندرہویں شب کی مخصوص نماز یہ دونوں نمازیں سنت نہیں بلکہ مذموم بدعت ہیں۔ ابوطالب مکی کے قوت القلوب اور امام غزالی کی احیاء العلوم یہ دونوں کتابیں اس مسئلہ کی حد تک قابل التفات نہیں

یونکہ ان دونوں کتابوں میں مندرجہ بالا نمازوں کے جواب کی بابت جو احادیث لکھی ہیں وہ خود اختہ اور موضوع احادیث ہیں اس لئے یہ قابل اعتناء نہیں ہیں۔

امام عبدالعزیز ابن عبدالسلام نے ان دونوں نمازوں کے غیر مسنونہ ہونے پر ایک ایت نفیس کتاب لکھی ہے جس میں نہایت عمدگی سے مندرجہ بالا نمازوں کے سنت ہونے کی دید کی ہے۔ نیز امام مذکور نے اپنے فتاویٰ میں ان دونوں نمازوں کے رواج کی مذمت کرتے ہوئے ان کے مسنون ہونے کا انکار کیا ہے۔ اور تحریر کیا ہے کہ انہیں ترک کرنا ان سے پہلو تہی کرنا مناسب ہے اور اولی الامر، حاکم وقت پر لازم ہے کہ ان نماز پڑھنے والوں کو روکیں۔ کیونکہ وہ حاکم وقت ہیں اور ہر ایک حاکم وقت سے اس کی رعایا کے اعمال کی روز محشر اللہ تعالیٰ زہر س کرے گا۔

بعض علماء نے ان نمازوں کے بطلان اور ایسے نمازیوں کی غائب دماغی پر اکثر کتابیں لکھی ہیں۔

شیخ شہاب الدین احمد ابن حجر مکی ہشیمی کا بیان ہے کہ ہمارا اور فرقہ مالکیہ، دوسرے آئمہ، اکثر علماء حجاز و فقہاء مدینہ کا مسلک یہ ہے کہ ہم یہ نماز لیلۃ الرغائب نہیں پڑھتے علاوہ ازیں شیخ شہاب الدین احمد ابن حجر مکی نے اس مضمون پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں یہ حدیث نقل کی ہے جس نے ۷۲ رجب کو شب بیداری کی اور اس میں بارہ رکعتیں مع ترکیب مقررہ پڑھیں اور صبح کو روزہ رکھا اور یہ وہ رات ہے جس میں رسول اکرم ﷺ مبعوث ہوئے یہ حدیث نقل کر کے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں بلکہ خود ساختہ روایت ہے اس حدیث کو مختلف الفاظ کے ساتھ ان راویوں نے بیان کیا ہے جن پر جھوٹے ہونے کا الزام عائد ہے۔

اور یہ احادیث کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، یا ماہ رجب میں مغفرت ہوتی ہے یا رجب کا روزہ عام گزشتہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ سب خود ساختہ اور جھوٹی ہدایتیں ہیں۔ نیز اس کتاب میں ان تمام نمازوں کو تحریر کیا ہے جو سنت نہیں بلکہ سراسر بدعت و ناپسندیدہ ہیں اور عوام کے خیال باطل کی باگیں راست کرتے ہوئے لکھا ہے صحیح حدیث وہ ہے جسے رسول اکرم ﷺ نے بیان کیا اور وہ ثقہ راویوں کے ذریعہ ثابت ہو، اگر کوئی غلط، مذموم اور جھوٹا راوی درمیان میں آ گیا تو ان باطل راویوں کا قاعدہ ہی یہ ہے کہ وہ کسی اثر کے تحت اصل حدیث میں کتب بیونت کرتے اور من گھڑت بیان کرتے ہیں۔

اس لئے کسی شب یا جمعہ کو بیداری کے لئے خاص کرنا اور کسی دن یا کسی جمعہ کو خا کر کے روزہ رکھنا یا ایسی باتیں کرنا جو مخالف سنت ہوں کیسے باعث فضیلت ہو سکتی ہیں؟ اور باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

### تنقید شیخ

اب بندہ ضعیف (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کی اللہ تعالیٰ اصلاح حال کرے اور ہر قول و فعل و خیال کو نیکی و خوبی پر گامزن کرے۔

عرض پر داز ہے کہ محدثین متذکرہ نے احادیث نقل کر کے اس کی اسناد اپنے طریقوں سے بیان کی اور ان کے راویوں پر اپنی مطمح نظر سے تنقید کی۔ اور تعجب یہ ہے کہ اپنے بیان میں بے انتہا مبالغہ سے کام لیا۔ ان محدثین کو زیبا تو یہی تھا کہ جس روایت کو یہ نہ سمجھ سکے تھے اس کی بابت یہ کہہ دیتے کہ یہ ہمارے نزدیک درست نظر نہیں آتی اور سب سے زیادہ شیخ محی الدین امام نووی پر تعجب ہے کہ وہ فقہی مسائل میں عدل و انصاف کی راہ پر گامزن ہونے ہوئے حنفیوں کے بغض و عناد نہ رکھتے ہوئے آداب سلوک سے بھی واقف ہیں۔ ان کو زیبا نہ تھا کہ شوافع کی مانند بغض و عناد کے پیش نظر روایات حنیف کو باطل کہتے اور امام نووی وہ شخص تھے جو مشائخ عظام اور علماء کرام سے نسبت بھی رکھتے تھے۔ افسوس صد افسوس۔

مؤلف جامع الاصول نے اپنی کتاب میں، تالیف رزین میں سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ جامع الاصول وہ کتاب ہے جس میں بہ قیام عنوانات، صحاح ستہ کی احادیث نقل کی گئی ہیں۔ اور جس عنوان کے تحت انہیں صحاح ستہ ہی سے اپنے مطلب کی حدیث نہ ملی تالیف رزین وغیرہ میں سے اخذ کی۔ اور متعلقہ عنوان کے باب کو مکمل کیا۔ چنانچہ جامع الاصول میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔ انس نے رسول اللہ ﷺ کی یہ حدیث بیان کی ہے رسول اللہ ﷺ نے نماز شب رغائب کا تذکرہ کیا ہے اور یہ ماہِ رجب کی پہلی شب جمعہ ہے۔ مغرب و عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ جس میں بارہ رکعتیں چھ سلام کے ساتھ اس طرح پڑھتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد تین مرتبہ سورہ القدر اور بارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد اللهم صل علی محمد بن النبی الامی و علی الہ۔ ستر بار پڑھ کر سجدہ میں جاتے ہیں اور سجدہ کی حالت میں سبح قنوس رب الملائکة و الروح پڑھتے ہیں پھر سر اٹھا کر یہ دعائیں لگتے ہیں۔ ترجمہ دعا :

اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے ہم پر رحم کر اور ہمارے متعلق تو جو کچھ جانتا ہے اس سے درگزر کر۔ کیونکہ تو ہی برتر و بزرگ ہے۔ اور دوسری ایک روایت میں ہے کہ مندرجہ بالا دعا کے بجائے (ستر) مرتبہ اعز الا کرم پڑھتے ہیں پھر دوسرا سجدہ کر کے پہلے کی طرح پڑھتے ہیں اور آخری سجدہ میں حسبِ خواہش دعا کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو رد نہیں کرتا۔

اتنا لکھنے کے بعد مؤلف جامع الاصول نے لکھا ہے کہ یہ حدیث چونکہ مجھے صحاح ستہ میں نہیں ملی اس لئے میں نے رزیں سے نقل کی ہے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ یہ روایت حدیث مطعون فیہ ہے۔ اور اس کے کئی راوی جھوٹ سے مہتمم ہیں۔ اسکے علاوہ کتاب ہجۃ الاسرار میں نماز شبِ رغائب پڑھنے کا جواز سیدنا قطب ربانی غوث صمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی کے بیان میں درج ہے جس میں مرقوم ہے کہ ایک مرتبہ شبِ رغائب میں چند شیوخ جمع ہوئے۔ جن میں شیخ عبدالوہاب اور شیخ عبدالرزاق بھی تھے۔ اور ان دونوں کا بیان ہے کہ شیخ بقا ابن بسطو جمعہ کے دن بتاریخ ۵ رجب ۵۲۳ھ والد بزرگوار حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کے مدرسہ میں آئے اور کہا آپ لوگوں نے آج میرے صبح سویرے آنے کا سبب کیوں نہیں پوچھا؟ واقعہ یہ ہے کہ گزشتہ شب میں نے وہ نور دیکھا جس نے دنیا کو روشن کر دیا۔ اور مشرق و مغرب میں پھیل گیا۔ اور مجھے اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز دکھائی دیئے بعض تو اس سے متصل تھے اور بعض میں کوئی چیز مانع اتصال نہ تھی۔ اور متصلہ اسرار و رموز کا نور چند در چند زیادہ تھا۔ پھر میں نے اس متصلہ نور کا سرچشمہ تلاش کیا۔ تو معلوم ہوا کہ وہ نور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی سے صادر ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس حقیقت کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ آپ کو نور کا شہود تھا جو آپ کے قلب کے نور کے مقابل تھا۔ اور یہ دونوں نور باہم مل رہے تھے جن کی روشنی آپ کے آئینہ حال پر آرہی تھی۔ اور آپ سے جو نورانی کرنیں پھوٹ رہی تھیں وہ مشرق و مغرب کو منور کر کے پورے عالم کو جگمگا رہی تھیں۔ اور آسمان سے ایک ایک فرشتہ آ کر آپ سے مصافحہ کرتا تھا۔ یہ سن کر ہم دونوں (یعنی شیخ عبدالوہاب اور شیخ عبدالرزاق) نے ان شیخ بقا ابن بسطو سے پوچھا کیا گزشتہ رات آپ نے نمازِ رغائب پڑھی تھی تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے۔

رات نمازِ رغائب میں، میں نے اپنے محبوبوں کا دیدار کیا ان محبوب کے چہرہ سے وہ جمالی روشنی نکل رہی تھی جس نے عالم کی ہر چیز کو منور کر دیا تھا۔ اور جس نے حقوقِ محبت پوری طرح ادا نہیں کئے تو انہوں نے واجب ہی ادا نہیں کیا۔



علاوہ ازیں مشائخ عظام کے نزدیک اس کیفیت کا نام ہی شاہد و مشہود ہے۔ اور نماز شب رغائب کے بے انتہا ثواب ہیں۔

کتاب تنزیہہ الشریعت میں احادیث موضوعہ کے تحت انس بن مالکؓ کی زبانی یہ روایت مذکور ہے کہ ماہِ رجب اللہ کا شعبان میرا اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے یہ سماعت کرتے ہوئے کسی نے کہا ”ماہِ رجب اللہ کا ہے“ اس ارشادِ عالی کا مفہوم کیا ہے؟ فرمایا یہ مہینہ مغفرت کے لئے مخصوص ہے۔ (تایم حدیث)

اسی کتاب میں یہ حدیث بھی مرقوم ہے کہ رجب کی پہلی شب جمعہ سے غفلت نہ برتو کیونکہ فرشتے اس شب کو ”لیلۃ الرغائب“ (شب اشتیاق) کہتے ہیں۔

اسی کتاب میں یہ بھی ہے کہ ماہِ رجب میں جمعرات کو جو شخص روزہ رکھے اور اسی دن شام کو مغرب و عشاء کے درمیان یعنی شبِ جمعہ کو بارہ رکعات پڑھے (تایم حدیث بہ ترکیب نماز) یہ روایت لکھ کر آخر میں تحریر کیا ہے کہ اس میں ایک راوی علی بن عبد اللہ بھی ہے۔ اور ابن جوزی نے لکھا ہے کہ بعض محدثین نے اسے جھوٹا اور بدنام کہا ہے۔ اور ہم نے یہ سنا ہے کہ اسکے راوی مجہول ہیں۔ اس پر میں نے تفتیش کی تو دوسری کتابوں میں اس راوی کا نام تک نہیں پایا بلکہ ان کتابوں میں مذکور ہے کہ متذکرہ راوی علی بن عبد اللہ شاید اس روایت کے راویوں کی روایت کے زمانہ تک پیدا نہیں ہوا۔

حافظ عراقی نے اپنی امالی میں لکھا ہے ”حافظ ابوالفضل محمد بن ناصر سلامی نے تساہل سے کام لے کر اسے امالی ابن حصین کی چودھویں مجلس میں تحریر کیا ہے۔ اور آخر میں لکھا ہے رجب کی نوچندی میں نماز کی حدیث حسن و غریب ہے۔“

حضرت انسؓ سے مرفوعاً مروی ہے۔ ”جس نے یکم ماہِ رجب کو بعد نماز مغرب

۱۔ سیدنا محدث دہلویؒ کو حضرت عبدالقادر گیلانی سے بے پناہ عقیدت ہے اور اسی ارادت میں شیخ کے خصوصی حالات تحریر فرماتے ہیں۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ مقالات اور واردات عام مسلمانوں کے لئے واجب الاتباع نہیں ہیں۔ ورنہ عین ممکن ہے کہ پیروکار ایسی حرکات کرنے لگے جو شریعتِ اسلامیہ کے خلاف ہو جس کا اثر اسی فاعل اور بیان کنندہ کے سر پر بحیثیت جرم عائد ہوتا ہے۔ اور چونکہ حضرت محدث دہلوی عالم باعمل اور شہودی مسلک کے مالک تھے اور ان کے اقوال کے مطالب ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے اس لئے بہتر طریقہ کاری یہی ہے کہ وہ کام کریں جو سیرتِ پاک سے ثابت ہو۔ نماز شب رغائب اور اسی طرح کی دوسری نمازوں اور روزوں کا حدیث سے ثبوت نہیں اس لئے ان کو مخصوص نہ کیا جائے اور بدعات سے پرہیز کرنا ہی افراط و تفریط سے بچنا ہے۔ ہم حضرت شیخ سے بدعقیدہ نہیں بے انتہا احترام کرتے اور ان کے ارادت مند ہیں۔ ۱۲

(۲۰) رکعات پڑھیں (تاختم حدیث) تو اس نماز کے ثواب کا اثر یہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب اور بغیر کسی دغدغہ کے بجلی کی مانند یہ شخص پل صراط سے گذر جائے گا۔ (جو زقانی نے بھی یہی تحریر کیا ہے) اور اس میں کئی راوی مجہول ہیں۔

ابن جوزی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ ماہ رجب میں جس نے روزہ رکھا اور دو رکعات نماز اس طرح پڑھیں کہ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیۃ الکرسی اور دوسری رکعت میں سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو جب تک وہ بہ چین حیات جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے اس وقت تک اس کی روح پرواز نہ ہوگی "اس حدیث کے آخر میں اپنی رائے لکھی ہے کہ اس میں راوی مجہول اور متروک ہیں۔

ابن حجر نے یہ حدیث قلمبند کی ہے۔ رجب کی ستائیسویں شب کو جس نے بارہ رکعات پڑھنے کے بعد اس نے بیٹھے بیٹھے ہی سات مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر چار مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر و لا حول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم : پڑھا اور دوسرے دن یعنی ۲۸ رجب کو روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساٹھ سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ وہ شب ہے جس میں اللہ نے سرور عالم ﷺ کو مبعوث فرمایا اور تاج نبوت پہنایا۔ پھر اس حدیث کے آخر میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو ابن جوزی نے موضوعات میں لکھا ہے حالانکہ میری (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کی تحقیق یہ ہے کہ ابن جوزی کی موضوعات میں یہ حدیث پائی نہیں گئی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ کسی خاص طباعت میں ہو۔

حافظ ابن حجر مکی نے لکھا ہے "ہمیں حضرت انسؓ کی زبانی مرفوعاً یہ حدیث دستیاب ہوئی کہ ۲۷ رجب کو اعمال و عبادت کرنے والے کے نام سو سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے اور جس نے اس شب میں بارہ رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورۃ پڑھی اور ہر دوسری رکعت کے آخر میں تشہد پڑھ کر سلام پھیرا اور بارہ رکعات پڑھنے کے بعد سبحان اللہ والحمد للہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر : سو مرتبہ استغفر اللہ سو مرتبہ اور درود شریف سو مرتبہ پڑھ کے اپنے دنیاوی امور کی تکمیل کے لئے دعا مانگی اور پھر صبح کو روزہ رکھا تو اللہ اس کی تمام دعائیں قبول کرے گا۔ بجز کسی خواہش جرم کے (اسے بیہتی نے لکھ کر آخر میں لکھا ہے کہ اس میں دو راوی بدنام ہیں)۔

## شب معراج

ممالک عربیہ میں مشہور ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو بتاریخ ۲۷ رجب معراج شریف ہوئی اور اسی زمانہ میں سرزمین عرب کے باشندے رجبی مناتے ہیں جس کی صورت یہ ہے کہ صحرا اور وادیوں کے دور دراز مقامات سے لوگ جوق در جوق رسول اکرم ﷺ کی زیارت کے لئے مدینہ طیبہ میں حاضری دیتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ۲۷ رجب تاریخ معراج شریف صحیح نہیں ہے اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بعثت کے بارہویں سال ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول کی سترہویں تاریخ کو معراج شریف ہوئی۔ اور یہی اکثر محدثین کے نزدیک صحیح ہے۔

اور یہ جو مشہور ہے کہ پندرہویں رجب کی خاص طور پر عظمت کی جائے اس میں بکثرت نماز پڑھی جائے اور اس دن روزہ رکھا جائے۔ پندرہویں اور پچیسویں رجب کو یوم استفتاح یعنی روز قبولیت دعا کہتے ہیں۔ اور اس دن روزہ رکھنے کو مریم کا روزہ کہتے ہیں، عوام کی ان مشہور روایات کو میں (عبدالحق محدث دہلوی) نے حدیث کی کسی کتاب میں نہیں دیکھا۔ اس کے ثبوت و جواز یا انکار و تردید کی کوئی حدیث مجھے نہیں ملی۔ اور باقی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔

## رجبی میں قربانی

اسلام کے ابتدائی زمانہ میں بہ اقوال جمہور جو چیزیں منسوخ کی گئیں ان میں سے ”عسیرۃ“ بھی ہے عسیرۃ ایک بکری کو کہتے ہیں جو ماہ رجب میں بزمانہ ابتداء اسلام ذبح کی جاتی تھی۔

جمہور علماء کا قول ہے کہ بزمانہ ابتداء اسلام میں اسی رجبی کی قربانی کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔

طیبی نے لکھا ہے کہ ابن سیرین ماہ رجب میں عسیرۃ (بکری) کی قربانی کیا کرتے تھے۔ اور رجب میں کسی بکری کی قربانی نہیں کی جاتی اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رجبی میں قربانی کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔

بخاری و مسلم میں حضرت ابو ہریرہؓ کی زبانی مذکور ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا فرع اور عسیرۃ کوئی چیز نہیں۔ پھر حضرت ابو ہریرہؓ نے بیان کیا کہ فرع کے معنی ہیں اونٹنی کا وہ پہلا بچہ جو مشرک اپنے بتوں کے نام پر (چڑھاوے کے طور پر بھینٹ چڑھانے کے لئے) کاٹتے تھے۔ اور عسیرہ وہ بکری ہے جو ماہ رجب میں رجبی کے طور پر ذبح کرتے تھے۔

ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے میدان عرفات میں فرمایا۔ لوگو! اچھی طرح سن لو کہ ہر گھر والے پر ہر سال قربانی اور عتیرہ لازم ہے اور تم جانتے ہو۔ اس حدیث کے آخر میں ترمذی نے لکھا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے اور اس کی اسناد ضعیف ہے۔ اور ابو داؤد میں تحریر ہے کہ عتیرہ وہ بکری کا ذبیحہ ہے جو پہلے بتوں کے نام پر کاٹتے تھے۔ اور اب ماہ رجب میں عتیرہ کے احکام منسوخ ہو چکے ہیں اور حدیث شریف میں عتیرہ سے مراد رجب میں قربانی کرنا ہے۔





## شعبان

لغت قانوس میں ہے کہ شعبان ایک مشہور مہینہ ہے۔ شعبان کی جمع شعبانات اور شعابین و شعبانین آتی ہے۔ یہ باب تَفْعُلُ تَشْعُبُ سے ہے اور اس کے معنی ہیں تفرق پھیلاانا اور شاخ درشاخ ہونا۔

رافع نے حضرت انسؓ کی زبانی لکھا ہے حدیث میں ہے کہ اس ماہ کا نام شعبان اس لئے رکھا گیا ہے کہ روزہ کو اس ماہ میں شاخ درشاخ برابر بڑھتی رہنے والی خیر و خوبی میسر آتی ہے۔ تا آنکہ روزہ دار جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔

ماہ شعبان کے مضامین کو تین مقالوں پر تقسیم کیا جاتا ہے۔

### پہلا مقالہ

بلحاظ احادیث صحاح ستہ فضیلت ماہ شعبان اور بغیر تخصیص پندرہویں شب کے

روزے کی فضیلت۔

ماہ رجب و رمضان کے درمیانی مہینہ شعبان سے لوگ غفلت برتتے ہیں حالانکہ اس ماہ میں بندوں کے اعمال کا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ اور بارگاہِ الہی میں پیش ہوتے ہیں۔ مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ میرے اعمال بارگاہِ الہی میں اس طرح پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔

اس حدیث کو امام بیہقی نے بھی اپنی شعب الایمان میں حضرت اسامہؓ کی زبانی

تحریر کیا ہے۔

شعبان میرا اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اسے دیلمی نے بھی اپنی کتاب فردوس

الاکبار میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی تحریر کیا ہے۔

حضرت انسؓ کا بیان ہے کہ ماہ رجب کی آمد پر سرور عالم ﷺ فرماتے تھے اے اللہ

رجب و شعبان ہمارے لئے مبارک کر اور برکتیں نازل فرما اور رمضان ہمیں نصیب کر۔

اسے ابن عساکر و ابن نجار نے بھی تحریر کیا ہے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، وموطاء میں حضرت عائشہ صدیقہؓ کی تحریر ہے کہ رسول

اکرم ﷺ روزے رکھتے تو ہمیں خیال ہوتا کہ اب کبھی افطار نہ کریں گے اور روزے نہ رکھتے تو۔

خیال آتا کہ اب کبھی روزے نہ رکھیں گے۔ یعنی گاہے آپ ﷺ مسلسل روزے رکھتے اور گاہے عرصہ تک روزے نہ رکھتے اور میں نے رسول اکرم ﷺ کو ماہ شعبان کے سوائے کسی دوسرے مہینے کے پورے روزے رکھتے کبھی نہیں دیکھا۔ البتہ دوسرے مہینوں کی بہ نسبت ماہ شعبان میں زیادہ تعداد میں روزے رکھتے تھے۔

مسلم و نسائی میں ابی سلمہ کی زبانی درج ہے کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ سے رسول اکرم ﷺ کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا، آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم ﷺ چند دن کے علاوہ باقی ماندہ پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

ترمذی میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا دوسرے مہینوں کی بہ نسبت رسول اکرم ﷺ ماہ شعبان میں زیادہ دنوں تک روزے رکھتے تھے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ ﷺ نے پورے شعبان کے روزے رکھے ہوں۔

ابوداؤد نے ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی یہ لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ کو دوسرے مہینوں کی بہ نسبت شعبان کے روزے بہت محبوب تھے تا آنکہ ماہ رمضان تک روزے رکھتے تھے۔

نسائی نے بھی ترمذی و ابوداؤد کی یہ روایت نقل کی ہے۔ علاوہ ازیں نسائی میں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی مرقوم ہے کہ سرور عالم ﷺ گاہے مسلسل روزے رکھتے اور گاہے عرصہ تک روزے نہ رکھتے۔ آپ ﷺ شعبان میں قدرے کم اور کبھی زیادہ دن تک روزے رکھتے تھے۔ اور ایک روایت یہ لکھی ہے کہ آپ ﷺ چند دن کم باقی ماندہ ایام ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے۔ اور ایک روایت یہ لکھی ہے کہ آپ ﷺ پورے ماہ شعبان کے روزے رکھتے تھے۔

بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ کی زبانی مرقوم ہے۔ رسول اکرم ﷺ دیگر مہینوں کی بہ نسبت ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے اپنی طاقت کے موافق اعمال صالحہ کرتے رہو اور بلاشبہ اللہ نہیں تھکتا۔ بلکہ تم لوگ تھک جاتے ہو۔ (تاختم حدیث) اور ابو ہریرہ کی زبانی بھی یہی حدیث مروی ہے۔

ابوداؤد میں ابو ہریرہ کی زبانی تحریر ہے کہ رسول اکرم ﷺ چند دن کم ماہ شعبان کے اتنے روزے رکھتے گویا پورے ماہ شعبان آپ ﷺ کا روزہ دار ہونا معلوم ہوتا تھا۔

ترمذی نے حضرت ام سلمہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے رسول اکرم ﷺ کو دو ماہ کے پورے روزے رکھتے ہوئے صرف شعبان و رمضان میں دیکھا ہے۔

ابوداؤد میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ سال میں کسی ماہ کے پورے روزے نہیں رکھتے البتہ ماہ شعبان کے پورے روزے رکھتے تھے تا آنکہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے۔

نسائی نے متذکرہ دونوں احادیث لکھی ہیں اور دوسری روایت کو بطور خاص لکھا ہے۔

نسائی نے حضرت اسلمہؓ کی زبانی لکھا ہے میں اسامہؓ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ ﷺ میں نے آپ ﷺ کو دوسرے مہینوں کی بہ نسبت ماہ شعبان میں زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا ہے یہ کیا بات ہے! ارشاد عالی ہوا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس سے لوگ عام طور پر غفلت برتتے ہیں۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کے اعمال بارگاہِ الہی میں بالراست پیش ہوتے ہیں۔ ان امور کے پیش نظر میری خواہش ہے کہ میرے اعمال بارگاہِ الہی میں اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔

### دیگر احادیث فضیلت مندرجہ جامع کبیر

۲۔ صحاح ستہ کے علاوہ دیگر احادیث جو جامع کبیر میں درج اور شیخ الاسلام امام

وقت عارف باللہ ابوالحسن بکریؒ نے بیان کی ہیں حسب ذیل ہیں۔

شعبان وہ مہینہ ہے جو رجب و رمضان کے درمیان ہے اور لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں۔ حالانکہ اس ماہ کے اعمال بالراست بارگاہِ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور مجھے یہ امر زیادہ پسند ہے کہ میرے اعمال اس صورت میں پیش ہوں کہ میں روزہ دار ہوں۔ اس حدیث کو بیہقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے۔

عطاء بن یسار کی زبانی بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ سب مہینوں سے زیادہ ماہ شعبان میں روزے رکھتے تھے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اس سال میں مرنے والوں کی مدت و اوقات بھی اسی مہینہ میں تحریر کئے جاتے ہیں۔

حضرت اسامہؓ کی زبانی مروی ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا۔ (دیلی نے بھی اپنی مسند الفردوس میں یہ حدیث لکھی ہے)۔

حضرت عائشہؓ کی زبانی مروی ہے کہ کسی عورت نے کہا وہ رجب کا روزہ رکھتی ہے تو میں نے کہا اگر تم روزہ رکھنا ہی چاہتی ہو تو ماہ شعبان میں روزے رکھو کیونکہ اس میں بڑی



فضیلت ہے۔ (اسے ابن زنجویہ نے بھی لکھا ہے) نیز حضرت صدیقہؓ کی زبانی یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے مہینوں کی بہ نسبت رسول اکرم ﷺ ماہ شعبان میں بکثرت روزے رکھتے تھے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس سال مرنے والوں کا نام مردوں کی فہرست میں اسی ماہ لکھا جاتا ہے۔ اور ہر ایک بات یہاں تک لکھی جاتی ہے کہ فلاں شخص جو شادی کرے گا وہ فلاں شخص جو حج کرے گا اور ان کے نام اس سال مرنے والوں کی فہرست میں لکھے جاتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ پورے شعبان روزہ دار رہتے تھے ایک مرتبہ میری دریافت پر آپ ﷺ نے فرمایا ایک سال میں مرنے والوں کے نام اللہ تعالیٰ ماہ شعبان میں تحریر کر دیتا ہے اور میری دلی خواہش یہ ہے کہ میری مدت حیات ظاہری اس ماہ میں اس صورت سے لکھی جائے کہ میں روزہ دار ہوں“ آپ ﷺ کے اپنی بات کا مطلب یہ ہے کہ میرے روزہ دار ہونے کی حالت میں میری مدت حیات ظاہری کی کتابت فرمادی جائے اور اسی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ ہر ایک کو اس کی لکھی ہوئی موت وقت مقررہ پر آتی ہے۔ اور ہر ایک خاتمہ بالخیر کا امیدوار ہے اسی لئے عبادت کے مجملہ روزہ بہترین عبادت ہے۔

اس روایت کو امام وقت شیخ ابوالحسن بکریؒ نے بھی بیان کیا صحاح ستہ و جامع کبیر کی احادیث کے علاوہ امام وقت شیخ ابوالحسن بکریؒ نے حسب ذیل احادیث لکھی ہیں۔ اور روایت متذکرہ بالا کو صحیح لکھتے ہوئے تحریر کیا ہے اس پر یہ روایت ثبوت و دلیل صحت ہے جو حضرت عائشہ صدیقہؓ نے بیان کی ہے کہ رسول اکرم ﷺ پورے شعبان کے روزے رکھتے اور ماہ رمضان سے ملا دتے تھے۔ اور دوسرے مہینوں کی بہ نسبت ماہ رمضان کے پورے روزے رکھتے تھے۔ میں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ ﷺ ماہ شعبان کے روزے آپ ﷺ کو کیوں زیادہ پسند ہیں؟ ارشاد عالی ہوا۔ سال بھر میں مرنے والوں کے نام اسی ماہ شعبان میں لکھے جاتے ہیں۔ اس لئے میری دلی خواہش ہے کہ اس ماہ میں جس وقت میری مدت حیات ظاہری لکھی جائے تو میں روزہ دار ہوں اور عمل صالح میں مشغول ہوں۔

نیز حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جن لوگوں کی روحمیں قبض کرنا ہوتی ہیں انکے نام کی فہرست اسی ماہ شعبان میں ملک الموت کو دی جاتی ہے۔ اور میری دلی خواہش ہے کہ میرا نام اس حالت میں درج فہرست کیا جائے کہ میں روزہ دار ہوں۔

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ مرنے والوں کو ناموں کی فہرست پندرہویں شعبان کی رات کو تیار کی جاتی ہے۔ آپ ﷺ کی اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ چونکہ رات کے وقت بظاہر روزہ نہیں ہوتا اس لئے روزہ دار رہنے کا مطلب یہ ہے کہ بوقت کتابت شب اللہ تعالیٰ روزہ کی برکت کو جاری رکھے اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن کے وقت مرنے والوں کی فہرست بناتا ہے اور رات کے وقت وہ فہرست ملک الموت کے حوالہ کر دیتا ہے۔ اس کا ثبوت دوسری احادیث سے بھی ملتا ہے اور اس روایت کو ابن ابی دنیا نے بھی تحریر کیا ہے۔

عطاء بن یسار کا بیان ہے شعبان کی پندرہویں شب میں ملک الموت کو ایک فہرست دے کر اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ جن لوگوں کے نام اس میں لکھے ہیں ان کی روح اس سال وقت مقررہ پر قبض کرنا۔ اور شعبان کی پندرہویں شب کے وقت لوگوں کے حالات متفرق ہوئے ہیں کوئی فرش فروش کرتا ہے۔ کوئی باغوں کے درخت لگانے کی فکر میں ہوتا ہے۔ کوئی نکاح کرتا ہوتا اور کوئی شادی کی تیاری میں مصروف ہوتا ہے۔ اور کوئی محلات بنواتا ہوتا ہے۔ لوگوں کی مشغولیات کے وقت دوسری طرف اللہ تعالیٰ ان کی موت کا دن تاریخ لکھتا ہوتا ہے۔

دیلمی نے ابو ہریرہؓ کی زبانی لکھی ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک مدت حیات ظاہری منقطع کرنے کا وقت و دن لکھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ ان کے مرنے والوں میں سے فلاں فلاں شخص کی فلاں وقت شادی ہوگی اور فلاں وقت یہ مرنے والا بچہ پیدا ہوگا۔

عثمان بن مغیرہ ہنسؓ کی زبانی بھی اس قسم کی روایت شیخ ابوالحسن بکری نے تحریر کی ہے۔

### دوسرا مقالہ

احادیث کی روشنی میں خصوصیت کے ساتھ پندرہویں شعبان کی فضیلت حکم الہیٰ فیہا یفرق کُلُّ امر حکیم (اس شب میں ہر حکمت والے کام کا فیصلہ دیا جاتا ہے) کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت عکرمہؓ نے بیان کیا ہے پندرہویں شعبان کی رات میں سال بھر تمام کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس رات زندہ رہنے والے اور حج کرنے والے سب کے نام کی فہرست تیار کی جاتی ہے جس کی تعمیل میں کسی قسم کی ذرا سی بھی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ اس روایت کو ابن جریر ابن منذر اور ابی حاتم نے بھی لکھا ہے۔

بعض علماء کی رائے ہے کہ کتابت کا یہ کام لیلۃ القدر میں ہوتا ہے اگرچہ اس کی ابتداء

پندرہویں شعبان کی شب سے ہوتی ہے۔

قاسم بن محمد بن ابی بکر نے اپنے والد و چچا کی زبانی اپنے دادا حضرت ابو بکر صدیقؓ کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ فرماتے تھے ”اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کی شب میں آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے۔ اس شب میں ہر گنہگار کی بخشش ہوتی ہے البتہ مشرک اور کینہ ور کی بخشش نہیں ہوتی۔ (بیہقی)

ابن ماجہ اور بیہقی نے حضرت علیؓ کی زبانی رسول اکرم ﷺ کا یہ فرمان تحریر کیا ہے کہ پندرہویں شعبان کو شب بیداری کرو اور دوسرے دن روزہ رکھو۔ کیونکہ اس شب میں اللہ تعالیٰ مغرب کے وقت ہی سے آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتا ہے، ہے کوئی مجھ سے طالبِ مغفرت کرے تاکہ میں اس کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا تاکہ اسے خوب روزی دوں، ہے کوئی مصیبت کا مارا عاقبت کا خواہاں تاکہ اسے عاقبت دے دوں، اور اسی طرح طلوع فجر تک اللہ تعالیٰ نوازنے کے لئے دریافت کرتا رہتا ہے۔

بندہ ضعیف (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) عرض پر داز ہے کہ ہر شب اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتا ہے اور اس کا یہ نزول رات کے آخری تیسرے حصہ میں ہوتا ہے لیکن پندرہویں شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ کا نزول رات کے آخری تیسرے حصہ میں منحصر نہیں بلکہ سر شام مغرب ہی کے وقت سے صبح فجر ہونے تک آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور اسی وجہ سے پندرہویں شعبان کی شب کی یہ فضیلت و برتری ہے۔ اور ایک حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں کہ اس شب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عظیم تر عطیات سے سرفراز کرتا ہے اس کا ثبوت علمی متذکرہ بالا روایت ہے جس میں ارشاد ہے کہ اسی طرح طلوع فجر تک نوازنے کی خواہش کرتا رہتا ہے۔

نوفل نکالی کا بیان ہے کہ حضرت علیؓ پندرہویں شعبان کی شب میں اکثر باہر آتے تھے۔ ایک مرتبہ پندرہویں شعبان کی شب میں باہر آئے اور آسمان کی جانب نظر اٹھا کر کہا کہ ایک مرتبہ حضرت داؤدؑ نے پندرہویں شعبان کی شب میں جانبِ آسمان نظریں کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ وہ وقت ہے جس شخص نے اللہ سے دعا مانگی اس کی دعا اللہ نے قبول کی۔ اور جس نے دعائے مغفرت کی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی۔ بشرطیکہ دعا کرنے والا عشر (دسواں حصہ لینے والا) جادوگر، کاہن، نجومی، جلاذ، فال نکالنے والا، گویا اور بجا بجانے والا نہ ہو، اس کے بعد حضرت علیؓ نے یہ دعا کی اے اللہ اے داؤد کے رب! اس شب جو شخص دعا مانگے

مغفرت کا طالب ہو اس کی دعا قبول کر لے۔ کیونکہ اس رات تیرا خصوصی فضل و کرم کرنا زبان و خاص و عام ہے اگرچہ دوسری راتوں میں بھی کرم کرتا ہے۔

اور پھر کہا اللہ تعالیٰ اسی رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کرتا ہے البتہ مشرک کینہ پرور و رقا طع رحم کی دعا نہیں سنتا۔ (ابن ماجہ)

ابن ماجہ میں ابی موسیٰؓ کی زبانی مرقوم ہے کوئی رات، شب قدر کے بعد پندرہویں شعبان کی شب سے زیادہ افضل نہیں ہے اس شب میں اللہ آسمان دنیا پر نزول کرتا اور اپنے تمام بندوں کی مغفرت کرتا ہے بشرطیکہ دعا کرنے والا مشرک کینہ پرور اور رقا طع رحم و بد سلوک نہ ہو۔ (اور ابو سعید بن منصور نے عطاء بن یسار کی زبانی بھی یہی بیان کیا ہے)

علامہ دینوری نے اپنی مسالک میں لکھا ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتہ ملک الموت کو بتا دیتا ہے کہ اسے اس سال ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے امام بیہقی نے راشد بن سعد سے مرسل روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ چار راتوں میں خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بقرہ عید کی رات دوسری عید الفطر تیسری پندرہویں شعبان کی شب جس میں مدت حیات و رزق اور حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں اور چوتھی عرفہ کی رات ان چاروں راتوں میں شام سے صبح تک اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جبریلؑ نے میرے پاس آ کر کہا یہ شعبان کی پندرہویں شب ہے اس میں اللہ اپنے گنہگار بندوں کو جن کی تعداد قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر ہو تب بھی مغفرت کرتا ہے۔

ترمذی، ابن ماجہ، بیہقی اور ابن ابی شیبہ نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی لکھا ہے ایک شب رسول اکرم ﷺ میرے پاس نہ تھے میں آپ کو تلاش کرنے چلی۔ اور آپ ﷺ بخت البقیع میں اپنا سر مبارک آسمان کی جانب بلند کئے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمایا اے عائشہ کیا تم کو یہ خوف ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر کوئی ظلم کرے گا؟ میں نے عرض کیا مجھے یہ خوف و ہراس تو ہرگز نہیں البتہ گمان ہوا تھا کہ آپ ﷺ کسی اور بی بی کے پاس گئے ہیں اس نوبت پر سرکار کونین ﷺ نے ارشاد فرمایا پندرہویں شعبان کی شب میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔

امام بیہقی اور مولف جامع الاصول نے رزیں کا یہ قول مزید لکھا ہے کہ جو لوگ مستحق دوزخ ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔

دنیا میں مستحقین دوزخ کو معاف کرے اور ان کی دنیا ہی میں مغفرت کرنے کے باب میں صرف متذکرہ بالا حدیث درج ہے۔ علاوہ ازیں متعدد احادیث اس مضمون کی وارد ہیں کہ پندرہویں شعبان کی شب میں اللہ اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہو کر مسلمان مرد و زن کی مغفرت کرتا ہے۔ کافروں کی دعائیں قبول کرنے میں تاخیر کرتا ہے۔ اور کینہ و روں کو ان کی کینہ پروری کے سبب مہلت دیتا ہے تاکہ کینہ وری ترک کرے پھر دعا کریں۔ (بیہقی)

ابن قانع نے ابی ثعلیبہ خشنی کی زبانی روایت کی ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میں مشرک، کینہ ور، بدسلوک و قاطع رحم، پاپے لٹکا کر چلنے والے، والدین کو ستانے والے اور شراب خور کی طرف اللہ تعالیٰ نظر تک نہیں کرتا۔ بیہقی نے شعب الایمان میں اسے تحریر کر کے اسے بھی ضعیف لکھا ہے۔

بیہقی نے عثمان بن عاص کے ذریعہ حضرت صدیقہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب میں ندا آتی ہے۔ ہے کوئی طالب مغفرت تاکہ اس کی مغفرت کر دوں۔ ہے کوئی سائل تاکہ اس کا دامن گوہر مراد سے بھر دوں، اور اللہ تعالیٰ ہر سائل کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور زانیہ عورت و مشرک کی کوئی دعا سنتا ہی نہیں۔

کعب کی روایت ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب اللہ تعالیٰ جبریلؑ کو جنت میں بھیج کر کہلواتا ہے پوری جنت سجادی جائے کیونکہ آج کی رات آسمانی ستاروں دنیا کے شب و روز، درختوں کے پتوں، پہاڑوں کے وزن اور ریت کے ذروں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت کروں گا۔

عطاء بن یسار کی روایت ہے کہ یکم ماہ شعبان کو اللہ تعالیٰ جبریلؑ کو اس سال فوت ہونے والوں کی فہرست دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ان لوگوں کی روح قبض کرنا ہے۔ اور یہ ان لوگوں کی فہرست ہوتی ہے جو دنیا میں شادی بیاہ کرتے ہیں۔ مکان بناتے، درخت لگاتے، مظالم کرتے اور فسق فجور وغیرہ کرتے ہوتے ہیں اور ان کو حیات دنیا میں مشغولیت کے سبب پتہ تک نہیں ہوتا کہ وہ اس سال موت سے ہم آغوش ہوں گے۔ (ابن زنجویہ)

## معانی الفاظ حدیث

قاموس میں ہے کہ شحنا (شہین کے زیر کے ساتھ) کے معنی ہیں۔ عداوت و دشمنی۔

ر مشاحنہ کے معنی ہیں کینہ ور۔

مشاحن کا لفظ جو حدیث میں آیا ہے اس کے معنی ہیں بدعتی جو جماعت اہل سنت

سے خارج ہے (یعنی عداوت رکھنے والا۔ کینہ ور) نہایت میں ہے کہ مشاحن کے معنی ہیں۔ عداوت

رکھنے والا اور شحنا کے معنی ہیں کینہ و عداوت۔

اوزاعی نے لکھا ہے کہ حدیث میں مشاحن کے معنی ہیں بدعتی اور جماعت اہل

سنت کو چھوڑ دینے والا۔ طیبی نے لکھا ہے شحنا کے معنی عداوت، کینہ اور انتقام لینے کی فکر رہنے

والے کے ہیں۔ اور ممکن ہے اس لفظ سے وہ رنجش مراد ہو جو مذہب کو نظر انداز کرتے ہوئے

صرف نفس امارہ کی بناء پر دل میں بھری ہوتی ہے۔ اور ناظر عین الغریبین میں شحنا کے معنی

”بھردینا“ ہیں۔

عشر کے معنی قاموس میں ہیں دس میں ایک کا حصہ لے لینا۔ اور نہایت میں بھی اس

کے معنی ۱۰/۱ حصہ لینا۔ اور حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں کہ اگر عاشر کو پاؤ تو اسے قتل کر دو۔ اس کا

مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایسے شخص کو پاؤ جو زمانہ جاہلیت کی مانند سواں حصہ اپنے مذہب پر رہ کر یا

عشر کو جائز جان کر لیتا ہو تو اس شخص کو قتل کر دو اگرچہ عشر کو جائز جاننے والا مسلمان ہی کیوں نہ ہو

اور چالیسواں حصہ زکوٰۃ لینے کے خلاف دسواں حصہ لیتا ہو۔ البتہ خلفائے راشدین کے زمانہ

میں یا ان کے بعد، کاشت کی زمین کو جو ٹیکس آب رسانی کے بعد لیا جاتا ہے۔ اس کا نام بھی عشر

ہے۔ اور ذمیوں کے مال تجارت پر جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا نام بھی عشر ہے۔ اور یہ دونوں ٹیکس

مندرجہ بالا حدیث کے لفظ عشر کے معنی سے جدا ہیں۔

طیبی نے لکھا ہے کہ حدیث میں جاوگر اور دسواں حصہ لینے والے کی عدم بخشش کا جو

حکم ہے یہ اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اور عریف کے معنی

عرا ف یعنی نجومی کے ہیں جو عالم غیب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ عالم الغیب صرف اللہ

تعالیٰ ہے۔ اور نہایت میں یہ حدیث مذکور ہے کہ جس نے کسی نجومی یا کاہن کے پاس جا کر اس

کا اس حدیث میں عاشر سے مراد وہ شخص ہے جو مال میں سے چالیسواں حصہ مقررہ زکوٰۃ لینے کے بجائے صرف

دسواں حصہ وصول کرے یا وصول کرائے۔ ۱۲

کے قول کی تصدیق کی تو گویا ایسے شخص نے رسول اکرم ﷺ پر نازل شدہ قرآن کریم کے احکام کی مخالفت کی اور کفر کیا۔ طبی کا بیان ہے کہ عریف (نجومی) کہانت (غیب کی باتیں بتانے) کی وہ قسم ہے جو مال مسروقہ یا گم شدہ کی برآمدگی کا اپنے قول حال وغیرہ سے ثبوت دیتا ہے اور کہانت کرنے والا یعنی کاہن وہ دشمن ہے جو مستقبل کے حالات کی انکل پچو خبر دیتا ہے۔ شرط اور شرطہ اس گروہ کا نام ہے جو حکام کے مددگار ہوتے ہیں۔ اور شرطی میں یائے نسبتی ہے جس کے معنی نہایتہ میں ہیں مقدمتہ الجیش یعنی فوج کا اگلا حصہ اور حاکم کے سامنے نفاذ حکم کے لئے چلنے والا۔ لیکن حدیث میں شرطی سے مراد ظالم و جفا جو ہیں۔ نیز وہ لوگ مراد ہیں جو ظالموں کے معین و مددگار ہوتے ہیں۔ علامہ نوویؒ نے قاموس کے حوالہ سے لکھا ہے کہ جابی کے معنی ہیں کہ گمان کی بناء پر مال نکال لینا۔ اور حدیث میں جابی سے مراد وہ شخص ہے جو بادشاہ و حاکم اعلیٰ کے پاس مال حرام لے کر آئے۔ گو بہ کے معنی طبل و بربط وغیرہ یعنی باجے کے ہیں۔ اور یہی معنی نہایتہ میں علامہ جزری نے لکھے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے کہ بلا شک و شبہ اللہ نے شراب اور گو بہ (باجہ) کو حرام قرار دیا ہے جامع الاصول کی شرح میں لکھا ہے کہ گو بہ وہ چھوٹا سا طبلہ ہے جو دوسرا والا ہوتا ہے۔

(جسے ڈگڈگی بھی کہتے ہیں۔ از مترجم اقبال الدین احمد)

عربہ کے معنی قاموس میں عود، طنبورہ یا طبلہ کے ہیں یعنی باجے اور باجہ بجانے والا۔ اور مسبل کے معنی ہیں وہ شخص جو اپنے لمبے لمبے کپڑے زمین پر غرور و تکبر کے اظہار کے لئے لٹکائے۔

قاضی عیاض نے اپنی مشارق الانوار میں یہ حدیث نقل کی ہے اللہ تعالیٰ تین شخصوں سے کلام نہ کرے گا ایک وہ جو ازار (تہبند، پائجامہ و پتلون) وغیرہ کو لٹکا کر چلے اور غرور و تکبر کے طور پر اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹ کر چلے۔

صحیح مسلم میں حضرت ابوذر غفاریؓ کے ذریعہ رسول اکرم ﷺ کا یہ ارشاد مذکور ہے کہ روز محشر اللہ تین شخصوں سے کلام نہیں کرے گا۔ ان کی طرف نظر نہیں کرے گا۔ انہیں پاک نہیں کرے گا اور ان لوگوں کے لئے دردناک عذاب ہے اس جملہ کو رسول اکرم ﷺ نے تین مرتبہ ادا

۱۔ شرطی کا لفظ بزمانہ حال کا نیشنل پولیس کو کہتے ہیں۔ ۱۲

۲۔ ایک قبیلہ کا نام ہے اور غفاری غفار کی جانب منسوب ہے۔ یہ عین کے زبر کے ساتھ ہے۔ ۱۲

فرمایا۔ اس پر (ابو ذر غفاری) نے کہا رسول اللہ ﷺ یہ نقصان و خسارے والے کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کپڑا لٹکانے والے، کچھ دے کر احسان جتانے والے اور جھوٹی قسمیں کھا کھا کر مال تجارت کو رواج دینے والے۔ امام نوویؒ نے لکھا ہے ازار لٹکانے والے سے وہ شخص مراد ہے جو اپنے تہبند و پانچامہ وغیرہ کے پانچوں یا باقی ماندہ نچلے کپڑے کو ازراہ تکبر و غرور زمین پر گھسیٹ کر چلے اور ختیلاہ کے معنی غرور و تکبر کے ہیں اور غرور کے ساتھ اپنے کپڑوں کو زمین پر گھسیٹ کر چلنا یہ وعید ان لوگوں کے لئے جو غرور و تکبر کرتے ہیں۔ اور بلا شک و شبہ رسول اکرم ﷺ نے اس بارے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اجازت دی کہ وہ کپڑے گھسیٹ کر چل سکتے ہیں کیونکہ آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو غرور و تکبر کریں۔ اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ اپنا تہبند اسی طرح باندھ سکتے ہیں جو چلنے میں زمین پر گھسیٹا رہتا ہے۔ امام جعفر محمد بن جریر طبری نے لکھا ہے کہ صرف ازار کو گھسیٹ کر چلنے کے الفاظ حدیث میں اس لئے ہیں کہ لوگ عموماً ازار ہی لمبی پہنتے تھے۔

میں (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) کہتا ہوں کہ صرف ازار لٹکانا حکم رسالت ﷺ میں خصوصی حکم نہیں ہے بلکہ ہر کپڑے کو لٹکانے کی ممانعت ہے جیسا کہ سالم بن عبد اللہ بن عمرؓ نے اپنے والد کی زبانی بیان کیا کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ ازار قمیض اور عمامہ بھی زمین پر گھسیٹا جاتا ہے اور جس نے اپنے جسم کا کوئی لباس بھی ازراہ غرور زمین پر گھسیٹا تو روز محشر اللہ اس کی جانب نظر نہیں کرے گا۔

اس حدیث کو ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے بھی بہ اسناد حسن تحریر کیا ہے۔  
(ختم شدہ کلام امام نوویؒ)

میں (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) کہتا ہوں کہ اکثر احادیث میں صرف کپڑے گھسیٹ کر چلنے اور بعض احادیث میں ازار گھسیٹ کر چلنے کی ممانعت کے الفاظ ہیں۔ اور گھسیٹ کر چلنے میں کسی خاص کپڑے کا ذکر کرنا شاید راوی کے اپنے ذاتی فہم کی بات ہے ورنہ ہر وہ لباس جو پہنا جاتا ہے اسے ازراہ غرور گھسیٹ کر چلنے کی شارع نے ممانعت فرمائی ہے اگرچہ ازار گھسیٹنے کے الفاظ ہی زیادہ مشہور ہیں۔ باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

### تیسرا مقالہ

پندرہویں شعبان کی شب میں شب بیداری، دن میں روزہ اور وظائف و اعمال کے ثبوت درج ذیل ہیں۔ حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا پندرہویں



شعبان کی شب بیداری کرواوردن میں روزہ رکھو۔ (تایم حدیث)

حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میری باری تھی۔ اور رسول اکرم ﷺ میرے گھر میں تھے۔ لیکن آدھی رات کے وقت میں نے دیکھا تو آپ ﷺ کو نہ پایا اور میرے دل میں دوسری عورتوں والی بات آئی چنانچہ میں چادر اڑھ کر دوسری ازواج کے گھروں میں گئی لیکن وہاں آپ ﷺ نہ ملے تو میں گھر لوٹ آئی اور میں نے آپ ﷺ کو اپنے کمرہ میں اسی حالت میں سجدہ ریز دیکھا گویا کوئی کپڑا اکھٹا پڑا ہو۔ آپ ﷺ سجدہ میں یہ دعا کر رہے تھے۔ اے اللہ میرے خیال و ضمیر نے تجھے سجدہ کیا اور میرا دل بھی تیرے حضور سجدہ ریز ہے۔ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے بذاتِ خود اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اے عظیم و برتر! تو ہی ہر بڑے کام کا مرکز امید ہے میرے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ میں اپنی پیشانی سے تجھے سجدہ کرتا ہوں جس کا تو ہی خالق و صورت گر ہے۔ اے اللہ تو نے ہی آنکھ اور کان عنایت فرمائے ہیں اس کے بعد رسول اکرم ﷺ نے سر مبارک اٹھایا اور پھر دوبارہ سجدہ کیا اور سجدہ میں یہ دعا مانگی اے اللہ میں تیرے غصہ سے پناہ مانگتا اور تیری رضا مندی کا طالب ہوں۔ تیرے عذاب سے پناہ مانگتا اور تیرے عفو و رحم کا طالب ہوں۔ اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ میں بیش در بیش تیری ویسی تعریف و ثنا کرتا ہوں جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔ اور جس طرح میرے بھائی داؤدؑ نے دعا کی تھی ویسی ہی میں بھی یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تیرے حضور میں اپنی پیشانی زمین پر رگڑتا ہوں اور سجدہ صرف تیرے ہی لئے سزاوار ہے۔ اسکے بعد سر مبارک اٹھا کر یہ دعا کی اے اللہ مجھے وہ پاکیزہ دل عنایت فرما جس میں شرک کا بالکل شائبہ نہ ہو، جو فسق و فجور اور سختی کرنے سے بلند ہو۔ پھر وہاں سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور میری چادر اڑھ لی اور میری حالت یہ تھی کہ میری سانس پھول رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فرمایا اے حمیرا کیا بات ہے؟ سانس کیوں پھول رہی ہے؟ میں نے پورا ماجرا کہا تو میرے گھٹنوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا واہ ان گھٹنوں نے آج کی رات ملاقات نہیں کی۔ حالانکہ آج پندرہویں شعبان کی شب ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ اور مشرک و کینہ ور کے سوائے اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے۔ (بیہقی)

۱۔ قاموس میں ویس کے معنی لکھتے ہیں کہ وہ جملہ ہے جو ازراہ مہربانی بچوں کو بہلانے کے لئے استعمال ہوتا ہے لیکن میں مترجم نے اس کا ترجمہ ”واہ“ کیا ہے۔ اللھم اغفر لی ذنوبی و خطیاتی۔ (اقبال الدین احمد)

امام وقت عارف باللہ شیخ ابوالحسن بکریؒ کا بیان ہے کہ اس رات یہ بہترین دعا کرنی چاہیے۔ اے کرم پرور اللہ! عفو و درگزر تجھے محبوب ہے میرے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ! میں تیرے حضور عفو و عافیت اور دین و دنیا میں دائمی امن و امان و عافیت کا طلب گر ہوں۔ اسکے بعد شیخ نے کہا اگرچہ متذکرہ دعائیلۃ القدر میں کی جاتی ہے۔ لیکن شب قدر کے بعد، شعبان کی پندرہویں شب افضل ہے جیسا کہ لکھا جا چکا ہے۔

### اس شب کی بہترین دعا

بہترین دعا وہ ہے جو عمدہ اسناد و روایات کے ساتھ بیان کی گئی ہو۔ چنانچہ ابو بزرہؒ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔ آدمؑ نے آسمان سے زمین پر آ کر خانہ کعبہ کا سات مرتبہ طواف کیا۔ اور مقام ابراہیم کے عقبی حصہ میں دو رکعت نماز پڑھی۔ پھر یہ دعا کی۔ اے اللہ تو میرا ظاہر و باطن جانتا ہے۔ میں تجھ سے اس ایمان کا طلب گر ہوں جو قلب کی قوت دے۔ اور وہ سچا ایقان عنایت کر جس کے ذریعہ یقین کامل ہو جائے کہ مجھے وہی ملے گا جو تو نے لکھ دیا ہے۔ اے اللہ اپنی مرضی پر مجھے راضی برضار بننے کے لئے ثابت قدم رکھ۔ اس پر اللہ نے آدمؑ سے بذریعہ وحی کہا اے آدمؑ تم نے جو دعائیں مانگی وہ میں نے قبول کی اور آئندہ تمہاری اولاد میں سے جو کوئی یہ دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، اس کی مغفرت کروں گا۔ اس کے غم و آلام دور کروں گا۔ اور ہر تاجر کو اتنا زیادہ دوں گا کہ دنیا اس کے ناک رگڑتی آئے گی اگرچہ تاجر کو اس کی خواہش نہ ہو۔

### شعبان کی پندرہویں شب میں شب بیداری کا حکم

شعبان کی پندرہویں شب میں مختلف روایتیں ہیں۔

تابعین میں سے خالد بن معدان، مکحول اور لقمان بن عامر وغیرہ شب بیداری کے قائل ہیں۔ اور عطاء و ابن ابی ملکیہ نے اختلاف کیا ہے۔ اور علماء شافعی و مالکی کا بھی یہی مسلک ہے۔

خالد بن معدان، لقمان بن عامر اور اسحاق بن راہویہ مسجد میں جمع ہو کر اس رات شب بیداری کرتے تھے۔ اور خالد و لقمان کی یہ حالت تھی کہ شعبان کی پندرہویں شب میں یہ دونوں عمدہ لباس زیب تن کرتے، سر مہ لگاتے اور رات بھر مسجد میں عبادت کناں جاگتے تھے۔

اب جو شخص شعبان کی پندرہویں رات کو شب بیداری کرے تو یہ امر احادیث کے مطابقت میں بالکل مستحب ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے کہ جن احادیث سے کسی فعل کا جائز ہونا پایا جائے وہ فعل مستحب ہے۔ اور امام اوزاعی کا بھی یہی قول ہے۔

خلیفہ وقت عمر بن عبدالعزیزؓ نے ایک مرتبہ بصرہ کے گورنر کو لکھا کہ سال بھر کی حسب ذیل چار راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ ان شبوں میں بہت زیادہ خیر و برکت نازل فرماتا ہے۔

اول یکم رجب کی شب، دوم پندرہویں شعبان کی شب، سوم عید الفطر کی شب اور چہارم بقر عید کی شب۔

میری (عبدالحق کی) رائے میں یہ روایت قابل نظر ہے۔

امام شافعیؒ کا بیان ہے کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے ایک جمعہ کی رات، ایک عیدین کی رات، ایک یکم رجب کی رات اور ایک پندرہویں شعبان کی رات۔

امام احمد بن حنبلؒ نے شعبان کی پندرہویں شب میں شب بیداری کے اثبات یا نفی کی بابت کوئی رائے نہیں دی ہے۔ حالانکہ عیدین کی شب میں جاگنے کی بابت دو روایتیں تحریر کی ہیں۔

رسول اکرم ﷺ کا یہ عمل ثابت ہے کہ پندرہویں شعبان کی شب میں مسلمان مرد و زن اور شہدا کی دعائے مغفرت کے لئے آپ ﷺ قبرستان تشریف لے گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ کا بیان ہے کہ ایک رات رسول اکرم ﷺ میرے گھر تشریف لائے اور لباس اتارنے لگے لیکن پورا لباس اتارنا نہ تھا کہ پھر کھڑے ہو گئے اور لباس زیب تن فرمایا۔ اس پر مجھے سخت رشک آیا اور گمان ہوا کہ آپ ﷺ میری کسی سوکن کے ہاں جا رہے ہیں آپ ﷺ کی روانگی کے بعد میں تعاقب میں چلی یہاں تک کہ میں نے آپ ﷺ کو بیچ غرقہ میں اس حالت میں دیکھا کہ مسلمان مرد و زن اور شہدا کے لئے دعائے مغفرت کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر میں نے دل میں کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں آپ ﷺ اللہ کے کام میں مشغول ہیں اور میں دنیاوی کام میں لگی ہوں۔ اس کے بعد میں لوٹ کر اپنے گھر کمرہ میں آ گئی۔ میں لمبی لمبی سانس لے رہی تھی کہ اتنے میں آپ ﷺ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے سانس کیوں پھول رہی ہے؟ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان ہوں۔ آپ ﷺ تشریف لا کر لباس اتارنے لگے اور لباس اتارنے نہ پائے تھے کہ کھڑے ہو کر دوبارہ لباس زیب تن کیا۔ اس پر

مجھے رشک آیا اور گمان ہوا کہ آپ ﷺ کسی اور ازواجِ مطہرات کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تا آنکہ میں نے آپ ﷺ کو قبرستانِ بقیع میں مشغولِ دعا دیکھا۔ اس پر ارشاد فرمایا اے عائشہؓ کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کرے گا۔ واقعہ یہی تھا کہ جبریلؑ آئے اور انہوں نے کہا آج شعبان کی پندرہویں شب ہے۔ جس میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کرتا ہے اور مشرک، کینہ ور، قاطع رحم و بد سلوک، غرور سے زمین پر لباس کھسیٹ کر چلنے والے، والدین کے نافرمان اُردو امی شراب خور کی طرف اس شب میں نظرِ کرم نہیں کرتا۔ اس کے بعد آپ ﷺ نے لباس اتارا اور فرمایا اے عائشہؓ شب بیداری کی اجازت ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قربان! بصد شوق۔ چنانچہ آپ ﷺ کھڑے ہو گئے اور عبادت کرنے لگے۔ اندرونِ نماز آپ ﷺ نے ایک بڑا لمبا سجدہ کیا جس پر مجھے آپ ﷺ کی قبضِ روح کا گمان ہوا۔ میں اُٹھ کر آپ ﷺ کو دیکھنے بھالنے لگی۔ میں نے آپ ﷺ کے ٹکڑوں کو ہاتھ لگایا تو ان میں حرکت تھی۔ اس پر مجھے خوشی ہوئی اور میں نے آپ ﷺ کے اندرونِ سجدہ یہ دعا کرتے سنا۔ اے اللہ میں تیرے عفو و کرم کی طلب کے لئے تیرے مواخذاہ کرنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری رضا مندی کے لئے تیری ناخوشی سے پناہ مانگتا ہوں اے اللہ تیرے جلال و جمال کی قسم میں تیری ہی پناہ دہی کا خواستگار ہوں اور مجھ سے ویسی حمد و ثناء ناممکن ہے جیسی تو نے خود اپنی تعریف کی ہے۔

صبح کو میں (عائشہؓ) نے آپ ﷺ سے ان دعاؤں کا تذکرہ کیا، فرمایا یہ دعائیں یاد کر لو اور دوسروں کو بھی ان کی تعلیم دو۔ کیونکہ جبریلؑ نے مجھے یہ دعائیں سکھائیں اور کہا سجدہ میں دعائیں مکررہ کر پڑھی جائیں۔ (بیہقی)

حضرت عائشہؓ سے مروی ہے کہ رسول اکرم ﷺ شعبان کی پندرہویں شب میں نماز پڑھ رہے تھے اور بحالتِ نماز آپ ﷺ نے ایک اتنا طویل سجدہ کیا کہ مجھے آپ ﷺ کی قبضِ روح کا گمان ہوا چنانچہ میں نے کھڑے ہو کر آپ ﷺ کا انگوٹھا ہلایا جس میں حرکت معلوم ہوئی تو میں اپنی جگہ لوٹ آئی۔ پھر آپ ﷺ نے نماز پوری کر کے کہا اے عائشہؓ اے حمیرا! کیا تمہیں یہ گمان ہوا کہ نبی اللہ نے تم پر زیادتی کی؟ میں نے عرض کیا جی نہیں یا رسول اللہ ﷺ مجھے تو آپ ﷺ کے طویل سجدہ سے روحِ قبض کا گمان ہوا تھا۔ اس پر ارشادِ عالی ہوا جانتی ہو یہ کون سی رات ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ﷺ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا یہ شعبان کی

پندرہویں شب ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مزید نظرِ کرم فرمانے کے لئے آسمانِ دنیا پر نزولِ اجلال کرتا ہے۔ اور طالبانِ مغفرت کی مغفرت کرتا اور خواہانِ کرم پر نظرِ کرم فرماتا ہے اور حاسد و کینہ ور کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ (بیہقی)

### احادیث موضوعہ

شعبان کی پندرہویں شب میں نمازیں پڑھنے کے بارے میں حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ میں (علیؑ) نے خود دیکھا ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب کو رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ ﷺ نے چودہ رکعات پڑھ کر نشست کی اور بیٹھے بیٹھے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ بقرہ اور سورہ الناس چودہ چودہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آیۃ الکرسی اور لقد جاءکم رسول من انفسکم کی آیت ایک ایک مرتبہ پڑھی بعد فراغت نماز و دعا میں نے آپ ﷺ سے وہ سب کچھ پوچھا جو آپ ﷺ کو رو بہ عمل لاتے دیکھا تھا جس کے جواب میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جیسا تم نے کرتے دیکھا ہے ایسے عمل کرو جو شخص ایسا کرے گا۔ اسے بیس پسندیدہ حج اور بیس سال کے مقبول روزوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور صبح کو روزہ رکھنے کے سبب اس کو دو سال گذشتہ اور ایک آئندہ کے روزوں کا ثواب ملے گا۔

اس روایت کو بیہقی نے شعبان الایمان میں درج کر کے آخر میں تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث موضوعات کے مشابہ ہے اور چونکہ اس کے راوی مجہول ہیں اس لئے یہ منکر کو ناپسندیدہ ہے نیز اس حدیث کو علامہ جوزقانی نے باطل و غلط احادیث میں شمار کیا ہے اور علامہ ابن جوزی نے موضوعات میں تحریر کر کے لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس کی اسناد تاریک ہے۔

کتاب تنزیہہ الشریعت میں احادیث موضوعہ کے ضمن میں حضرت علیؑ کی یہ روایت مذکور ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا۔ اے علیؑ! شعبان کی پندرہویں شب میں جس نے سو ۱۰۰ رکعات اس ترکیب سے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی (تایم حدیث) تو اللہ تعالیٰ اپنے معزز فرشتوں کو لٹا کاتبین کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا کوئی گناہ قلم بند نہ کرو بلکہ آئندہ سال تک اس کی نیکیاں لکھتے رہو۔ اور جو شخص یہ نماز پڑھے گا۔ اللہ اس شب کی اس نماز کے سبب اس کا نام عابدوں کی فہرست میں لکھوا دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس کے راوی مجہول ہیں اور یہ حدیث ضعیف ہے۔

ایک حدیث یہ ہے کہ شعبان کی پندرہویں شب میں جس نے سو ۱۰۰ رکعات اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں ایک ایک ہزار مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی تو اس کا اس وقت انتقال ہوگا جبکہ اس کے جواب میں سو فرشتے آچکیں گے۔ ان سو ۱۰۰ فرشتوں کے منجملہ (۳۰) جنت کی خوشخبری دیں گے۔ (۳۰) دوزخ سے روکیں گے (۳۰) گناہوں و جرائم سے باز رکھیں گے اور باقی (۱۰) فرشتے اس کے دشمنوں کو جھٹلائیں گے۔ ابن جوزی نے لکھا ہے کہ اس روایت میں بدنام اور مجہول راویوں کی کثرت ہے۔

حضرت علیؓ کی زبانی ایک روایت یہ ہے کہ میں نے پچشم خود رسول اکرم ﷺ کو شعبان کی پندرہویں شب میں کھڑے ہو کر (۱۴) رکعات پڑھتے دیکھا ہے۔ (تاختم حدیث) اس روایت کی بابت بیہقی نے لکھا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے۔ اس کی اسناد تاریک اور راوی مجہول ہیں۔

### بدعتیں

ہندوستان کے اکثر شہروں میں لوگوں نے یہ رواج کر لیا ہے کہ پندرہویں شعبان کی رات کو اپنے گھروں کی دیواروں پر چراغ جلاتے اور فخریہ روشنی کرتے ہیں کہ ہم نے ایسی اچھی روشنی کی ہے جو دوسروں سے اچھی ہے اور ہم اتنے آدمی ہیں جو روشنی کرتے ہیں فرداً فرداً اور اجتماعی حیثیت سے اس رات میں آتش بازی چھوڑتے اور دیگر کھیل کود کرتے ہیں اس کے علاوہ کسی غیر معتبر کتاب میں بھی ان امور کے مسنون و سنت ہونے کی کوئی ضعیف یا موضوع حدیث پائی نہیں جاتی۔

ممالک عربیہ میں سے حرمین اور غیر عربی ممالک کے کسی دوسرے شہر میں (ہندوستان کے سوائے) ان امور کا کوئی رواج نہیں ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔ عین ممکن یہ ہے بلکہ یقین واثق ہے کہ ہندوستان کے ہندوؤں کے دیگر رسوم انجام دینے کی طرح ہندی مسلمانوں نے اس رسم کی پیروی کی جیسے ہندو، دیوالی کے تہوار پر اپنے گھروں کی دیواروں اور طاقوں میں دیے جلاتے ہیں۔ اور ہندوستان کے ہندوؤں میں کفر کی وجہ سے بدعتی امور بکثرت رائج ہیں چونکہ مسلمانوں کے ہندوؤں سے بڑے اختلاط رہے۔ ہندوؤں نے اپنی عورتوں کے ساتھ مسلمانوں کی شادیاں کیں اسی اختلاط عام اور رہن سہن کے طریقہ اختیار کرنے کے سبب مسلمانوں نے بھی روشنی کرنے کی رسم ڈال لی

ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ”ہم بھی کسی سیٹھ سا ہو کار سے کم نہیں جس طرح وہ روشنی کرتے ہیں ویسی ہی بلکہ اس سے اچھی ہم کرتے ہیں۔“

بعض متاخرین علماء کا بیان ہے کہ مخصوص راتوں میں بکثرت روشنی کرنا بدعت شیعہ (نکمی بدعت) ہے اس لئے کہ ضرورت سے زیادہ روشنی کرنے کے مستحب ہونے کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔

علی بن ابراہیم کا بیان ہے کہ چراغاں اور روشنی کرنے کی ابتداء بارہمکیوں نے کی ہے جو نسلاً و اعتقاداً آتش پرست تھے۔ اور ظاہری اسلام لانے کے بعد بھی انہوں نے اپنے وہی خیالی امور کو اسلام میں جاری رکھنے کی حتی الامکان کوششیں کیں کیونکہ اعتقادی طور پر ان کو قدیم رواج کے درست ہونے کا یقین تھا۔ نیز اسلام میں قدیم رواج و رسوم کو باقی رکھنے میں ان کی مصلحت یہ تھی کہ اسلام کے پردہ میں چراغ جلا کر اس کو سجدہ کرتے ہوئے آتش پرستی کی روح باقی رکھیں اور طرزہ یہ ہے کہ جاہل ائمہ مساجد نے چراغ و روشنی اور نماز رعبائب کی آڑ میں لوگوں کو جمع کرنے کا طریقہ بنا لیا ہے تاکہ اپنی قیادت و سرداری جتا کر دولت گھسیٹ سکیں۔ ساتھ ہی قصہ خواں مجالس میں خوب قصے بیان کر سکیں۔ اور غریبوں کے روپے لیتے رہیں۔ اور حقیقت یہ امر ہے کہ ان تمام منکرات کے بطلان و ابطال میں سے اللہ نے ائمہ ہدیٰ پیدا کئے ہیں، کہ منکرات ناپید ہو جائیں۔ ان ائمہ ہدیٰ میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے دوسری صدی ہجری ممالک عرب و شام کے اندر منکرات کو اچھی طرح ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔

تذکرہ میں علامہ طوسی نے لکھا ہے کہ ختم قرآن کی شب میں اجتماع منبروں کا قیام عورتوں مردوں کا میل جول اور کھیل کود وغیرہ میں باہمی اختلاط اور زمانہ حال کے اعمال و کردار ناگفتہ بہ یہ سب کے سب کام کوئی اصلیت نہیں رکھتے اور ان کے جواز کی کوئی صورت نہیں ہے۔



۱۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امور بدعت انجام دینے سے محفوظ رکھے بدعت ہی وہ جرم عظیم ہے جو عقلمندی کو خراب کرتی اور ملت اسلامیہ کی مرکزیت پارہ پارہ کرتی ہے۔ (اقبال الدین احمد) ۱۲

## رمضان

ماہ رمضان کے روزے اور قیام یعنی تراویح کے احکام و متعلقہ مسائل اور تراویح کی

بابت علماء کا باہمی اختلاف۔

بعض علماء تراویح کو نفل، بعض مستحب اور بعض سنت کہتے ہیں۔ اور تراویح کو سنت کہنے والے ہی صحیح راہ پر ہیں۔ اور یہی صحیح ہے کہ مرد و زن کے لئے تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے اور یہ وہ مسنون طریقہ ہے جو بزرگوں سے لے کر اب تک جاری ہے۔ اور مندرجہ ذیل روایت کے پیش نظر کوئی اختلاف باقی نہیں رہا ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ نے امام حسن ابن علیؑ کی زبانی بیان کیا ہے کہ تراویح پڑھنا سنت ہے اور اسے کسی حال میں ترک کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم ﷺ نے ایام رمضان میں تراویح پڑھی اور گاہے ترک کرتے ہوئے فرمایا میں اس خوف سے مسلسل نہیں پڑھتا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے۔

احادیث میں ہے کہ حضرت عمرؓ اور دیگر خلفاء راشدین ہمیشہ تراویح پڑھتے تھے اور رسول اکرم ﷺ نے فرمایا ہے لوگو! میری اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنت پر سختی کے ساتھ عمل کرو۔ فقہ کی بعض کتابوں میں مرقوم ہے اگر شہر کے باشندے تراویح پڑھنا چھوڑ دیں تو حاکم وقت کے لئے لازمی ہے کہ وہ تارکین تراویح کو قتل کر دے۔

روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہؓ اپنے غلام زکوان کے پیچھے تراویح پڑھتی تھیں اور یہی عمل ام سلمہؓ کا تھا کہ وہ دیگر خواتین کے ساتھ جماعت کے طور پر اپنے غلام ام حسن بصری کی امامت میں تراویح پڑھتی تھیں، جسے ہم تفصیل کے ساتھ چند عنوانات میں بیان کرتے ہیں۔

### رکعات تراویح

ہمارے مسلک شریعت اسلامیہ میں (۲۰) رکعات تراویح پڑھنا ہی سنت ہے۔ بیہقی نے صحیح اسناد کے ساتھ لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ کے دور خلافت میں صحابہ (۲۰) رکعات تراویح پڑھتے تھے اور حضرت عثمان غنیؓ و علی مرتضیٰؓ کے زمانہ میں بھی (۲۰) ہی پڑھتے تھے۔



حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ رسول اکرم ﷺ ماہ رمضان میں (۳) وتر پڑھتے تھے۔

بعض محدثین کے نزدیک یہ روایت ضعیف ہے لیکن حنفیوں کے نزدیک حدیث مذکورہ بالا مقبول و معتمد علیہ ہے۔ اس لئے کہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہ تراویح کی (۲۰) رکعات ہی پڑھتے تھے۔

بعض لوگ حضرت عائشہؓ سے مروی روایت کو صحیح کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی شب بیداری کی عادت طیبہ کے موافق (۱۱) رکعات ہی پڑھتے تھے۔

ایک روایت ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے زمانہ میں بعض لوگ (۱۱) رکعات پڑھتے تھے تاکہ عمل رسول اللہ ﷺ سے مشابہت ہو جائے لیکن صحابہ و تابعین اور بعد کے بزرگوں کے عمل سے یہ امر تصفیہ شدہ ہے کہ تراویح کی (۲۰) رکعات ہی پڑھی گئی ہیں اور اب بھی (۲۰) رکعات ہی پڑھتے ہیں جو مشہور معروف ہے۔

ایک روایت میں (۲۳) رکعات پڑھنا تحریر ہے جس میں (۳) وتر بھی جمع کر لئے گئے ہیں۔

امام مالکؒ نے لکھا ہے کہ امام شافعیؒ کے نزدیک تراویح کی (۳۶) رکعات ہیں اور دوسری روایت میں (۳۹) رکعات مذکور ہیں جن میں وتر بھی شامل ہیں۔ یہ عمل صرف باشندگان مدینہ منورہ کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ باشندگان مکہ معظمہ کا دستور رہا کہ وہ خانہ کعبہ کے سات چکر لگاتے اور طواف کی دو رکعتیں ہر دو رکعات تراویح اور وتر کے درمیان ادا کرتے۔ اور باشندگان مدینہ منورہ کعبہ کے اطراف طواف کرنے کی فضیلت سے دور رہنے کے سبب (۲۰) رکعات تراویح کے بعد چار چار رکعات مزید پڑھتے ہیں اور اپنی ان اضافہ کردہ (۱۶) رکعات کو (ستہ عشریہ) کہتے ہیں اور ان کی یہ عادت آج تک جاری و ساری ہے اس طرح (۳۶) رکعات تراویح کے نام سے کہی جاسکتی ہیں۔ نیز اسی طرح (۳۶) رکعات پڑھنے کی روایت حضرت عمرؓ سے بھی منسوب کی جاتی ہے جو مشہور نہیں ہے۔

بحالت موجودہ اگر آج بھی (۲۰) رکعات تراویح پر مزید اضافہ کے ساتھ نماز پڑھی جائے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں اور ممانعت نہیں۔ اور اس میں امام و مقتدی کی کوئی خصوصیت نہیں بلکہ سب برابر ہیں ستہ عشریہ کو علیحدہ پڑھنا مناسب ہے کیونکہ تراویح کے

سوائے کوئی اور نماز باجماعت پڑھنا ہمارے نزدیک مکروہ ہے اور باشندگان مدینہ جو ستہ عشریہ کو باجماعت ادا کرتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ان کے نزدیک نفل باجماعت پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔

متاخرین علماء مصر شیخ قاسم حنفی کا بیان ہے کہ باجماعت نفل ادا کرنا عمل مکروہ ہے کیونکہ نفل پڑھنا اگر مستحب ہوتے تو دوسری فرض نمازوں کی مانند ان کا باجماعت پڑھنا افضل ہوتا۔ اور اگر نماز نفل باجماعت پڑھنے کا حکم ہوتا تو شب بیداری نماز تہجد باجماعت ادا کر کے طالب فضیلت پاتے اور اس صورت میں نماز نفل باجماعت ادا کرنا افضل ہو سکتی تھی۔ اور جبکہ رسول اکرم ﷺ اور صحابہؓ کے طرز عمل و عبادت سے نفل باجماعت ادا کرنے کی کوئی روایت نہیں ہے تو اس صورت میں بھی معلوم ہوا کہ نفل باجماعت ادا کرنے میں کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے۔

### تراویح میں نشست

مستحب یہ ہے کہ چار رکعات تراویح پڑھنے کے بعد جتنے وقفہ میں ایک ترویجہ (چار رکعت) پڑھتے ہیں اتنی مدت نشست کرے۔ یعنی (۲۰) رکعات تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد (۵) مرتبہ بیٹھنا مستحب ہے امام اعظم حضرت ابوحنیفہؒ سے بھی یہی مروی ہے۔ اور باشندگان حرمین شریفین کا بھی یہی طرز عمل اور یہی طریقہ ہے۔ اور چونکہ لفظ تراویح راحت سے ماخوذ ہے۔ اس لئے چار رکعات کے بعد ترویجہ (ایک رکعت کے وقفہ کے برابر آرام کرنا) ضروری ہے۔ اور آرام کرنے ہی کی وجہ سے ترویجہ کا محاورہ مشہور ہے جو اپنے نام کے سبب کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ باشندگان حرمین شریف اور تمام بزرگوں کا یہی قول و عمل ہے کہ ترویجہ کرتے ہیں۔ باشندگان مکہ معظمہ کا طریقہ یہ ہے کہ تراویح پڑھنے کے درمیان میں وہ خانہ کعبہ کا (۷) مرتبہ طواف کرتے ہیں۔ اور باشندگان مدینہ منورہ ستہ عشریہ کی چار چار رکعات پڑھتے اور اسی طرح تمام ممالک اسلامیہ میں ہر چار رکعت کے بعد آرام سے بیٹھتے ہیں۔

### نشست ترویجہ

ہر چار رکعات کے بعد نشست ترویجہ میں اختیار ہے کہ سبحان اللہ کی تسبیح پڑھے چاہے ”لا الہ الا اللہ“ کی خواہ تلاوت قرآن کریم کرے یا خاموش بیٹھا رہے۔

اگر چار رکعات کے بعد ترویج نہ کیا جائے یعنی آرام سے نہ بیٹھیں تو بعض کے نزدیک اس میں کوئی حرج نہیں اور اکثر علماء و محدثین کے نزدیک ترویج ترک کرنا فعل غیر مستحب ہے۔ اور باشندگان حرمین شریفین کے عمل کا مغائر ہے۔

### مستحب قرأت

میری (عبدالحق محدث دہلویؒ کی) اللہ تعالیٰ اصلاح حال کرے اور جس طرح آغاز و حال اچھا کیا ہے ویسے ہی بلکہ اس سے زیادہ انجام اچھا کرے رائے یہ ہے کہ بزمانہ موجودہ ترویج نہ دارد ہے۔ اور حافظ صاحبان کا یہ حال ہے کہ تراویح میں وہ اتنی لمبی قرأت کرتے ہیں جو نمازیوں پر بار بن جاتی ہے۔ بلکہ اکثر اوقات چند رکعات میں پوری رات کٹ جاتی ہے۔ آہستہ پڑھنے کا عمل مستحب، جو بزرگوں سے بطور ورثہ چلا آ رہا ہے۔ وہ ترک کر کے حافظ صاحبان طویل قرأت کے ذریعہ عمل مستحب کو فعل غیر مستحب بنا رہے ہیں۔ حالانکہ مستحب یہ ہے کہ قرأت میں میانہ روی سے کام لیا جائے اور جس طرح چار رکعات کے بعد ترویج کرتے ہیں ویسے ہی قرأت کو کوتاہ کیا جائے اور لمبی قرأت نہ کی جائے جو زیادہ مستحسن ہے تاکہ امر مستحب ہاتھ سے چھوٹنے نہ پائے اور باسانی ترویج کے عمل استحباب کا ثواب ملتا رہے تراویح کی مقدار قرأت کو آئندہ بیان کیا جاتا ہے۔ چار رکعتوں میں معتدل مقدار قرأت کے ساتھ جو مدت ہوتی ہے اگر اس کی ایک رکعت سے کم وقفہ کا ترویج بھی کیا جائے تو انشاء اللہ کافی ہوگا اور ہم سب اپنے اعمال الہی میں قبولیت کے خواستگار ہیں اللہ ہمارے اعمال قبول فرمائے۔ (آمین)

### نیت تراویح

نماز تراویح، سنت الوقت یا نفل پڑھنے کی ماہ رمضان میں نیت کی تو ایسی نیت کرنا جائز ہے۔

البتہ مطلق نماز یا نفل کی نیت کرنے میں مشائخ کا باہمی اختلاف وہی ہے۔ جو سنت مؤکدہ کی نیت کرنے میں اختلاف رائے ہے۔

بعض متقدمین کا بیان ہے کہ نماز تراویح پڑھنے کے لئے نیت کرنا اس لئے جائز ہے کہ تراویح سنت ہے اور نفل کی نیت یا مطلق نماز کی نیت کرنے سے سنت نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے۔ جس کا ثبوت وہ روایت ہے جو امام اعظمؒ نے امام حسن سے دو رکعات نماز فجر کے بارے میں بیان کی ہے۔ اس سے بھی ثابت ہے کہ تراویح کی نماز بھی فرض نمازوں کے مانند

ایک مخصوص نماز ہے جس میں فرض نماز کی خصوصیات کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ لہذا ان تمام حالات و احکام کی موجودگی میں مطلق نیت ٹھیک نہیں بلکہ نماز تراویح کی نیت کرنا واجب ہے۔

اور اکثر متاخرین کی رائے ہے کہ نماز تراویح اور تمام دیگر سنت نمازیں مطلق نیت نماز کرنے سے ادا ہو جاتی ہیں۔ کیونکہ نماز تراویح نفل ہے اور نماز نفل مطلق نیت نماز سے ادا ہوتی ہے۔

احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ نماز تراویح، سنت موقتی نفل ماہ رمضان اور تمام دیگر سنتوں میں نیت کرنا ضروری سنت ہے نیز وہ نماز جو رسول اکرم ﷺ کی متابعت میں پڑھی جائے اس کی بھی نیت کی جائے تاکہ کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز تراویح میں ہر دو گانہ کی علیحدہ علیحدہ نیت کی جائے۔ یہ قول درست نہیں ہے اس لئے کہ نماز تراویح پوری کی پوری ایک نماز کی مانند ہے جس کی پہلی مرتبہ نیت کرنا واجب ہے۔ اور ہر دو گانہ پڑھنے کی علیحدہ نیت کرنے کی لازم ضرورت نہیں ہے۔

### مقدار قرأت

نماز تراویح میں کس قدر قرآن کریم پڑھا جائے اس میں لوگ باہم مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں نماز تراویح میں اتنا قرآن کریم پڑھا جائے جتنا نماز مغرب پڑھتے ہیں کیونکہ نماز تراویح دیگر فرض نمازوں کی نسبت اخف ہے یعنی فرض نماز سے زیادہ اعلیٰ نہیں ہے۔ میں عبدالحق کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا یہ قول درست و صحیح اس لئے بھی نہیں کہ اتنی کم مقدار میں تلاوت کرنے سے ماہ رمضان میں قرآن کریم ختم نہیں ہو سکتا۔

بعض کہتے ہیں کہ نماز تراویح کی رکعات میں اتنا قرآن پڑھا جائے جتنا کہ نماز عشاء میں پڑھتے ہیں اس لئے کہ تراویح کی نماز وقت کے لحاظ سے نماز عشاء کے تابع ہے۔ حسن بن زیاد نے امام اعظم ابوحنیفہ کی زبانی بیان کیا ہے کہ ہر رکعت میں تقریباً دس

۱۔ نماز تراویح سنت اور عشاء فرض ہے۔ تابع ہو۔ کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ عشاء پڑھنے کے بعد تراویح نہ پڑھی جائے اور وقت کے لحاظ سے ایک نماز کا دوسری کے تابع ہونا معنی نہیں رکھتا تابع و متبوع کے لحاظ سے متبوع کی ادائیگی کوئی ضروری نہیں ہوتی حالانکہ تراویح پڑھنے کا رسول اکرم ﷺ نے خود حکم دیا اور عمل کر کے سبق بھی دیا ہے کہ البتہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وقت کی بچت کے لئے اتنی کم تلاوت کی جائے کہ قرآن کریم ختم ہو سکے۔ اور اس نعت غیر مترقبہ کو نہ کھویا جائے۔ جو رمضان کی راتوں میں شب بیداری سے حاصل ہوتی ہے۔ از مترجم ۱۳

آیات تلاوت کی جائے اس طرح ماہ رمضان میں ایک مرتبہ قرآن کریم ختم ہو جائے گا اس لئے کہ نماز تراویح کی روزانہ بیس کے لحاظ سے ایک ماہ میں چھ سو رکعات ہوتی ہیں اور قرآن کریم کی چھ ہزار آیات ہیں۔ اس حساب سے روزانہ تقریباً دس آیتیں پڑھنا مناسب ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ بیس سے لے کر تیس آیات تلاوت کی جائیں جیسا کہ حضرت عمر فاروقؓ نے تین اماموں کو طلب کر کے فرمایا تم میں سے ایک امام ہر ایک رکعت میں (۳۰) آیات اور دوسرا (۲۵) آیات اور تیسرا (۲۰) آیات تلاوت کرے اور حضرت عمر فاروقؓ کا یہ حکم بر بنیاء فضیلت ہے اور امام اعظم ابوحنیفہ کا حکم بر بنیاء سنت ہے اور جمہور کا مذہب بھی یہی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک قرآن ختم کرنا سنت ہے اور دو مرتبہ قرآن ختم کرنا بہتر ہے اور تین مرتبہ ختم کرنا افضل ہے۔

امام اعظم کا بیان ہے کہ ختم ایک مرتبہ ہی میں ہوتا ہے دو اور تین مرتبہ میں ختم کرنے کا حکم حضرت عمرؓ کا ہے۔

بعض فقہاء و علماء کا مسلک و قول ہے کہ ستائیسویں رمضان کو قرآن ختم کرنا مستحسن ہے تاکہ شب قدر کی برکتیں بھی حاصل ہو جائیں۔ کیونکہ اکثر محدثین نے احادیث بیان کی ہیں کہ ستائیسویں شب ہی شب قدر ہے۔

مشائخ بخارا نے قرآن کریم کے (۵۴۰) رکوع قرار دیئے ہیں اور قرآن کریم میں اس کے نمبر بھی لکھے ہیں تاکہ ستائیسویں شب کو باسانی قرآن ختم کیا جاسکے۔ ہمارے بعض متقدمین مشائخ نے لکھا ہے افضل یہ ہے کہ ہر رکعت میں (۳۰) آیات پڑھی جائیں تاکہ ہر دسویں شب میں ایک قرآن کریم ختم ہو سکے۔ اور ہر دس دن کو متمیز و مخصوص کر لینا آسان کام ہے اور احادیث میں بھی وارد ہے کہ رمضان کے پہلے دہے میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ دوسرے دہے میں مغفرت کی جاتی ہے۔ اور تیسرے دہے میں مسلمانوں کو آتش دوزخ سے چھٹکارا دیا جاتا ہے۔

۱ بالکل درست کہ چھ ہزار آیات قرآنی کو روزانہ بیس آیات کے حساب سے تیس دن میں پورا کیا جاسکتا ہے لیکن ۲۹ کا چاند ہونے پر کچھ آیات باقی رہیں گی اس لئے مناسب ہے کہ بڑی آیات بیس اور چھوٹی آیات بیس سے زیادہ پڑھی جائیں تاکہ بسہولت ۲۷ سے پہلے ہی ایک قرآن کریم پورا ہو سکے۔ یعنی شب قدر کی برکتیں بھی ۲۷ کو حاصل ہو جائیں۔ ۲ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شخص کے بعد دوسرا اور تیسرا حافظ باری باری سے قرآن ختم کریں۔ اور حدیث کے موافق ماہ رمضان میں ایک قرآن کریم تو ختم ہو ہی جائے۔

امام اعظمؒ کا بیان ہے کہ ماہِ رمضان میں وہ (۶۱) قرآنِ کریم ختم کرتے تھے جس کی تفصیل یہ کہ (۳۰) قرآنِ کریم دن میں (۳۰) قرآنِ کریم رات میں اور ایک قرآنِ حمید نمازِ تراویح میں پڑھا کرتے تھے۔

امام شافعیؒ نے مواہب لدنیہ میں بھی یہی لکھا ہے کہ امام ابوحنیفہؒ ماہِ رمضان میں (۶۱) قرآنِ کریم ختم کرتے تھے۔ (جس کی تفصیل لکھی گئی ہے)

فقہاء کرام کا بیان ہے کہ تراویح کی ہر دو رکعات میں تلاوتِ قرآنِ کریم کرنے میں میانہ روی افضل ہے یعنی پہلی رکعت میں زیادہ پڑھا جائے اور دوسری میں پہلی سے کم۔ جیسا کہ حسن بن زیاد نے امام اعظم ابوحنیفہؒ کی زبانی روایت کی ہے۔ اور حضرت عمرؓ سے مروی ہے کہ پہلی رکعت سے دوسری رکعت میں کم تلاوت کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

اور تراویح کی دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے زیادہ تلاوت کرنا غیر مستحب ہے اور اسی پر تمام محدثین و علماء فقہاء کا اتفاق ہے۔ اور دوسری نمازوں میں بھی مستحب یہی ہے کہ پہلی رکعت کی بہ نسبت دوسری رکعت کے اندر کم مقدار میں تلاوت کی جائے اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔

### رکعات میں مقدارِ قرأت

دونوں رکعتوں میں مساوی طور پر قرآنِ کریم پڑھا جائے یا کم و بیش اس پر تمام علماء

متفق نہیں ہیں۔

امام اعظمؒ و امام ابو یوسف کے نزدیک مذہب مختار یہ ہے کہ دونوں رکعات میں مساوی طور پر تلاوت کی جائے۔ امام محمدؒ کے نزدیک مذہب مختار یہ ہے کہ دوسری نمازوں کی مانند تراویح کی رکعات میں بھی دوسری رکعت کی بہ نسبت پہلی رکعت میں زیادہ تلاوت کی جائے۔

### مسئلہ تلاوت غیر مرتبہ

نمازِ تراویح کے اندر دورانِ ختمِ قرآن میں اگر بعد والی سورۃ یا آیتیں پہلے پڑھ لی گئی ہوں تو اب جب کہ ان کے پڑھنے کی نوبت آئی ہے انہیں دوبارہ پڑھا جائے یا نہیں؟ اس کا

۱۔ یعنی رمضان میں ایک قرآن دن کے وقت اور ایک رات کے وقت اور تراویح میں ایک سہارا تلاوت کرتے تھے۔ ۱۲

جواب یہ ہے کہ مستحب یہی ہے کہ جن آیات و سورۃ کو پہلے پڑھ لیا ہے ان کو پڑھنے کی نوبت پر دوبارہ پڑھے تاکہ ترتیب تلاوت باقی رہے بعض کہتے ہیں کہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ترتیب و تلاوت قرآن پورا ہو چکا ہے جس میں کوئی فساد بھی واقع نہیں ہوا تھا اور صحیح قول یہی ہے کہ دوبارہ پڑھے تاکہ نماز صحیح ترتیب قرآن کے ساتھ ہو اور تلاوت قرآن کی ترتیب باقی و برقرار رہے۔

### لقمہ کا حکم

نماز تراویح میں لقمہ دینے کے بارے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ دوسری فرض نمازوں کی مانند ہے اس لئے لقمہ نہ دیا جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ نماز تراویح میں لقمہ دینا اس لئے ضروری ہے تاکہ قرأت قرآن کریم کی ترتیب چھوٹنے نہ پائے اور ترتیب کے ساتھ صحیح تلاوت قرآن کی جائے۔ اور فتویٰ اس پر ہے کہ لقمہ دیا جائے جس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔

### امامت خوش الحان

بعض فقہاء کہتے ہیں کہ نماز تراویح میں لوگوں کو چاہیے کہ خوش گلو کو امام تراویح نہ بنائیں بلکہ ایسے صحیح پڑھنے والے کو آگے بڑھائیں جو صحیح مخارج کے ساتھ تلاوت کرتا ہو اس لئے کہ جو امام خوش آوازی سے پڑھے گا۔ وہ خشوع و خضوع اور آیات الہی میں غور و فکر کرنے سے اکثر بے نیاز ہو جاتا ہے۔

اسی طرح جو شخص راگ والے سے بحیثیت امام تلاوت کرتا ہو تو اسے لازم ہے کہ وہ امامت نہ کرے اور جو امام کہ اعراب و حرکات میں غلطی کرتا ہو وہ بھی امامت سے پرہیز کرے اور لوگوں کو چاہیے کہ ایسے اشخاص کو امام نہ بنائیں۔ (سنن ابوداؤد)

### لازمات امام

جو امام کہ فقیہ و قاری ہو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے قاری کی اقتداء میں قرأت نہ پڑھے بلکہ خود بذاتہ خوش الحانی کے ساتھ تلاوت قرآن کریم کرے امام کو چاہیے کہ رکوع و سجود میں تین تین تسبیحات سے کم نہ پڑھے۔ اور ثناء یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پوری پڑھے اور درود شریف پڑھنے کو بھی ترک نہ کرے کیونکہ یہ سب چیزیں نماز میں پڑھنا مسنون ہیں۔ اگرچہ فقہاء کی بعض کتابوں میں اس کے خلاف بھی

نخر یہ ہے لیکن صحیح یہی ہے جو ہم نے اوپر لکھا ہے۔

### دُعائے ماثورہ

امام کو معلوم کر لینا چاہیے کہ دعائے ماثورہ کے پڑھنے میں اگر مقتدی گراں بار ہوتے ہیں تو دعائے ماثورہ اور مقررہ دعا میں نہ پڑھے۔ ورنہ دعائے ماثورہ پڑھنا ضروری ہے۔

### ترتیب تلاوت

نمازی جب آخری دو رکعات پڑھ رہا ہو اور اس نے پہلی رکعت میں معوذتین پڑھ لی ہو تو دوسری رکعت میں تلاوت قرآن کریم کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک یہ کہ دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ بقرہ کی چند آیات تلاوت کرے گویا منزل پر پہنچنے کے بعد سفر کی دوسری منزل شروع کر دی ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس دوسری رکعت میں سورۃ قل اعوذ برب الناس مکرر پڑھنا چاہیے۔ اور کوئی دوسری سورۃ یا آیات نہ پڑھی جائیں تاکہ قرآن کریم کی سورتوں کی ترتیب برقرار رہے۔

حرمین شریفین اور دیگر بلاد عرب میں طریقہ یہ ہے کہ وضو سے لے کر آخر تک قرآن کریم کی سورتیں نماز تراویح میں پڑھتے ہیں۔ اور تراویح پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ یہی مذہب مختار اور صحیح طریقہ ہے۔ اور اگر صرف اللہ اکبر پڑھا جائے تب بھی درست ہے اگر امام حافظ قرآن نہ ہو تو افضل یہ ہے کہ تراویح کی ہر رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھے۔

بعض کہتے ہیں کہ نماز تراویح پڑھنے میں افضل یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے تاکہ تعداد رکعات میں اسے شبہ نہ رہے اور وہ اپنے دل میں رکعات شمار نہ کرتا رہے۔ اور اس صورت میں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے سے بے نیاز نہ ہو سکے گا۔

بزمانہ موجودہ میں حرمین شریفین اور عرب کے دوسرے شہروں میں یہ معمول ہے کہ نماز تراویح کی پہلی دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ الفیل اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ اور دوسری دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں سورۃ لایلاف اور دوسری میں سورۃ اخلاص۔ اسی طرح آٹھویں دو رکعتوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص۔ اور نویں دو رکعتوں میں سے پہلی رکعت میں قل ہو اللہ اور دوسری



میں قل اعوذ ب الفلق اور دسویں دور کعتوں میں سے پہلی رکعت میں قل هو اللہ اور دوسری میں قل اعوذ ب الناس پڑھتے ہیں۔

### تراویح باجماعت

باجماعت تراویح ترک کر کے اپنے گھر میں تراویح پڑھنے کے بارے میں علماء کا اختلاف باہمی ہے۔ بعض کہتے ہیں جس نے باجماعت تراویح پڑھنا ترک کی، اُس نے سنت نبوی کو ترک کر دیا۔ اور یہ اقدام کیا کیونکہ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تراویح ہمیشہ باجماعت پڑھی ہے۔ اور اسی طرح صحابہ کا عمل رہا ہے۔ اور اسی پر تمام علماء فقہاء کا اتفاق ہے۔

بعض دوسرے کہتے ہیں کہ تارک تراویح باجماعت نے فضیلت ترک کی جس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور یہی دلیل لاتے ہیں کہ جس زمانہ میں رسول اللہ ﷺ نے باجماعت تراویح پڑھنا ملتوی کی تھی اس زمانہ میں صحابہ کو یونہی چھوڑ دیا کہ وہ اپنے گھروں میں جس طرح چاہیں تراویح پڑھیں اور یہی کیفیت حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ابتدائی دور خلافت میں رہی کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں منفرداً تراویح پڑھتے تھے۔ پھر حضرت عمر کے زمانہ میں جب جماعت تراویح ادا کرنے کا انتظام کیا گیا اور سب لوگوں نے اسی پر اتفاق کیا اور درحقیقت باجماعت تراویح پڑھنا ہی افضل ہے۔

شیخ قاسم لکھنوی کا بیان ہے کہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ باجماعت تراویح پڑھنا سنت کفایہ ہے یعنی اگر اہل مسجد نے باجماعت تراویح پڑھنا ترک کر دی تو محلہ والے سب کے سب ترک سنت کی وجہ سے گنہگار ہوئے۔

مسجد میں باجماعت تراویح ہونے کے باوجود کوئی شخص باجماعت تراویح نہ پڑھ کر صرف اپنے گھر میں تراویح پڑھ لے تو یہ تارک فضیلت ہوا۔ اور خطا وار و گنہگار نہیں ہوا۔

### گھر میں جماعت

گھر میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھنے کے بارے میں علماء کا باہمی اختلاف رائے ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جماعت کی بھی فضیلت ہے لیکن مسجد میں جماعت تراویح پڑھنے کی فضیلت و فضیلت زیادہ ہے۔ اور جس نے گھر میں جماعت سے تراویح پڑھی

اس نے ایک فضیلت حاصل کی اور دوسری بڑی فضیلت ترک کر دی۔ اور یہی احکام فرض نمازوں کے ہیں۔

بعض دوسرے کہتے ہیں کہ تراویح سنتوں کی طرح ہیں جو علیحدہ علیحدہ پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ طرز عمل خلوص و اخلاص سے قریب اور فریب و ریاکاری سے بعید ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ مردوں کے لئے فرض نمازوں کے علاوہ دیگر تمام نمازیں گھر میں پڑھنا افضل ہیں۔

میں (شیخ عبدالحق محدث دہلوی) کہتا ہوں کہ حدیث مذکورہ بالا میں فضیلت ان نمازوں کے بارے میں وارد ہے جو باجماعت ادا نہیں کی جاتی ہیں۔ اور تراویح وہ نماز ہے جو باجماعت ہی پڑھی جاتی ہے۔ نیز باجماعت تراویح پڑھنے کے احکام، رسول اللہ سے ثابت ہیں، جیسا کہ پہلے بھی لکھ چکے ہیں۔

امام ابو یوسفؒ کا بیان ہے جو زبردست فقہیہ و حاکم ہو اور لوگ اس کی پیروی کرتے ہوں نیز اس کی وجہ سے لوگ بکثرت جماعت میں شریک ہوتے ہوں تو ایسے شخص کو تراویح جائز نہیں کہ وہ تراویح باجماعت مسجد میں ادا نہ کرے۔ یعنی ایسے شخص کو تراویح باجماعت ترک کرنا نہیں چاہیے۔ البتہ جس شخص میں یہ صفات مذکورہ نہ ہوں اور وہ مسنون قرأت وغیرہ کے ساتھ اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہو تو ایسا شخص اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ بشرطیکہ مجبوریاں لاحق ہوں۔

### امامت بہ اجرت

لوگوں کا کسی شخص کو اجرت دے کر امام بنانا مکروہ ہے اور امامت کے فرائض کرنے کے لئے اجرت لینا بھی مکروہ ہے۔ کیونکہ اجرت مقرر کرنا فاسد ہے اور فاسد علی الفاسد، فاسد ہی ہے۔

### دو (۲) امام

اگر نماز تراویح پڑھانے کے لئے دو امام مقرر کئے جائیں اور ہر ایک امام دو (۲) دو (۲) رکعات پڑھائے تو یہ فعل غیر مستحب ہے۔ مستحب یہ ہے کہ ہر امام چار چار رکعات پڑھائے اور یہی عمل روایت سے ثابت بھی ہے۔ اس طرح یہ مراد بھی جائز ہے کہ ایک امام فرض نماز پڑھائے اور دوسرا تراویح۔

## ایک امام دو مساجد

اگر کوئی امام دو مساجد میں مکمل طور سے تراویح پڑھائے تو اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دونوں مسجد والوں کی نماز جائز طور پر ادا ہوگی۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہے، جیسے کوئی موذن اذان دے کر اقامت کہے اور نماز پڑھے پھر دوسری مسجد میں اذان دے کر وہاں بھی نماز پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔

## بیٹھ کر تراویح پڑھنا

بیٹھ کر نماز تراویح پڑھنے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بیٹھ کر تراویح پڑھنا کسی حال میں بھی مستحب نہیں ہے۔ البتہ بعض جائز اور بعض ناجائز کہتے ہیں۔

اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ تراویح بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ حسن بن زیاد نے امام ابوحنیفہؒ سے بھی روایت کی ہے اور لکھا ہے کہ اس کے برعکس تمام کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ فجر کی دو سنتیں بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ بیٹھ کر تراویح پڑھنا ناجائز کہتے ہیں، وہ یہ دلیل لاتے ہیں کہ تراویح اسی طرح سنت ہے جیسے فجر کی سنتیں۔ اور بیٹھ کر تراویح پڑھنے کو جائز کہنے والے جواب دیتے ہیں کہ یہ نفل ہیں۔ جن کو سنتوں سے خصوصی مشابہت دینا درست نہیں ہے۔ اس لئے دیگر تمام سنتوں اور نفل کی طرح اس کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے۔ اور مکرر ثبوت پیش کرتے ہیں کہ امام اعظمؒ، امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے عذر و بلا عذر میں کوئی فرق نہیں کیا ہے۔ اور یہ روایت ابو سلیمان نے بیان کی ہے۔ واقعہ حقیقی یہ ہے کہ بیٹھ کر تراویح پڑھنا کسی صورت میں بھی مستحب نہیں ہے۔ کیونکہ یہ سلف صالحین کے عمل مسلسل کے خلاف ہے۔

## بیٹھ کر تراویح پڑھنا

عذریا بغیر عذر کے امام کے بیٹھ کر تراویح پڑھانے میں بھی جائز و ناجائز اور استحباب کے اقوال ہیں۔

جائز کہنے والے کہتے ہیں امام اعظمؒ، امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ سب کے نزدیک بیٹھ کر تراویح پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر مقتدی بھی بیٹھ کر پڑھے تب بھی جائز ہوتا۔ لیکن جبکہ مقتدیوں نے کھڑے ہو کر پڑھی تو بدرجہ اولیٰ جائز ہے۔

بعض لوگ بیٹھ کر تراویح پڑھنے کو ناجائز کہتے ہیں اور دلیل لاتے ہیں کہ امام محمدؒ نے بیٹھ کر تراویح پڑھانے کو ناجائز قرار دیا ہے۔ بیٹھ کر تراویح پڑھانا مستحب کہنے والے کہتے ہیں کہ امام ابوحنیفہؒ اور امام ابو یوسفؒ کے نزدیک مستحب ہے اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی بعد از بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھنے کی بہ نسبت کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔

امام محمدؒ کے نزدیک مستحب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے اور جس طرح بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں بالکل اسی طرح نفل بھی بیٹھ کر پڑھنا مستحب نہیں ہے۔

### تراویح میں بیٹھے رہنا

نماز تراویح میں جبکہ امام تراویح پڑھا رہا ہو کسی مقتدی کو جائز نہیں کہ وہ رکوع کے انتظار میں بیٹھا رہے اور جب امام رکوع کرے تو جھٹ اٹھ کر رکوع میں شامل ہو جائے۔ اس طریقہ عمل سے نماز پڑھنے میں سستی کا اظہار ہوتا ہے اور منافقین سے مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح عکاسی کرتے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ نیز جب نیند کا غلبہ ہو تو نیند کی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے بلکہ نماز اس وقت پڑھنا چاہیے جبکہ نیند بالکل غائب ہو جائے اور انسان اچھی طرح بیدار ہو۔ نیند کی حالت میں نماز پڑھنے سے غور و فکر کی قوت فوت ہو جاتی ہے اور سستی و کاہلی کا اظہار ہوتا ہے اور یہی حکم موسم گرما میں کھلی جگہ میں نماز پڑھنے کا ہے کہ موسم گرما میں کھلی جگہ نماز پڑھی جائے بلکہ سایہ میں ادا کی جائے تاکہ آیات تلاوت قرآن کریم میں غور و فکر کی جاسکے اور کسی قسم کا تکرر نہ رہے۔ (خلاصہ) غرض کہ احکام الہی کی پابندی کی جائے۔ جیسا کہ حکم الہی ہے :

”اے محبوب رب العالمین فرمادے: آتش دوزخ کی گرمی بہت زیادہ ہے کاش

لوگ اسے سمجھتے۔“ (آیت قرآن کریم)

### مسائل و تراویح جماعت

تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ وتر ماہ رمضان میں باجماعت پڑھنا افضل ہے اور اس فضیلت کے بارے میں علماء باہم مختلف الخیال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ جماعت افضل ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں تنہا وتر پڑھنا افضل ہے کیونکہ تراویح

۱۔ سستی و کاہلی کا مظاہرہ کرنے سے نماز اپنی پوری حقیقت کے ساتھ مکمل طور پر ادا نہیں ہوتی اور غفلت کرنے والے انعام و اکرام سے محروم رہتے ہیں۔ لوگ اللہ کے دین کو رواجی مذہب بنانے سے گریز کریں۔ ۱۲

باجماعت کی طرح سے صحابہؓ نے باجماعت وتر نہیں پڑھے۔

(تفصیل کے لئے دیکھئے تبیین۔ عنایہ و شرح ہدایہ از ابن ہمام)

ایک روایت یہ ہے کہ تراویح کے بعد باجماعت وتر وہ پڑھے جو تہجد گزار نہ ہوں اور تمام تہجد گزاروں کے لئے لازمی ہے کہ نماز تہجد کے بعد وہ وتر پڑھیں۔

تمام صلحاء علماء و فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ماہ رمضان میں وتر کی تینوں رکعات میں امام با آواز قرأت کرے اور منفرد کو اختیار ہے کہ با آواز پڑھے یا آہستہ دل میں پڑھے۔

### دعائے قنوت

دعائے قنوت با آواز یا آہستہ پڑھنے اور دعائے قنوت ہاتھ باندھ کر پڑھنے یا ہاتھ چھوڑ دینے اور مقتدی کے وتر میں دعائے قنوت پڑھنے یا خاموش رہنے کے مسائل میں علماء کا باہمی اختلاف ہے۔ چنانچہ ایک قول یہ ہے کہ مقتدی وتر میں دعائے قنوت کو بالکفار ملحق کے الفاظ تک پڑھے اور اس کے بعد خاموش رہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مقتدی وتر کو آمین آمین کہنا چاہیے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ مقتدی وتر کو اختیار حاصل ہے خواہ وہ دعائے قنوت پڑھنے والے امام کا اتباع کرتے ہوئے آہستہ آہستہ دعائے قنوت پڑھتا رہے۔ اس لئے کہ دعائے قنوت دراصل ایک دعا ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ دعائے قنوت با آواز پڑھی جائے۔ امام محمدؒ کا قول یہ ہے کہ امام دعائے قنوت پڑھے اور مقتدی نہ پڑھے۔

اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دعائے قنوت با آواز پڑھی جائے اور وتر کی آخری رکعت میں الحمد و سورۃ پڑھنے کے بعد کانوں تک ہاتھ اٹھا کر پھر باندھ لینے اور دعائے قنوت پڑھنے کے احکام صلحاء و علماء کے حق بجانب ہیں۔ بعض کا بیان ہے کہ احتیاطاً جماعت کے ساتھ ایک دوگانہ اور پڑھ لیں اور شک و شبہ دور کر لیں۔

بعض کہتے ہیں کہ مزید دوگانہ پڑھا جائے۔ کیونکہ بر بناشک و شبہ، نماز تراویح کی رکعات میں اضافہ کرنا جائز نہیں ہے۔

اور عمدہ صورت یہ ہے کہ سب لوگ علیحدہ علیحدہ منفرداً احتیاطاً ایک ایک دوگانہ پڑھ لیں تاکہ (۲) رکعات کی تکمیل سنت نبوی ﷺ ہو جائے۔

## جماعت نوافل

دو اماموں کے ایک ترویج یعنی ایک دوگانہ پڑھانے کے مسئلہ کے بارے میں علماء باہم مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دو اماموں کی موجودگی کی صورت میں ایک امام دوگانہ یعنی صرف دو رکعت پڑھائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اور یہ جائز ہے۔ اور بعض اسے ناجائز کہتے ہیں اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ دوگانہ ایک ایک امام کا دو، دو رکعات پڑھانا غیر مستحب ہے۔ نیز علماء حرمین شریفین کا عمل یہی ہے کہ ایک ایک امام ایک ایک ترویج یعنی چار چار رکعات پڑھاتے ہیں اور اس عمل کی صورت میں امام کی تبدیلی سے آرام کی سہولت میسر ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے انتظار میں نماز پڑھانے کے لئے بالکل مستعد و چست رہتا ہے۔

## وقت تراویح

نماز تراویح پڑھنے کے وقت کے بارے میں علماء باہمی مختلف رائے رکھتے ہیں۔ علماء احناف اور شیخ اسمعیل زاہد کا بیان ہے کہ طلوع فجر تک پوری رات نماز تراویح پڑھی جاسکتی ہے۔ عام اس سے کہ لوگوں کے مقرر کردہ وقت عشاء سے پہلے یا بعد تراویح پڑھنے کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ خواہ وتر پڑھنے کے وقت سے پہلے آغاز کیا جائے یا بعد میں۔ کیونکہ دراصل رات کے وقت تراویح پڑھنے کے احکام ہیں۔

عام علماء بخارا کا بیان ہے کہ نماز تراویح کا وقت عشاء اور وتر کے درمیان ہے۔

## چند ترویج چھوٹ جانے پر وتر

اگر چند رکعات نماز تراویح چھوٹ جائیں اور وہ امام کے ساتھ نہ پڑھ سکا ہو اور بعد نماز تراویح امام وتر پڑھنے کھڑا ہو اس صورت میں بعض کہتے ہیں کہ چند رکعات چھوٹ جانے والے شخص کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ نماز وتر پڑھ لے اور اس کے بعد اپنی چھوٹی ہوئی رکعات تراویح پڑھ لے۔ اور بعض دوسرے کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ وتر نہ پڑھے بلکہ اولاً اپنی چھوٹی ہوئی رکعات تراویح کو مکمل کرے۔<sup>۱</sup>

۱ امام محمد بن فضل کافوتی ہے کہ امام کے ساتھ وتروں میں شریک نہ ہو بلکہ اولاً اپنی چھوٹی ہوئی رکعات تراویح مکمل کرے۔ اور صدر الشہید کا بیان ہے کہ امام کے ساتھ وتروں میں شریک ہو جائے۔ اور اس کے بعد چھوٹی ہوئی رکعات تراویح پڑھے۔ (تفصیل کے لئے دیکھئے۔ السراج الوہاج) شیخ امام ظہیر الدین کا مفتی یہ قول یہ ہے کہ اگر کسی کی دو چار رکعات تراویح چھوٹ گئی ہوں اور امام وتر پڑھانے لگے تو اس شخص کو چاہیے کہ امام کے ساتھ وتر پڑھ لے اور باجماعت وتر نہ چھوڑے۔ اس کے بعد چھوٹی ہوئی رکعات تراویح پڑھے۔ اور یہی مسئلہ غلامہ میں بھی تحریر ہے۔ ۱۲

## رکوع قبل قنوت

مقتدی کے دعائے قنوت مکمل کرنے سے پہلے اگر امام رکوع میں جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ امام کی پیروی میں رکوع کرے۔ اس لئے کہ دعائے قنوت پڑھنا فرض نہیں ہے۔  
مسبق اور وتر

مسبق یعنی بعد کو اکثر نماز میں شریک ہونے والا اگر امام کے ساتھ وتر میں دعائے قنوت پڑھ چکا ہو تو بعد ختم جماعت اپنی چھوٹی ہوئی رکعات کو مکمل کرے اور اپنی آخری رکعت میں مکرر دعائے قنوت نہ پڑھے۔

## مقدار رکعات میں شبہ

دوران نماز تراویح میں اگر یہ شبہ ہو کہ نو دو گانہ پڑھے ہیں یا اس تو اس بارے میں بعض علماء کا اختلاف ہے اگر قبل عشاء یا وقت وتر کے بعد تراویح پڑھی تو نماز تراویح بروقت ادا نہ ہوگی۔ اس لئے کہ روایات اسی کے موافق ہیں۔ اور روایات کی پیروی کرتے ہوئے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ وقت عشاء کے بعد سے طلوع فجر تک پوری رات تراویح کا وقت ہے۔ اگر لوگوں کے مقرر کردہ وقت عشاء سے پہلے آغاز کی جائے یا طلوع کے بعد تک پڑھی جاتی رہے تب بھی جائز ہے۔ البتہ نماز عشاء کی سنتوں سے پہلے پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ سنن مؤکدہ کے بعد تراویح پڑھنا مسنون ہے۔ اس لئے کہ تراویح رمضان کے علاوہ عشاء کے بعد دیگر مسنون، دراصل نوافل کے مشابہ ہیں۔ اور وتر پڑھنے کے بعد بھی نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور ثابت شدہ ہے کہ پچھلی رات میں وتر پڑھنا افضل ہے۔ اور ایک تہائی یا نصف شب تک میں تراویح پڑھنا مستحب ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نصف شب کے بعد نماز تراویح شروع کرنا اسی طرح مکروہ ہے جس طرح نماز عشاء میں اتنے زیادہ وقت تک تاخیر کرنا مکروہ ہے۔

صحیح مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح تاخیر سے پڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ کیونکہ یہ رات کی نماز ہے اور آخر وقت تک میں اس کا پڑھنا افضل ہے۔ فتاویٰ قاضی خاں میں مذکور ہے کہ آدھی رات تک تراویح پڑھنے میں تاخیر کرنا مستحب ہے اور اکثر لوگوں کا یہی قول ہے اور یہی صحیح ہے۔ خلاصہ میں مرقوم ہے کہ رات کے زیادہ سے زیادہ حصہ میں آرام و انتظار کے ساتھ نماز تراویح ادا کرنا افضل ہے اور رات کے پچھلے پہر تک نماز تراویح پڑھتے رہنا بغیر کسی کراہت کے بالکل جائز ہے۔ اور یہی درست ہے۔

## تراویح کی قضاء

پوچھا جاتا ہے کہ اگر نماز تراویح فوت ہو جائے تو اس کی قضاء جماعت کے ساتھ کی جائے یا بغیر جماعت کے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی قضاء نماز جماعت سے نہ پڑھی جائے۔ البتہ انفرادی طور پر اس قضاء کو ادا کرنے کے بارے میں علماء باہم مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ دوسرے دن تراویح پڑھنے سے پہلے یہ قضاء تراویح پڑھ لی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد قضاء تراویح پڑھی جائے۔ بعض کہتے ہیں کہ فوت شدہ تراویح بصورت قضاء مطلقاً نہ پڑھی جائے کیونکہ یہ سنت مؤکدہ کی بہ نسبت غیر مؤکدہ ہیں۔ اور مؤکدہ سنتیں جو قضاء ہوتی ہیں وہ بعد میں نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ یعنی ہمارے اصحاب کے نزدیک قضاء ادا نہیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح قضاء تراویح کو کسی دوسرے وقت نہیں پڑھتے۔ یہی اس کی دلیل ہے کہ قضاء تراویح کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے اور یہی مسئلہ سب کے نزدیک اجماعی طور پر صحیح ہے کہ جو نماز تراویح قضاء ہو چکی ہے اسے انفرادی طور پر پڑھنا مستحب ہے۔

شیخ قاسم حنفی نے لکھا ہے کہ جس طرح نماز مغرب کی سنتوں کی قضاء نہیں پڑھتے اسی طرح تراویح کی قضاء کا حال ہے کہ انہیں دوسرے وقت نہیں پڑھا جاتا۔

سنن ہدیٰ میں مراجیہ سے منقول ہے کہ قضاء نماز تراویح کو انفرادی طور پر پڑھنا بہتر و مستحسن ہے۔





## شوال

حج کے مہینوں کے منجملہ شوال مبارک کا مہینہ ہے۔ جسے ماہ فطر بھی کہتے ہیں۔ اور یکم شوال کو عید کا دن گناہوں کی مغفرت کا دن ہے۔

ایک حدیث حضرت انسؓ سے مروی ہے۔ کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار صالح بندوں پر فخر و مباہات کرتے ہوئے فرشتوں سے کہتا ہے: ”اے فرشتو بتاؤ! اس مزدور کو کیا اجرت دی جائے جو اپنا مقررہ کام اچھی طرح انجام دے؟“ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ اس کا صلہ یہ ہے کہ مزدور کو پوری پوری مزدوری دی جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ”اے فرشتو سنو! میرے بندوں نے بشمول مردوزن میرے احکام کی تکمیل کی ہے۔“ اس پر فرشتے با آواز بلند لبیک کہتے ہیں اور بندوں کے اعمال کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ ”مجھے قسم ہے میرے عزت و جلال، جو دو کرم علماء مرتبت و رفعت مقالی کی کہ میں روزہ دار بندوں کی جو عید کے دن دعا کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول کروں گا۔ اور جاؤ کہہ دو کہ اے بندو! میں نے تمہارے گناہ معاف کئے اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔“ راوی انسؓ کا بیان ہے کہ یہ راوی روزہ دار جو عید کے دن دعا کرتے ہیں ان کی دعا قبول ہوتی ہے اور یہ مغفور گناہوں سے پاک ہو کر عید گاہ سے اپنے گھر واپس جاتے ہیں۔ (شعب الایمان از بہیقی) ۱

### عید گاہ جانے سے پہلے مسنون افطار

عید الفطر کے دن عید گاہ جانے سے پہلے کچھ کھا لینا مسنون ہے۔ بخاری میں انسؓ کی زبانی تحریر ہے کہ رسول اللہ نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے طاق عدد کھجوریں نوش فرماتے تھے۔ ۲

۱۔ مندرجہ بالا حدیث کی ابتدائی عبارت یہ ہے۔ (ترجمہ) حضرت انسؓ کا بیان ہے۔ جب قدر میں جبرائیل امین اپنی متعلقہ جماعت فرشتگان میں آتے ہیں اور یہ فرشتے ان لوگوں پر جو کھڑے بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے ہوتے ہیں ان پر درود سلام پڑھتے ہیں اور پھر عید کے دن ان عبادت گزار صلحاء روزہ داروں پر فخر و مباہات کرتے ہوئے اللہ اپنے مقرب فرشتوں سے کہتا ہے: ”اے فرشتو! بتاؤ اس مزدور کو کیا مزدوری دی جائے، جس نے اپنے مقررہ فرائض پوری طرح ادا کئے۔“ (مشکوٰۃ) ۲ جو ہندسہ دو (۲) سے کٹ نہ سکے وہ طاق ہے جیسے ایک تین، پانچ، سات، نو وغیرہ۔ ۱۲

حاکم نے عتبہ بن عبید کی زبانی لکھا ہے کہ نماز عید الفطر پڑھنے سے پہلے رسول اکرم ﷺ تین، پانچ، سات یا کم و بیش کھجوریں تناول فرماتے تھے۔

محدثین نے لکھا ہے۔ کھجوریں کھانے میں یہ حکمت ہے کہ کھجوریں ایسی میٹھی ہوتی ہیں جن سے اس کی قوت بینائی میں اضافہ ہوتا ہے جو روزہ رکھنے سے کمزور ہو جاتی ہیں۔ اسی لئے کھجوریں کھانا مستحب ہے۔

علاوہ ازیں یہ بھی لکھا ہے کہ شیرینی دل کو نرم کرتی ہے اور مزاج ایمانی کے موافق ہے۔ جیسا کہ مروی ہے کہ مسلمان، نہایت ہلکا پھلکا اور آنکھوں کو خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور جس نے خواب میں خود کو حلواہ (کوئی شیریں چیز۔ شیریں میوہ وغیرہ) کھاتے دیکھا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے عنقریب لذت ایمانی میسر ہوگی۔ اسی لئے شہد اور کھجور سے افطار کرنا افضل ہے۔ علاوہ بریں کھجور میں اکثر خصوصیات ہیں اور مدینہ منورہ کی کھجوروں کا کیا کہنا۔ (کھجوروں کی خصوصیات علیحدہ لکھی جاتی ہیں)۔

غرض مسنون طریقہ یہ ہے کہ عید کے دن عید گاہ جانے سے پہلے تین، پانچ، سات کھجوریں کھانا چاہئے۔

### عستہ شوال

ماہ شوال میں چھ روزے رکھنا مسنون ہیں۔ جو حسب ذیل احادیث سے

ثابت ہیں۔

صحیح مسلم میں ہے حضرت ابو ایوب انصاریؓ کی زبانی مذکور ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے شوال کے چھ روزے رکھے۔ گویا اس نے زمانہ بھر روزے رکھے اور یہ اس وقت ہے جبکہ تمام عمر بھر روزہ دار رہا ہو۔ اور جس نے اس ماہ روزے رکھے گویا اس نے ایک سال کے برابر روزے رکھے۔

علاوہ ازیں ابن ماجہ نے حضرت ثوبان کی زبانی بھی اسی مضمون کی حدیث لکھی ہے اور ابن ماجہ نے لکھا ہے کہ رمضان کے بعد شوال کے چھ روزے مستقل نہیں رکھے جاتے بلکہ عید کا دن چھوڑ کر دوسرے شوال سے مسلسل چھ روزے رکھنے کا حکم ہے۔

آمام شافعی کا قول یہ ہے کہ شوال کے چھ روزے مسلسل رکھے جائیں اور ان چھ دنوں کے درمیان کوئی روزہ ترک نہ کیا جائے۔

ہمارے نزدیک اور امام محمدؒ کے نزدیک عام ہے چاہے مسلسل رکھیں خواہ غیر مسلسل۔  
 زامام محمدؒ نے لکھا ہے کہ غیر مسلسل روزے رکھنے میں کوئی کراہت نہیں ہے اور نصاریٰ  
 بیسیوں سے مشابہت بھی نہیں ہوتی۔

### نماز عید سے پہلے غسل

فقہاء نے لکھا ہے کہ عیدین میں نماز سے پہلے غسل کرنا سنت ہے اور اجتماع عامہ  
 کے مد نظر عیدین کے غسل کو جمعہ کے غسل پر قیاس کیا ہے۔

فاکہ بن سعد صحابیؒ کا بیان ہے کہ عید الفطر، عید الفصحی اور عرفہ کے دن رسول اکرم ﷺ  
 غسل فرماتے تھے۔

(سنن ابن ماجہ طبرانی کی معجم۔ بزار کی مسند میں یہ حدیث مرقوم ہے اور شنی کا بھی یہی قول ہے)

شیخ ابن ہمام اور امام نووی وغیرہ نے لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔

شرح کتاب الخرقی میں مذکورہ بالا حدیث کے آخر میں تحریر ہے کہ فاکہ بن سعد اپنے  
 اہل و عیال کو عید الفطر اور عید الفصحی اور عرفہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔ اور یہی روایت  
 عبد اللہ ابن احد اور ابن ماجہ نے لکھی ہے۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ نے اپنی کتاب جمع الجوامع میں شعبی کے حوالہ سے زیاد  
 بن عیاض اشعری کی زبانی لکھا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا رسول اکرم ﷺ کی تمام سنتیں تو  
 تم ادا کرتے ہو لیکن عیدین میں تم غسل نہیں کرتے حالانکہ یہ بھی سنت ہے۔

یہ روایت ابن مندہ اور ابن عساکر نے تحریر کر کے لکھا ہے کہ عیاضؒ کی زبانی یہ

روایت صحیح ہے۔ لیکن ابن عیاض کا قول غیر محفوظ ہے۔

بعض محدثین نے اس حدیث کو بھی ضعیف قرار دیا ہے۔ نیز صحاح ستہ میں مذکور بالا  
 حدیث مرقوم نہیں۔ البتہ حضرت ابن عمرؓ کی یہ کیفیت درج ہے کہ عید الفطر کے دن عید گاہ  
 جانے سے پہلے غسل کرتے تھے۔ اور چونکہ حضرت ابن عمرؓ نہایت سختی سے سنت نبوی ﷺ کی  
 پیروی کرتے تھے۔ اس لئے حدیث غسل صحیح ہے۔

### راستہ میں تکبیرات پڑھنا

امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف اور امام محمدؒ کے نزدیک عید  
 گاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھنا سنت ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہؒ کہتے ہیں کہ بقرہ عید کے دن

با آواز بلند تکبیرات پڑھنا سنت ہے اور عید الفطر کے دن پست آواز سے تکبیرات پڑھنا سنت ہے اور آہستہ تکبیر کہنا بہر حال ایک امر مستحسن ہے۔ نیز ذکر الہی ہر وقت مستحب ہے۔

”خلاصہ“ میں اصل تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر واللہ الحمد میں کمی بیشی الفاظ کی بابت لوگوں کی باہمی اختلاف رائے لکھی گئی ہے۔

امام اعظمؒ کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ عید الفطر میں بھی عید گاہ جاتے وقت با آواز تکبیرات پڑھی جائیں۔ اور یہی ابن ہمام کی شرح میں لکھا ہے۔

دیگر ائمہ اس روایت ابن عمرؓ سے استدلال لاتے ہیں۔ جو دارقطنی نے لکھی ہے کہ رسول اکرم ﷺ عید الفطر کے دن عید گاہ جاتے ہوئے تکبیرات پڑھا کرتے تھے۔

شمس نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث کے مرفوع ہونے میں کلام ہے۔ البتہ ابن عمرؓ کے حوالہ سے حدیث موقوف ہے۔ شیخ ابن ہمام نے اس حدیث کو اس لئے ضعیف لکھا ہے کہ اس میں ایک راوی موسیٰ بن محمد بن عطاء بھی ہے جو خود ضعیف ہے اور ابن عمرؓ کی زبانی دارقطنی نے جو حدیث لکھی ہے اس سے تکبیرات کا با آواز بلند کہنا ثابت ہی نہیں ہوتا۔ نیز کسی صحابی کا قول و قرآن کریم کی آیت ”دون الجهر من القول“ (زور سے نہ پڑھو) کے مغاڑ کیسے ہو سکتا ہے۔

حضرت ابن عباسؓ کا بیان ہے: ”لوگو! تکبیر سن کر میں نے اپنے شتر بان سے کہا کہ امام نے تکبیر کہی؟“ اس نے جواباً کہا جی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا ہم نے غرصہ تک رسول اکرم ﷺ کی صحبت سے فیض حاصل کیا ہے لیکن ہم میں سے کسی صحابی نے بھی امام کی تکبیر کہنے سے پہلے تکبیر نہیں کہی۔

ابو جعفر کا بیان ہے کہ لوگوں کو عید گاہ کے راستہ میں تکبیرات پڑھنے سے منع نہ کیا جائے۔ کیونکہ پہلے ہی سے نیک کاموں کا انجام وہی میں ان میں ذوق و شوق کم ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ چونکہ تکبیرات پڑھنا مستحسن ہیں اس لئے لازمی طور پر مستعدی سے پڑھی جائیں۔

عید گاہ آنے کا راستہ

عید کے دن عید گاہ آمد و رفت کے دور راستے اختیار کرنا سنت ہے۔ بخاری میں جابرؓ کی روایت ہے کہ رسول اکرم ﷺ نبی خاتم عید کے دن عید گاہ ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستہ سے واپسی فرماتے۔

ترمذی داری نے ابو ہریرہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ سرورِ عالم ﷺ عید کے دن ایک راستہ سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستہ سے مراجعت فرما ہوتے۔  
رسول اکرم ﷺ کی روانگی و مراجعت کے دو مختلف راستوں کی آمد و شد میں جو اسرار و رموز اور نکات ہیں اسے ہم (شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ) نے اپنی کتاب شرح سفر السعادت میں تفصیل سے لکھا ہے۔

علماء کا باہمی اختلاف رائے ہے کہ راستہ کی تبدیلی صرف امام کے لئے ہے یا تمام نمازیوں کے لئے ہے۔ اس پر مفتی بہ قول یہی ہے کہ امام اور دیگر نمازی سب کا فرداً فرداً ایک راستہ سے آنا اور دوسرے سے جانا رسول اکرم ﷺ کی متابعت کی دلیل ہے۔

### نوافل قبل و بعد نماز عید

نماز عید سے پہلے اور بعد کے نوافل پڑھنے کے بارے میں معلومات کرا دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی خلجان رفع ہو جائے۔

بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ترمذی نے حضرت ابن عباسؓ کی زبانی لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے عید کی دو رکعتیں پڑھیں اور ان سے پہلے یا بعد کو کوئی نماز نہیں پڑھی۔ (ماختم حدیث)

ترمذی نے عبداللہ ابن عمرؓ اور ابوسعیدؓ سے روایت لکھی ہے کہ سرورِ عالم ﷺ کے اہل و عیال صحابہؓ کا یہی معمول رہا اور اکثر اہل علم تابعینؓ کا بھی یہی عمل رہا کہ نماز عید سے پہلے یا بعد کو کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ حال کے چند لوگوں نے قبل و بعد نماز عید دیگر نفل پڑھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اور صحیح وہی ہے کہ رسول اکرم ﷺ، صحابہؓ، تابعینؓ کوئی بھی نماز عید کے سوائے کوئی دوسری مزید نماز نہیں پڑھتے تھے۔

شرح کتاب الحربی میں مؤلف نے جو امام احمد بن حنبلؓ کے مسلک کے پیرو ہیں تحریر کیا ہے کہ ایک مرتبہ عید کے دن حضرت علیؓ نے عبداللہ ابن مسعودؓ انصاری کو اپنا قائم مقام امام بنا کر عید گاہ روانہ کیا۔ جہاں عبداللہ ابن مسعودؓ نے لوگوں سے کہا امام کے نماز پڑھانے سے پہلے کوئی نماز پڑھنا خلاف سنت ہے۔ (نسائی)

ابن سیرین کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعودؓ اور حذیفہؓ نے عید گاہ میں عید کے دن امام کے نماز پڑھانے سے پہلے لوگوں کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ (اسے سعید نے بھی بیان کیا ہے)

اثرم نے زہری کا قول لکھا ہے کہ میں (زہری) نے اپنے علمائے وقت کسی کی زبانی یہ نہیں سنا کہ کسی شخص نے نماز عید سے پہلے یا بعد کوئی اور نماز پڑھی ہو۔

در اصل اختلاف اس میں ہے کہ یہ ممانعت صرف عید گاہ کے ساتھ مخصوص ہے یا گھر میں بھی پڑھنا ممنوع ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ عید گاہ کے سوائے دوسرے مقامات پر یہ ممانعت عائد نہیں، یعنی عید گاہ کے سوا۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں کچھ پڑھ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

ابوسعید خدریؓ سے مروی ہے کہ نماز عید سے پہلے رسول اکرم ﷺ کوئی نفل نہیں پڑھتے تھے۔ البتہ نماز عید سے واپسی پر در دولت میں دو رکعات پڑھا کرتے تھے۔

(ابن ماجہ و مسند امام احمد)

ہدایہ میں تحریر ہے کہ عید گاہ میں نماز عید سے پہلے کوئی نفل نہ پڑھے جائیں اور یہ کراہت صرف عید گاہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ شرح ہدایہ میں ہے۔ عید گاہ جانے سے پہلے اگر نماز چاشت پڑھی جائے تو مکروہ نہیں ہے۔

بعض علماء کا ایک قول یہ ہے کہ عید گاہ وغیرہ کہیں بھی مکروہ نہیں ہے۔ شرح ہدایہ میں مرقوم ہے کہ امام اور دوسرے نمازیوں، سب کو عید گاہ میں قبل نماز عید نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہیں۔

امام شافعیؒ کا بیان ہے کہ عید گاہ میں قبل از نماز عید صرف امام کو کوئی نفل وغیرہ پڑھنا مکروہ ہے۔ دوسرے نمازیوں کو مکروہ نہیں ہے۔

ایک قول یہ ہے کہ عید گاہ میں قبل از نماز عید کسی نفل نماز پڑھنے کی ممانعت کی وجہ یہ ہے کہ یہ نماز غیر مسنون ہے اور اس لئے مکروہ قرار دی گئی ہے۔

مؤلف فتح الباری نے لکھا ہے کہ نماز عید سے پہلے یا بعد کو نفل پڑھنے میں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نفل یا سنت غیر مؤکدہ ہوں یا اس وقت میں پڑھنے کی ممانعت ہو اور ان تمام صورتوں میں عید گاہ یا عید گاہ و مکان دونوں جگہ کے لئے ممانعت ہو سکتی ہے۔ اور سلف ان تمام ممانعتی صورتوں میں باہم مختلف رائے ہیں۔ علماء کوفہ عید کی نماز کے بعد نفل وغیرہ پڑھنے کے قائل ہیں اور نماز عید سے پہلے نفل پڑھنے کو ممنوع سمجھتے ہیں اور یہی مسلک امام اوزاعی امام ثوری اور حنفیوں کا ہے۔

علماء بصرہ عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنے کو ممنوع نہیں سمجھتے ہیں اور بعد کو ممنوع کہتے کہ یہی مسلک حسن بصری اور دوسری جماعت کا بھی ہے۔  
اہل مدینہ کہتے ہیں کہ نماز عید سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل نہ پڑھے جائیں۔  
اور یہی مسلک امام زہری، ابن جریج اور امام احمد کا ہے۔  
بعض مالکی علماء کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ عید گاہ میں امام کوئی نفل نہ پڑھے۔ جو لوگ عید گاہ میں نفل پڑھنے کو جائز کہتے ہیں وہ استدلال لاتے ہیں کہ یہ وقت نماز ہے اور وقت نماز میں کوئی کراہت نہیں ہے اس لئے عید گاہ میں بھی نفل پڑھے جاسکتے ہیں۔ اور جو لوگ عید گاہ میں نفل پڑھنے کی ممانعت کے قائل ہیں وہ یہ استدلال لاتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے عید گاہ میں نماز عید کے علاوہ کوئی نفل وغیرہ نہیں پڑھے اور جس نے رسول اکرم ﷺ کی پیروی کی وہی ہدایت یافتہ ہیں۔

ماحصل اقوال و روایات اور حاصل کلام یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی نفل پڑھنا رسول اللہ کے عمل و قول سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ عید کی نماز کو جمعہ کی نماز پر قیاس کرتے ہیں وہ مکرر سمجھ لیں کہ جمعہ الگ ہے اور عید الگ۔ اور ان دونوں کے درمیان احکام بھی علیحدہ ہیں۔

البتہ صرف نفل پڑھنے کی ممانعت کسی دلیل سے ثابت نہیں۔ نفل اوقات مکروہ میں پڑھنا مکروہ ہے۔ عید گاہ میں نماز عید سے پہلے نفل بہر حصول تقرب الہی پڑھے جانے کا ہمارے ملک میں بھی رواج ہے۔

### نماز عید کی قضا

نماز عید فوت ہو جانے پر اس کی قضا پڑھنے میں علماء کا باہمی اختلاف ہے۔  
امام اعظم ابوحنیفہؒ کا مسلک یہ ہے کہ نماز عید کی قضا پڑھی جائے اس لئے کہ نماز عید اپنی خصوصیات کے ساتھ مخصوص ہے۔

ہدایہ کی بعض شروح میں مرقوم ہے کہ عید کی نماز فوت ہو جانے پر حسب منشاء دو یا چار رکعات مانند نماز چاشت پڑھی جاسکتی ہیں۔ اور یہ صرف نماز عید کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دوسرے دنوں میں نماز چاشت کی مانند پڑھی جاسکتی ہے۔



محیط اور فتاویٰ قاضی خان میں ہے کہ عید گاہ میں جسے امام کے ساتھ نماز عید نہ ملے اسے اختیار ہے کہ وہ عید گاہ میں خود تنہا نماز پڑھ لے یا اپنے گھر جا کر پڑھے۔

اور افضل یہ ہے کہ عید کی نماز فوت ہو جانے پر نماز چاشت کی مانند چار رکعات پڑھ لی جائیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ سے یہ اسناد مروی ہے۔ کہ جس کو عید کی نماز نہ ملی ہو وہ چار رکعات پڑھ لے۔

فتح الباری میں اس روایت کے آخر میں تحریر ہے کہ چار رکعات پڑھنے کی ترکیب میں ”سبح اسم ربک الاعلیٰ“ دوسری میں ”الشمس وضحہا“ تیسری میں ”واللیل اذا یغشی“ اور چوتھی رکعت میں سورۃ ”والضحیٰ“ پڑھی جائے۔ نیز اسی ضمن میں عبداللہ ابن مسعودؓ سے مروی ہے کہ ان چار رکعات کے بارے میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ”ان رکعات کے پڑھنے والے کو بہت زیادہ عمدہ و بہتر اجر و صلہ دیا جائے گا“۔

اسی طرح حنبلی مذہب کے علماء بھی یہی روایت بیان کر کے ان چار رکعات کے بے پایاں ثواب بیان کرتے ہیں۔

امام احمد بن حنبلؒ کا بیان ہے کہ عبداللہ بن مسعودؓ کی ان چار رکعات کے بے حد و بے شمار ثواب کی روایت کی توفیق حضرت علیؓ کی اس روایت سے ہوتی ہے کہ حضرت علیؓ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے کمزوروں کو چار رکعات بغیر تکبیرات و خطبہ کے پڑھائے۔


بخاری نے لکھا ہے کہ حضرت انسؓ نے اپنے اہل و عیال و اولاد کو بصرہ سے دو فرلانگ دور موضع زاویہ میں جمع کیا اور اطراف و اکناف کے لوگوں کے ساتھ نماز عید ادا کی۔ ان سب لوگوں کا قاعدہ تھا کہ وہ نماز عید کی دو رکعتیں امام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔

کرمانی نے لکھا ہے کہ امام کے ساتھ نماز عید نہ ملنے کی صورت میں امام مالک اور امام شافعی کے قول کے موافق دو رکعتیں پڑھنا چاہیے۔ اور امام احمد بن حنبلؒ کے قول

کے مطابق چار رکعات ادا کی جائیں۔ اور امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مذہب و قول کے موافق نماز عید فوت ہو جانے والے کو اختیار ہے۔ خواہ وہ تنہا پڑھے خواہ نہ پڑھے اور پڑھنے کی صورت میں بھی اختیار ہے کہ دو رکعات پڑھے چاہے چار رکعات۔ باقی اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے۔



بیت



## ذی الحجہ

حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا : ”سال کے دنوں میں سے کوئی زمانہ جس میں بے انتہاء عمل صالح یعنی نیکیاں و بھلائیاں کی گئی ہوں وہ ماہ ذی الحجہ کے عشرہ سے زیادہ اللہ کو محبوب نہیں ہے۔“ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی مساوی درجہ نہیں رکھتا؟ ارشاد فرمایا : ”جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب نہیں۔“ راوی کا بیان ہے کہ تین مرتبہ لوگوں نے یہی سوال کیا اور آپ ﷺ نے تینوں مرتبہ یہی جواب عنایت فرمایا۔ پھر فرمایا : البتہ وہ شخص جو اپنی جان و مال کے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ کے لئے گیا اور وہیں میدانِ جہاد میں اللہ کو پیارا ہو گیا۔“ (بخاری)

ابن عوانہ اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں جابرؓ کی روایت سے لکھا ہے کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا : ”عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کوئی دن افضل نہیں۔“ علماء کہتے ہیں جس نے سال کے افضل دنوں میں روزہ رکھنے کی منت مانی ہو اسے چاہیے کہ عشرہ ذی الحجہ میں روزے رکھنے کی منت پوری کرنے اور جس نے سال کے کسی ایک افضل دن روزہ رکھنے کی منت مانی ہو اسے عرفہ کے دن روزہ رکھ کر اپنی نذر پوری کرنا چاہیے اور جس نے ہفتہ کے کسی دن روزہ رکھنے کی نذر مانی ہو تو وہ جمعہ کے دن روزہ رکھے۔

### فضیلت روزہ و شب کی وجہ

عشرہ ذی الحجہ کے دنوں کی فضیلت اس لئے ہے کہ اس میں عرفہ کا دن واقع ہے۔ اور ماہ رمضان کے عشرہ آخر کی راتیں اس لئے افضل ہیں کہ ان میں شب قدر واقع ہے۔ اور چونکہ ماہ ذی الحجہ میں عرفہ کا دن آتا ہے اسی لئے اس دن کو سب پر فضیلت حاصل ہے۔

### عشرہ ذی الحجہ کے روزے

بقرعید کے شروع کے نو دن میں روزوں کی فضیلت اور ان کے مستحب ہونے کی احادیث درج ہیں۔

ابوداؤد و نسائی میں بعض ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن سے منقول ہے کہ سرورِ عالم ﷺ بقرعید کے (۹) دن دسویں محرم اور ہر ماہ تین دن روزے اکثر و بیشتر رکھا کرتے تھے۔ اور ہر ماہ کے تین دنوں میں سے پہلی پیر اور پہلی جمعرات کے دن روزہ دار رہتے تھے۔

ایک روایت میں ہے کہ سرورِ کائنات ﷺ ذی الحجہ کے عشرہ اور ہر ماہ تین دن روزے رکھتے تھے۔

مسلم، ترمذی اور ابوداؤد نے حضرت عائشہ صدیقہؓ کی زبانی لکھا ہے کہ میں نے عشرہ الحجہ میں رسول اللہ ﷺ کو روزہ دار نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ سے منسوب یہ روایت دیگر احادیث روزہ کے منافی اس لئے نہیں کہ آپ سے رسول اکرم ﷺ کے روزہ دار نہ ہونے کی کیفیت کی روایت ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آپ کو سرورِ عالم ﷺ کے روزہ دار ہونے کی اطلاع نہ ہوئی ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ دیگر موانع مثلاً بیماری و سفر درپیش ہوں۔

نیز اس عشرہ کے عمل صالح کے بارے میں جو فضیلت کے احکام ہیں ان اعمال صالحہ میں روزہ کی فضیلت بھی داخل ہے۔ یعنی اعمال میں سے سب سے زیادہ فضیلت کی چیز روزہ ہے اور رمضان کے روزوں کے علاوہ عشرہ ذی الحجہ کے روزوں کی زیادہ فضیلت ہے۔

### متذکرہ سنتیں

رسول اکرم ﷺ کی بعض سنتیں ایسی ہیں جنہیں عام طور پر لوگوں نے ترک کر دیا۔ ان میں سے چند یہ ہیں۔ جس نے قربانی کرنے کا ارادہ کیا عام ازین کہ وہ قربانی فرض ہو یا نفل۔ ایسے قربانی کرنے والے کو لازم ہے کہ قربانی کرنے تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے۔

صحیح مسلم میں حضرت ام سلمہؓ کی زبانی تحریر ہے کہ رسول الثقلین نبی خاتم النبیین ﷺ نے فرمایا: ”ماہ ذی الحجہ کے عشرہ اول میں اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے لازم ہے کہ قربانی کرتے تک وہ اپنے جسم اور چہرہ کے بالوں کو کاٹنے وغیرہ کے لئے ہاتھ نہ لگائے۔“

ایک دوسری روایت میں ہے کہ ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ کٹوائے۔  
ایک روایت میں ہے کہ جس نے بقر عید کا چاند دیکھ کر قربانی کرنے کا ارادہ کیا  
تو وہ اپنے ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ کٹوائے نہ منڈوائے۔

جامع الاصول میں صحیح مسلم کی یہ روایت عمر بن مسلم میں عمار لیشی کی زبانی نقل کی  
گئی ہے کہ عمر بن مسلم نے کہا، بقر عید سے پہلے ایک دن ہم غسل خانہ عام میں گئے اور وہاں  
ہم نے نورہ (بال صفا پوڈر) لگایا۔ جس پر غسل خانہ والوں نے کہا آپ یہ کیا کر رہے  
ہیں؟ رسول اللہ نے اس زمانہ میں بال لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد میں (عمر بن  
مسلم) نے حضرت سعید بن مسیبؓ کے پاس جا کر یہ واقعہ بیان کیا جنہوں نے کہا۔ اے  
بھتیجے! لوگوں نے یہ حدیث طاق نسیاں بنا دی ہے اور اس پر عمل آوری ترک کر دی ہے۔  
حالانکہ اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہؓ نے رسول اللہ ﷺ کا یہ حکم بیان فرمایا ہے کہ جس نے  
بقر عید کا چاند دیکھا اسے لازم ہے کہ وہ ناخن نہ کٹوائے اور بال نہ لے۔ (تایم حدیث)

### عرفہ کی فضیلت

بقر عید کے مہینہ کے نویں دن کو عرفہ کا دن - کہتے ہیں علماء کا باہمی اختلاف  
رائے ہے کہ عرفہ کا دن افضل ہے یا جمعہ کا دن؟  
ایک روایت یہ ہے کہ سال بھر کے دنوں میں عرفہ کا دن افضل ہے اور ہفتہ کے دنوں  
میں جمعہ کا دن افضل ہے اور یہی صحیح ہے۔ جسے ہم نے تفصیل کے ساتھ سفر السعادت کے باب  
جمعہ میں بیان کیا ہے کہ عرفہ کا وہ دن زیادہ افضل ہے جس دن جمعہ بھی ہو۔

### عرفہ کا روزہ

جمہور کا قول ہے کہ عرفہ کا روزہ سنت ہے اور جو لوگ عرفات کے میدان میں نہ  
ہوں ان کا درجہ اولیٰ روزہ رکھنا چاہیے۔

حضرت اُم الفضل بنت حارثؓ کا بیان ہے کہ میں عرفہ کے دن سرورِ عالم ﷺ  
کے ساتھ تھی۔ لوگوں میں تیز تیز گفتگو ہوئی۔ کسی نے کہا آپ ﷺ روزہ دار ہیں۔ کسی نے  
کہا آج آپ ﷺ کا روزہ نہیں ہے۔ جس پر میں (اُم الفضلؓ) نے آپ ﷺ کے پاس  
میدان عرفات میں دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ جسے آپ ﷺ نے نوش فرمایا۔ اور آپ ﷺ  
اُونٹنی پر سوار تھے۔ (متفق علیہ)

یہی روایت حضرت میمونہؓ سے بھی مروی ہے۔

ترمذی نے ابو ہریرہؓ کے حوالے سے عبد اللہ بن عمرؓ کی زبانی لکھا ہے کہ میں عبد اللہ بن عمرؓ رسول اکرم ﷺ کے ساتھ دورانِ حج میں ہمرکاب تھا اور آپ ﷺ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیقؓ بھی شریک تھے۔ آپ ﷺ اور صدیق اکبرؓ عرفہ کے دن روزہ دار نہ تھے۔ میں اور حضرت عمرؓ نے بھی روزہ نہیں رکھا تھا۔ اور ہم سب عرفات میں تھے۔ رسول اکرم ﷺ نے ہمیں اس (عرفہ) دن روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا اور روزہ رکھنے کی ممانعت بھی نہیں فرمائی تھی۔

اکثر علماء کا یہی مسلک و عمل ہے کہ روزہ رکھ کر میدانِ عرفات میں نہ جائے۔ اور عرفات میں روزہ نہ رکھنا ہی مستحب ہے تاکہ دعا کرنے والے میں عبادتیں کرنے کی قوت باقی رہے۔

بعض علماء نے میدانِ عرفات میں جبکہ نویں ذی الحجہ کو وہاں حاجی قیام کرتے ہیں روزہ رکھا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنے سے ایک سال گذشتہ و آئندہ کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اور مذہبِ حقہ یہی ہے کہ عرفہ کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اور خصوصاً وہ حاجی جن میں عبادت کرنے کی قوت و سکت نہ ہو ان کے لئے مستحب نہیں ہے۔ باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

### قیام عرفات

مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی جانب بارہ کوس کے فاصلہ پر ایک مقام کو عرفات کہتے ہیں۔ جہاں نویں ذی الحجہ کو حاجی ٹھہرتے ہیں۔

### تعرُّف و تعریف

میدانِ عرفات میں جس طرح دعائیں کی جاتی ہیں ویسے ہی دوسرے شہروں میں بعض لوگ لباس وغیرہ پہنتے اور ویسے ہی عمل کرتے ہیں۔

واضح باد علماء احناف نے بیان کیا ہے کہ میدانِ عرفات کے مانند عرفہ کے دن لوگوں کا کسی ایک جگہ جمع ہو کر عمل کرنا اور یہ خود ساختہ عرفہ منانا کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور یہ عمل بالکل بے اصل ہے جس کی کوئی اساسی حقیقت نہیں ہے اس کے برعکس امام ابو یوسف

اور امام محمدؒ نے اصولی روایت کے خلاف یہ لکھا ہے کہ عرفات نما اس قسم کا عرفہ منانا مکروہ نہیں ہے کیونکہ عبداللہ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ انہوں نے بصرہ کے قیام کے زمانہ میں خود اسی طرح عرفہ منایا تھا۔ (اس کی اسناد غیر معلوم ہیں)۔

مؤلف تبیین نے بھی اس قسم کے عرفہ منانے کو غیر مکروہ لکھا ہے۔

جامع صغیر برہانی میں علماء کا یہ قول تحریر ہے کہ ”تعریف“ یعنی عرفہ کے دن لوگوں کا کسی مقام پر اس لئے جمع ہونا کہ میدان عرفہ کی مانند عمل کر سکیں اور میدان عرفات کے اعمال کی مانند مشابہت پیدا کر سکیں یہ تعریف خود ساختہ عرفہ منانا بالکل بے اصل و بے بنیاد کام ہے۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ اس میں عبادت کی جاتی ہے وہ غیر مشروع نہیں ہے کیونکہ جو عبادت کی جاتی ہے یا جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں اور بارگاہ الہی میں جس تضرع و عاجزی سے دعائیں مانگی جاتی ہیں ان میں سے کوئی چیز خلاف شرع نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کوئی چیز سنت یا واجب نہیں ہے اور یہی مضمون و مفہوم نجم الدین بلخی نے اپنی کتاب میں تحریر کیا ہے۔ جامع صغیر میں مرقوم ہے کہ تعریف (یعنی تعرف و خود ساختہ عرفہ منانا) جو لوگ کرتے ہیں یہ بے اصل و بے بنیاد ہے اور اگر اس طرح تعریف تعرف و عرفہ منایا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ شہر کے تمام صالح، عارف اور عالم ایک جگہ جمع ہو کر تکبیر و تہلیل کریں۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن عرفات کی مانند اپنے اپنے شہر میں تکبیر و تہلیل کرنا بے بنیاد کام ہے۔ اور یہ کوئی مسنون کام نہیں ہے۔ البتہ تہلیل و تکبیر پڑھنا اور عبادت الہی کرنا بذاتہ ایک عمدہ مذہبی کام ہے۔ جس سے نیکیاں اور بھلائیاں حاصل ہوئی ہیں اور یہی مضمون و مفہوم ”کافی“ میں بھی مرقوم ہے۔ جس کے آخر میں لکھا ہے کہ یہ کام مستحب ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں عبادت گزاروں کی مشابہت کی جاتی ہے جس کا اجر و بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اور یہی مضمون و مفہوم سنن الہدیٰ میں بھی مرقوم ہے۔ جس کے آخر میں لکھا ہے کہ ذکر الہی تسبیح و تہلیل اور اللہ کی جناب میں دعائیں مانگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اس قسم کا خود ساختہ عرفہ منانا تقریباً ہر زمانہ میں اکثر شہروں میں منایا جاتا ہے، حج کے دنوں میں عرفات کی طرح اپنے اپنے مقام و شہروں میں احرام باندھ کر تلبیہ وغیرہ پڑھنا اور مقررہ آداب و طریق حجاج اختیار کرنا بے اصل و بے بنیاد کام ہیں اور حقیقت امر یہ ہے کہ وقوف میدان عرفات کی عبادت صرف میدان عرفات کے لئے مخصوص ہیں۔

باقی اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔



علاوہ ازیں دیگر عبادات ادعیہ و احکام وغیرہ کتب فقہ اور رسالہ جات عبادات میں مرقوم ہیں۔ جو مطالعہ کئے جاسکتے ہیں۔ چونکہ خود ساختہ عرفہ منانے کے احکام ہمیں تحریر کرنے تھے جو ہم نے یہ توفیق الہی تحریر کر دیئے ہیں۔

آخر میں عرض ہے کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کی ربوبیت کرنے والا ہے اور روز و دو سلام ہو سید المرسلین امام المتقین حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر آپ ﷺ کے آل و اصحاب پر اور آپ ﷺ کے ان متبعین و پیروں کرنے والوں پر جو راہ حق کے رہنما اور علوم اسلامیہ کو زندہ کرنے والے ہیں۔

آمین یا رب العالمین۔

ختم شد

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

# مَا تَبَيَّنَ بِالسُّنَّةِ عَنْ أَعْمَالِ السُّنَّةِ

عَرَبِيٌّ تَصْنِيفٌ :

حَضَرَتْ شَيْخَ عَبْدِ الْحَقِّ مُحَمَّدِ بْنِ دَهْلَوِيِّ

ناشر:

دار الاشاعت

مقائین مولوی مسافر خانہ - کراچی ۱



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي جعل الاوقات المباركة مراسم الخيرات والبركات و  
مفاخر لاهل النسك والعبادات تريح فيها تجاراتهم وتضاعف لهم اجورهم  
ويصلون الى مقاصدهم وما ياملون من ثواب الاعمال واجابة الدعوات . فالخاسر  
من لم يحضر مراسم التجارة . والمفرد اولى بالخسارة والصلوة والسلام  
الاثمان الاكملان على سيد المرسلين وامام المتقين محمد الذي بتعليمه  
واتباعه حصل العلوم والاعمال . وبكرمه وشفاعته ينال الاماني . والامال . في  
المبدأ والمال . استاذ الكل وامام الوجود ومنبع العلم ومعدن الجود . وعلى اله  
واتباعه اجمعين . هداً الطريق الحق ومجيبى علوم الدين .

اما بعد فيقول البعد الفقير الى الله الباري عبد الحق بن سيف الدين  
التهلوى البخارى وفقه الله لسلوك طريق الحق واليقين . فى متابعة سيد  
المرسلين . قد ثبت الخلاف بين المحدثين والمتسكين فيما جاء فى الليالى  
والايام من الاورا دو الصلوة والصيام وقد تكلم المحدثون فيها تمسك به النساك  
وشددوا فى الانكار . وحكموا بطلان ماورد فيها من الاحاديث والاحبار . ولكن  
كناقد تكلمنا فى ذلك فى رسالة فارسية لنا فى الجمع بين الفريقين وسلكنا فيه  
اليمن الطريقين وذكرنا ما فيه من الاجمال والتفصيل والله يقول الحق وهو يهدى  
السبيل ثم جمعنا فى هذه الرسالة ما جاء من الاحاديث الصحاح والحسان  
والضعاف والموضوعات على ما تقرر عند المحدثين الذين بيلهم الامر فى هذه  
المعاملات مع ذكر اكثر فوائده شريفة وتحقيقات لطيفة فيما ابحر اليه الكلام  
خصوصاً فى شهر ربيع الاول فى ذكر وفات سيد الانام عليه الصلاة والسلام مبتدأ  
من شهر المحرم الى ذى الحجة الحرام . والله الموفق ومنه الاكمال والاتمام  
وسمّيته بما ثبت من السنة فى ايام السنة تقبل الله بفضله .



## شهر المُحَرَّم

من جامع الاصول فيما جاء في الصحيح من الاحاديث من احوال وفضله  
 وفضل الصوم فيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت كان يوم عاشوراء يُصام قبل  
 رمضان فيما نزل رمضان قال من شاء صام ومن شاء افطروا في رواية قالت كان رسول الله  
 صلى الله تعالى عليه وسلم امر بصيام يوم عاشوراء الحليث وفي اخرى قالت كانوا  
 يصومون عاشوراء قبل ان يفرض رمضان كان يوماً ستر فيه الكعبة قالت فلما فرض  
 رمضان قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شاء ان يصومه فليصمه ومن شاء  
 ان يتركه فليتركه وفي اخرى قالت يوم عاشوراء يصومه قريش في الجاهلية وكان  
 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وامر بصيامه  
 فلما فرض رمضان ترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه وفي اخرى فلما  
 فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه وفي اخرى ان قريشا كانت تصوم  
 عاشوراء في الجاهلية ثم امر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بصيامه حتى فرض  
 رمضان فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من شاء يصوم فليصمه ومن شاء يفطر  
 فليفطر اخرج البخاري ومسلم واخرج مالك و ابو داود والترمذي الرواية الرابعة  
 وقالوا فيها فكان لو كان هو الفريضة بعد توله فلما فرض رمضان وعن ابن عمر  
 ان اهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء وان رسول الله صلى الله تعالى عليه  
 وسلم صامه والمسلمون قبل ان يفرض رمضان فلما افترض رمضان قال رسول الله  
 صلى الله تعالى عليه وسلم ان عاشوراء يوم من ايام الله تعالى فمن شاء وفي رواية قال ذكر عند  
 النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء فقال ذلك يوم كان يصومه اهل الجاهلية فمن  
 شاء صامه ومن شاء تركه اخرج البخاري ومسلم وللبخاري صام رسول الله صلى الله  
 عليه وسلم عاشوراء وامر بصيامه فلما فرض رمضان تركه وكان عبد الله لا يصومه الا ان  
 يوافق صومه بعلم مثل الثانيه وقال فمن احب منكم ان يصومه فليصمه ومن كره فليدعه  
 واخرج ابو داود نحو الرواية الاولى وعن ابي موسى قال كان يوم عاشوراء يوم يعظمه

اليهود ويتخلونہ عیناً فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه انتم وفي رواية كان  
 اهل خيبر يصومون يوم عاشوراء . ويتخلونہ عیناً ويلبسون نساء هم فيه حلتهم وثيابهم  
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه انتم اخرجہ البخاری ومسلم وعن ابن  
 عباس قال قلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الملية فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال  
 ما هلنا قالوا يوم صالح اتجى الله فيه موسى بن اسرائيل من علوهم فصامه فقال انا احق  
 بموسى منكم فصامه بصيامه وفي رواية فقال لهم ما هلنا اليوم الذى تصومونه قالوا هلنا يوم  
 عظيم اتجى الله فيه موسى وقومه وغرق فيه فرعون فصومه فصامه موسى شكراً فحن  
 نصومه تعظيماً له اخرجہ البخاری ومسلم واخرج ابو داؤد اخر وعنه جابر بن سمرة  
 قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء . ويحثنا عليه ويحاهلنا  
 عنده فلما فرض رمضان لم يامرنا ولم ينهنا عنه ولم يعامله اخرجہ مسلم وعن علقمة  
 ان الاشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال يا ابا عبد الرحمن  
 ان اليوم يوم عاشوراء فقال قد كان يصام قبل ان ينزل رمضان فلما نزل رمضان

ترك فان كنت مفطراً فأطعم اخرجہ البخاری ومسلم وعن سلمة ابن  
 الأكوع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجلاً من اسلم ان اذن في الناس من كان  
 اكل فليصم بقية يومه ومن لم يكن اكل فليصم فان اليوم يوم عاشوراء وفي رواية  
 انه قال لرجل من اسلم اذن في قومك او في الناس بالشك اخرجہ البخاری  
 ومسلم والنسائي وعن عبد الرحمن بن سلمة نحو ما اخرجہ ابو داؤد وعن الربيع  
 بنت معوذ قالت ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء الى قرى  
 الانصار التي حول الملية من كان اصبح صائماً فليتم صومه ومن كان اصبح  
 مفطراً فليتم بقية يومه فكنا بعد ذلك نصومه وتصومه صبياننا الصغار منهم و  
 نذهب الى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن فاذا بكى احلهم على الطعام  
 اعطيناها اياه حتى يكون عند الافطار اخرجہ بخاری ومسلم وفي رواية اخرى مثلاً  
 وعن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء وتؤدى زكاة الفطر فلما نزل  
 رمضان ونزلت الزكاة لم تؤمر به ولم تنه عنه وكنا نفعله اخرجہ النسائي واخرج عن

محمد بن الصفي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أمنكم احد  
 من اليوم فقالوا منا من صام ومنا من لم يصم قال فاتموا بقيه يومكم وابعثوا الى اهل  
 فروض فليتموا بقية يومهم وروى مالك بلغه عن عمر بن الخطاب <sup>رضي</sup> ارسل الى  
 حارث بن هشام ان غدا يوم عاشوراء فصم وامر اهلك ان يصوموا اخرجه في  
 مؤطا وعن عبيد الله بن ابي زيد انه سمع ابن عباس <sup>رضي</sup> سئل عن صيام يوم عاشوراء .  
 قال ما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم يطلب فضله على الايام الا  
 لنا اليوم ولا شهر الا هذا الشهر يعني رمضان وفي حديث عبد الله بن موسى قال  
 ارأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره الا هذا اليوم  
 يوم عاشوراء وهذا الشهر يعني رمضان اخرجه البخاري ومسلم وعن ابن عباس <sup>رضي</sup>  
 قال امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء يوم العاشر اخرجه  
 الترمذي وعن ابن عباس <sup>رضي</sup> قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل  
 لاصومن التاسع يوم عاشوراء وفي رواية قال حين صام رسول الله صلى الله عليه  
 وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يوم يعظمه  
 اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان العام القابل انشاء الله  
 صمت اليوم التاسع فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم  
 وفي رواية حكم بن العارف ج قال انتهيت الى ابن عباس <sup>رضي</sup> وهو متوسلرداء في زمزم  
 فقلت اخبرني عن صوم يوم عاشوراء فقال اذا رأيت هلال المحرم فاغداصبح يوم  
 التاسع صائما قال هكنا كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قال نعم  
 اخرجه مسلم و اخرجه ابو داود والثانية والثالثة وفي رواية ذكرها رزين عن عطاء قال  
 سمعت ابن عباس <sup>رضي</sup> يقول صوموا التاسع والعاشر وخالفوا اليهود وعن حفصة <sup>رضي</sup> قالت  
 اربع لم يكن يدعهن رسول الله <sup>صلى الله عليه وسلم</sup> صيام عاشوراء والعشر وثلاثة ايام من كل شهر  
 وركعتان قبل الفجر اخرجه النسائي . وعن ابي هريرة ان رسول الله <sup>صلى الله عليه وسلم</sup> قال افضل الصيام  
 بعد شهر رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلوة بعد المكوبة صلوة القليل واتي الصيام  
 افضل بعد شهر رمضان قال صيام شهر الله المحرم اخرجه مسلم وابوداود والخرج  
 الترمذي والنسائي الاول وعن علي <sup>رضي</sup> سأل رجل قال اي شهر تأمرني ان اصوم بعد شهر



رمضان فقال له ما سمعت احدا يسأل ان هلك الارجل سمعته يسأل رسول الله ﷺ  
 وانقاعه عنده فقال يا رسول الله اى شهر تعلمنى ان اصوم بعد رمضان قال ان كنت  
 صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله تعالى فيه يوم تاب فيه على قوم  
 ويتوب فيه على قوم اخرين اخرجته الترمذى هذه احاديث جاءت فى الكتب الستة  
 مذكورة فى الجامع الاصول وتبعها باحاديث ذكرت فى جامع الكبير تاليف سيدنا  
 ومولانا شيخ العارف بالله على بن المتقى الذى رتبها ويوبها من جمع الجوامع للسيوطى  
 وفيه احاديث السنة بطريق اخر لاحاجة الى اعادتها بعد ذكرها بطوقها اللهم الا ان  
 يكون بلفظ اخر لم يذكره فى الجامع واحاديث اخر مما علاه ولنذكره وعن على  
 قال قال رسول الله ﷺ ان كنت صائما بعد شهر رمضان فصم المحرم فانه شهر الله  
 تعالى فيه يوم تاب فيه على قوم ويتوب فيه على قوم اخرين وحث الناس على تجليد  
 توبة النصح فى يوم عاشوراء وترجيه بقبول التوبة فمن تاب فيه الى الله عز وجل من  
 ذنوبه تاب عليه كما تاب على من قبلهم ويتوب فيه على اخرين رواه الترمذى وعن  
 ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وضرموا  
 قبله يوما وبعده يوما رواه احمد وعنه قال قال رسول الله ﷺ لئن بقيت امرت  
 بصيام يوم قبله او يوم بعده عنى يوم عاشوراء رواه البيهقى فى شعب الايمان وعن ابى  
 هريرة صوموا يوم عاشوراء وهو يوم كانت الانبياء تصومو فصوموه رواه ابن ابى شبة  
 وعنه قال قال رسول الله ﷺ يوم عاشوراء عيد من قبلكم فصوموه انتم رواه  
 البزار والبيهقى . وعن انس قال قال رسول الله ﷺ اذا كان العاقل صائما يوم  
 التاسع وعنه انه قال قال رسول الله ﷺ ان عشنا خالفناهم وصمنا اليوم التاسع  
 وعن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من صام يوم الزينة ادرك ما فاته من صيام  
 السنة يعنى يوم عاشوراء وروى ابو الشيخ فى الثواب انه قال قال رسول الله ﷺ ان  
 فوجا هبط من السفينة على الجردى يوما عاشوراء فصام نوح وامر من معه بصاحبه  
 شكرا لله وفى يوم عاشوراء تاب الله على ادم وعلى اهل مليته يونس وفيه فلق البحر  
 لبني اسرائيل وفيه ولد ابراهيم وابن مريم عليهم السلام وعن ابن مسعود قال قال  
 رسول الله ﷺ من وسع على عياله يوم عاشوراء لم يزل فى شعة سائر سنة وعن

على سيّد الناس آدم وسيّد العرب محمد ﷺ وسيّد الروم صهيب وسيّد الفرس  
 سلمان وسيّد الحبش بلال وسيّد الجبال طور سيناء وسيّد الشجرة السّدرية وسيّد  
 الأشهر محرم وسيّد الايام الجمعة وسيّد الكلام القرآن البقرة وسيلة البقرة آية  
 الكرسي اما ان فيها خمس كلمات في كل كلمة خمسون <sup>رواه</sup> بركة الديلمى في مسند  
 الفردوس وهو ضعيف قال العبد الضعيف وقيل ورد في حديث آخر من هذا الباب ان  
 افضل الشهر شهر رمضان وهو ما رواه الطبراني عن ابن عباس عنها قال قال رسول الله  
 ﷺ الا أخبركم بان افضل الملائكة جبرئيل وافضل الايام يوم الجمعة افضل الشهور  
 شهر رمضان وافضل الليالي ليلة القدر وافضل النساء مريم بنت عمران اللهم الا ان  
 يفرق بين الافضلية والسيادة فتدبر وباللّٰه التوفيق. قال الشيخ شهاب الدين بن حجر  
 الهيثمي المصري مفتي بلد الله الحرام وشيخ الفقهاء والمحدثين في اوانه بذلك  
 المقام في الصواعق المحرقة اعلم ان ماصيب به الحسين في عاشوراء انما  
 هو الشهادة الثالثة على مزيد خطرتة ورفعة درجته عنلربه والحاقة بلرجات اهل البيت  
 الطاهرين لمن ذكر ذلك اليوم مصابه لا ينبغي ان يشتغل الا بالاسترجاء امثالاً  
 للامر واحرازاً لما رتبّه الله تعالى عليه بقوله اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة  
 واولئك هم المهتلون ولا يشتغل ذلك اليوم الا بملك ونحوه من عظام  
 الطاعات كالصوم واياه ثم اياه ان يشتغل ببدع الرافضة ونحوهم من النذب والسياسة  
 والحزن اذ ليس ذلك من اخلاق المؤمنين والالكان يوم وفات رسول الله ﷺ  
 اولى بملك واخرى اوبيدع الناصبة المعصبة على اهل البيت او الجهال المتقابلين  
 للفاسد بالفاسد البدعة بالبدعة والشر بالشر من الظهار غاية الفرح والسرور واتخاذ  
 عيناً و اظهار الزينة فيه كالخضاب والاكتحال ولبس جليد الثياب وتوسيع النققات  
 وطبخ الاطعمة والحجوب الخارجة عن العادات واعتقادهم ان ذلك من السنة  
 والمعتاد في السنة ترك ذلك كله فانه لم يروى في ذلك شئ يعتمده عليه والاثر  
 يرجع اليه وقد سئل بعض ائمة الحديث والفقهاء عن الكحل والغسل والحناء وطبخ  
 الحجوب ولبس الجليد و اظهار السرور يوم عاشوراء فقال لم يرد فيه حديث صحيح  
 عنه ﷺ ولا احد من اصحابه ولا استحبه احد من ائمة المسلمين لامن الاربعة ولا من

غيرهم ولم يُرو في الكتب المعتمدة في ذلك صحيح ولا ضعيف وما قيل ان من  
اكتحل يوم عاشوراء لم يرمد ذلك العام ومن اغتسل لم يمرض ذلك كذلك  
ومن وسع على عياله فيه وسع الله عليه سائر سنة وامثال ذلك مثل فضل صلوة فيه  
وانه كان فيه توبة ادم عليه السلام واستواء السفينة على الجودي وانجاء ابراهيم عليه  
السلام من النار وفداء النبيح بالكبش ورد يوسف على يعقوب عليهما السلام فكل  
ذلك موضوع الا حديث التوسعة على العيال لكن في سننه من تكلم فيه فمار هؤلاء  
لجهلهم يتخذونه موصفاً واوالتك لرفضهم يتخذونه ما تما وكل هما منخطي  
مخالف للسننة كما ذكر جميعه بعض الحفاظ وقد صرح الحاكم بان الاكتحال يومه  
بدعة مع رواية اخير ان من اكتحل بالاثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه ابدا لكنه  
قال انه منكر من ثم اورد ابن الجوزي في الموضوعات من طريق الحاكم قال  
بعض الحفاظ ومن غير ذلك الطريق ونقل المجد اللغوي عن الحاكم ان سائر  
الاحاديث في فضله غير الصوم وفضل الصلوة والاتفاق والخضاب والادهان و  
الاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك كله موضوع ومفترى وبذلك صرح ابن  
القيم ايضاً فقال حديث الاكتحال والادهان والتطيب يوم عاشوراء من وضع الكذابين  
والكلام فيمن خص يوم عاشوراء بالكتحل وما مر ان التوسعة فيه لها اصل هو  
كذلك فقد اخرج حافظ الاسلام الذين العراقي في اماليه من طريق البيهقي ان  
النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن وسع على عياله واهله يوم عاشوراء وسع الله  
عليه سائر سنة ثم قال عقبه هذا حديث في اسناده لين لكن حسن على رأي ابن  
حبان وله طريق اخر صححه الحافظ ابو الفضل محمد بن ناصرو فيه زيادات  
منكرة و ظاهر كلام البيهقي ان حديث توسعة حسن على رأي غير ابن حبان ايضاً فانه  
رواه من طرق عن جماعة من الصحابة مرفوعاً ثم قال وهذا الاسانيد وان كانت  
ضعيفة لكنها اذا ضم بعضها الى بعض حديث قوية وانكار ابن تيمية ان التوسعة لم  
يرو فيها شيء عنه صلى الله عليه وسلم وهم لما علمت وقول احمد انه لا يصلح لذاته  
فلا ينفي قوله حسناً لغيره و لمحسن لغيره يُحتج به كما بين في علم الحديث  
انتهى . وفي المقاصد الحسنة الشيخ محمد السنخاوي حديث من اكتحل بالاثمد

یوم عاشوراء لم تر مد عينه ابدا رواه الحاكم والبيهقي في الثالث والعشرين في  
الشعب والديلمي من حديث جبير عن ضحاک عن ابن عباس مرفوعا وقال  
الحاكم انه منكر بل موضوع اوردها ابن الجوزي في الموضوعات من هذا الوجه  
ومن حديث ابى هريرة بسند لين فيه احمد بن منصور الشونيزي فكانه ادخل عليه  
انتهى وحديث من وسع على عياله في يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها رواه  
الطبراني والبيهقي في شعب الايمان وفضائل الاوقات وابو الشيخ عن ابن مسعود  
والاولان فقط عن ابى سعيد والثاني فقط في الشعب عن جابرو ابى هريرة وقال  
ابن اسانيدہ كلها ضعيفة ولكن اذا ضم بعضها الى بعض افاد قوة بل قال العراقي في  
اما ليه لحديث ابى هريرة طرق صحح بعضها ابن ناصر الحافظ واورده ابن الجوزي  
من طريق سليمان بن ابى عبد الله عنه و قال سليمان مجهول و سليمان ذكره ابن  
حبان في الثقات والحديث حسن على رأيه قال له طريق اخرى عن جابر على  
شروط مسلم اخرجه ابن عبد البرقي الاستذكار من رواية ابى الزبير عنه وهو وصح  
طرقه ورواه ابن هوو الدارقطني في الافراد بسند جيد عن عمر موقوفا عليه و  
البيهقي في الشعب من جهة محمد بن بن المتشركلت واستدرك عليه شيخنا  
كثيرا لم نذكره ونقد اعتماد ان جوزي في الموضوعات قول العقيلي في خصيم  
بن شد اخ راوى حديث ابن مسعود انه مجهول بقوله بل ذكره ابن حبان في الثقات  
والضعفاء انتهى وفي تنزيه الشريعة في الاحاديث الموضوعات للشيخ الامام الحافظ  
العلامة عالم الملينة النبوية في زمانه الشيخ على بن محمد بن العراقي حديث من صام  
تسعة ايام من اول المحرم بنى الله له قبة في الهواء ميلا لها اربعة ابواب رواه ابونعيم عن  
انس وفيه موسى الطويل وهو افقه وحديث من صام يوم عاشوراء كتب الله له عبادة  
ستين سنة بصيامها وقيامها ومن صام يوم عاشوراء اعطى ثواب الف حاج ومعتمرو من  
صام يوم عاشوراء اعطى ثواب عشرة الاف شهيد ومن صام عاشوراء كتب الله له  
اجر سبع سموات ومن اشبع جائع في يوم عاشوراء فكانما اطعم جميع فقراء امة  
محمد ﷺ واشبع بطونهم. ومن مسح على رأس يتييم يوم عاشوراء رفعت له بكل  
شعرة على راسه. درجة في الجنة وخلق الله السموات يوم عاشوراء والارض كمثلة

وخلق القلم عاشوراء واللوح كمثلہ وخلق جبرئیل يوم عاشوراء والمكة والملئكة يوم  
 عاشوراء وخلق ادم يوم عاشوراء وولد ابراهيم يوم عاشوراء انجاه الله من النار يوم  
 عاشوراء وفتى اسمعيل يوم عاشوراء وغرق فرعون يوم عاشوراء ورفع ادریس يوم  
 عاشوراء وتاب الله على ادم يوم عاشوراء وغفر ذنب داؤد يوم عاشوراء واستوى الرب  
 العرش يوم عاشوراء وتقوم القيامة يوم عاشوراء موضوع ذكره ابن الجوزی عن ابن  
 عباس وفيه حبيب بن حبيب وهو افة وحليث ان الله افترض على بن اسرائيل صوم  
 يوم من السنة وهو يوم عاشوراء هو يوم العاشر من المحرم فصوموا ووسعوا على  
 لهلكم فيه فان من وسع على اهله من ماله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته  
 فصومه فاته اليوم الذي تاب الله فيه على ادم وهو اليوم الذي رفع الله فيه ادریس مكانا  
 عليا وهو اليوم الذي نجى الله فيه ابراهيم من النار وهو اليوم الذي اخرج فيه نوحا من  
 السفينة وهو اليوم الذي اخرج الله يوسف من السجن وهو اليوم الذي رده على  
 يعقوب بصره وهو اليوم الذي كشف الله فيه عن ايوب البلاء وهو اليوم الذي اخرج  
 الله فيه يونس من بطن الحوت وهو اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبنى اسرائيل وهو  
 اليوم الذي غفر الله فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم ذنبه ما تقدم وما تأخروا في هذا اليوم عبر موسى  
 البحر وفي هذا اليوم انزل الله التوبة على قوم يونس فمن صام هذا اليوم كان كفارة  
 اربعين سنة واول يوم خلق الله من الدنيا يوم عاشوراء واول يوم نزل المطر من السماء  
 يوم عاشوراء فمن صام يوم عاشوراء فكانما صام الدهر وهو صوم الانبياء وموسى ومن  
 احب ليلة عاشوراء فكانها عبد الله مثل عبادة اهل السموات السبع ومن صلى اربع  
 ركعات تقرأ في كل ركعة بالحمد لله مرة وخمسين مرة قل هو الله احد غفر الله له  
 ذنوب خمسين عاما ماضية وخمسين عاما مستقبلة وبنى الله له في الملاء الاعلى  
 الف منبر من سقى شربة ماء فيه فكانما لم يعصى الله طرفه عين ومن اشبع اهل بيت  
 مساكين يوم عاشوراء مر على الصراط كالبرق الخاطف ومن تصدق صلقة فيه  
 فكانما لم يرد سائلا قط ومن اغتسل يوم عاشوراء ولم يمرض الامرض الموت ومن  
 اكتحل يوم عاشوراء لم ترمد عيناه الستة كلها ومن امر يده على رأس يتيم فكانما  
 امر يامى ولد ادم كلهم ومن عاد مريضا يوم عاشوراء فكانما عاد مريضى ولد ادم كلهم

ذکره ابن الجوزی فی الموضوعات وقال رجاله ثقات فالظاهر ان بعض المتأخرین وضعه وركبه علیٰ هذا الاسناد انتهى.

ذکر مقتل سیدنا الامام الشہید السعید سبط  
رسول اللہ الامام ابی عبد اللہ الحسین سلام اللہ  
علیٰ نبینا وعلیٰ آباءہ الکرام ط

عن علیؑ قال قال رسول اللہ ﷺ اخبرنی جبرئیل ان حسینا یقتل بشاطئ  
الفرات رواه ابن سعد عن عائشہؓ قالت قال رسول اللہ ﷺ ان ابنی الحسین یقتل  
بعلی بارض الطف وجاءنی بهذه التربة واخبرنی ان فیها مضجعه رواه ابن  
سعد والطبرانی فی الکبیر وعن ام الفضل بنت الحارث قالت قال رسول اللہ ﷺ ان  
امتی ستقتل ابنی هذا یعنی الحسین واتانی من تربة حمراء رواه ابو ذؤود والحاکم فی  
المستدرک. وعن ام سلمة قالت قال رسول اللہ ﷺ اخبرنی جبرئیل ان ابنی یقتل  
بارض الفرات فقلت لجبرئیل انی تربة الارض الّتی یقتل فیها فجاء بها فهذه تربتها  
رواه ابن سعد ان ابنی هذا یعنی الحسین یقتل بارض من ارض العراق یقال لها کربلا  
فمن شهد ذالک منکم فلینصر رواه البغوی وابن السکن والماوردی وابن مندة وابن  
عساكر عن انس بن الحارث بن منیة قال البغوی لا اعلم روى غیره وقال ابن السکن  
لیس یروی الامن هذا الوجه ولا یعرف لانس غیره ان جبرئیل اخبرنی ان ابنی  
الحسین یقتل وهذا تربة تلك الارض رواه خلیل فی الارشاد عن عائشہؓ و ام سلمة  
معاً ان جبرئیل کان معافی الیّت فقال اتجبه فقلت اما فی الدنيا فنعم فقال ان امتک  
ستقتل هنا بارض یقال لها کربلا فتاویل جبرئیل من تربته فارانیه رواه الطبرانی فی  
الکبیر عن ام سلمة ان جبرئیل اخبرنی ان امتی هنا یقتل وانه اشتد غضب اللہ علی من  
یقتله رواه ابن عساكر عن ام سلمة ان جبرئیل ارانى التربة الّتی یقتل علیہ الحسین  
فاشتد غضب اللہ علی من یسفک دمه فیا عائشہ والذی نفسی بیلہ انه لیحزننی فمن  
هنا من امتی یقتل حسینا بعلی رواه ابن سعد عن عائشہؓ ان جبرئیل اتانی  
فاخبرنی ان ابنی یقتله امتی فقلت فارنی تربته حمراء الطبرانی فی الکبیر عن زینب بنت  
جحش اوحی اللہ تعالیٰ الی انی قتلت یحیی بن زکریا سبعین الفوانی قاتل بابن بتک

سبعين الفا وسبعين الفارواه الحاكم في المستدرک عن ابن عباس رضي الله عنه قام عندي  
 جبرئيل من قبل فحدثني الحسين يقتل بشط الفرات وقال هل لك ان اشمك  
 من تربته قلت نعم فمد يده فقبض قبضة من تراب فاعطا بها فلم املك عيني ان  
 افاضت رواه احمد و ابو يعلى وابن سعد والطبراني في الكبير عن علي رضي الله  
 عنه وعن ابي امامة وعن انس و عن عائشة رضي الله عنها وروى ابن عساكر عن ام سلمة وعن ام  
 الفضل بنت الحارث زوجة العباس رضي الله عنه وابن سعد عن عائشة رضي الله عنها ابو يعلى عن زينب ام  
 المؤمنين كاني انظر الى كلب ابقع بلع في دماء اهل بيتي رواه ابن عساكر عن  
 السيد الحسين بن علي يا عائشة رضي الله عنها الا اعجبك لقد دخل علي ملك انفا ما دخل  
 علي قط فقال ان ابني هذا مقتول وقال ان شئت اريتك تربة يقتل فيها فتناول  
 الملك بيده فاراني وتربة حمراء رواه الطبراني في الكبير عن عائشة رضي الله عنها يزيد لا  
 بارك الله في يزيد الطغان اللعان اما انه بغى الى حبيبي و منجلى اتيت ورأيت قتله  
 اما انه يقتل بين ظهراي قوم فلا ينصروه الا عمهم الله بعقاب رواه ابن عساكر عن  
 ابن عمر يقتل الحسين علي رضي الله عنه رأس ستين من مهاجري رواه الطبراني في  
 الكبير والخطيب وابن عساكر عن ام سلمة وفيه سعد بن ظريف متروك وقال ابن  
 حبان يضع الحديث و ورده ابن الجوزي في الموضوعات يقتل حسين حين يعلو  
 القتيرواوه الطبراني في الكبير وفيه سعد بن ظريف بغى الى الحسين واتيت بتربته  
 واخبرت بقاتله رواه الديلمي عن معاذ رضي الله عنه في جامع الاصول من حديث الترمذي  
 عن سلمى امراءة من الانصار قالت دخلت علي ام سلمة وهي تبكي قلت ما  
 يبكيك قالت رأيت الان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام علي رضي الله عنه رأسه و لحيته التراب  
 ويكي قلت مالك يا رسول الله قال شهدت قتل الحسين انفا وفيه من حديث  
 البخاري والترمذي عن انس قال اتى عبيد الله ابن زياد برأس الحسين فجعل في  
 طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا قال انس فقلت والله انه كان اشبههم  
 برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان منحضو بأبالوسمة ورواية قال كنت عند ابن زياد فجئ برأس  
 الحسين فجعل يضرب بقضيب في انفه ويقول ما رأيت مثل هذا حسنا فقلت اما انه كان  
 اشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم اخرج الرواية الاولى البخاري والثانية الترمذي وفيه عن عمارة

بن عمر قال لما جئ برأس عبيد الله بن زياد واصحابه تصدرت في المسجد فانتهيت اليهم وهم يقولون قد جاءت فاذا حية قد جاءت تخلل الرؤس حتى دخلت في منجم عبيد الله بن زياد فمكثت هنيهة ثم خرجت فذهبت حتى تغيت ثم قالوا قد جاءت ففعلت ذلك مرتين او ثلاثا اخرجه الترمذي وفي تاريخ الخلفاء للسيوطي واخرج البيهقي في الدلائل عن ابن عباس قال رأيت رسول الله ﷺ تصف النهار اشعث اخبر بيده قارورة فيها دم فقلت يا ابي انت وامى يا رسول الله ﷺ ما هذا قال دم الحسين واصحابه ام ازل النقطة منذ اليوم احصى ذلك اليوم فوجدوه قتل يومئذ واخرج ابو نعيم في الدلائل عن ام سلمة قال سمعت الجن تبكى على الحسين وتوح عليه واخرج الثعلبي في اماليه عن ابي حبان الكلبي قال اتيت كربلاء فقلت لرجل من الاشراف بها بلغني انكم تسمعون نوح الجن فقال ما تلقى احد الا اخبرك انه سمع ذلك قلت فاخبرني ما سمعت انت قال سمعتهم يقولون شعر:

مسح الرسول جبينه      فله بريق في الخلود

ابو اء من عليا قریش      و جلده خير الجلود

واخرج ابو يعلى بسند ضعيف عن ابي عبيدة قال قال رسول الله ﷺ لا يزال امر امتي قائما بالقسط حتى يكون اول من يثلمه رجل من بني امية يقال له يزيد واخرج الروياني في مسنده عن ابي اللرد اء سمعت قال رسول الله ﷺ يقول اول من يدل سنتي رجل من بني امية يقال له يزيد وقال نوفل بن ابي الفرات كنت عند عمر بن عبد العزيز فذكر رجل يزيد فقال امير المؤمنين يزيد بن معاوية فقال تقول امير المؤمنين وامر به فضرب به عشرين سوطا انتهى.

استطرد ادبذ كرمصا لحة امام المسلمين حسن بن

علي و معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهم

اعلم ان في سنة احدى واربعين خرج معاوية على الامام السيد حسن بن

علي فنزل له الحسن عن الخلافة لسمى هذا العام عام الجماعة

لا اجتماع الامة فيه على خليفة واحدة وفيه ولي معاوية مروان بن الحكم المدينة



وفي سنة ثلاث واربعين فتح الرى وغيرها من بلاد سجستان و كوران من بلاد  
 السوادان و فيها استخلف معاوية زياد بن امية و هي اول قضيه غير فيها حكم النبي ﷺ  
 فى الاسلام ذكر العلي وغيره و فى سنة خمسين دعا معاوية اهل الشام الى البيعة  
 بولاية العهد من بعده لا بنه يزيد فبايعوه و هو اول من عهد بالخلافة لا بنه اول من  
 عهد بها فى صحته ثم انه كتب الى مروان بالمدينه ان ياخذ البيعة له فخطب مروان  
 فقال ان امير المؤمنين راي ان يستخلف عليكم و لله يزيد عن سنة ابي بكر و عمر  
 فقام عبدا لرحمن بن ابي بكر الصديق فقال بل سنة كسرى و قيصرا ان ابا بكر  
 و عمر لم يجعلها فى اولادهما و لا فى عهد من اهل بينهما ثم حج معاوية سنة  
 احدى و خمسين و اخذ البيعة لا بنه فبعث الى ابن عمر فشهد و قال اما بعد يا ابن  
 عمر انك كنت تحدثني انك لا تحب تبيت ليلة سوداء ليس عليك فيها امير و  
 انى احذر كتشق عصا المسلمين او تسعى فى ذات بينهم فحمد ابن عمر الله  
 و اتى عليه ثم قال اما بعد بانك قد كانت قبلك خلفاء لهم ابنا و ليس ابنك خير  
 من ابناهم فلم يروا فى ابناهم ما رأيت فى ابنك ولكنهم اختاروا المسلمين حيث  
 علموا الخيار و انك تحزننى ان تشق عصا المسلمين ولم اكن لا فعل انما انا رجل  
 من المسلمين فاذا اجتمعوا على امرنا فانما انا رجل منهم فقال يرحمك الله  
 فخرج ابن عمر ثم ارسل الى ابن ابي بكر فشهد ثم اخلفى الكلام فقطع عليه كلامه  
 و قال انك والله لو ددت انا و كلناك فى امر ابنك الى الله و الله لا نفعل و الله  
 لترون هذا الامر شورى بين المسلمين و لعرفتها عليك خدعة ثم وثب و مضى و  
 قال معاوية اللهم اكفنيه ما شئت ثم قال على رسلك ايها الرجل لا تشرقن على اهل  
 الشام فانى اخاف ان سيقوتى بنفسك حتى اخيرا العشرة انك قد بايعت ثم  
 اركن بعد ذلك على ما بدالك من امرك ثم ارسل الى ابن الزبير فقال يا ابن  
 الزبير انما انت ثعلب رذاع كلما اخرج من حجر دخل حجرا اخر و اتا دعوت الى  
 هذين الرجلين فنفتحت فى مناخرهما و حملتهما على غير رأيهما فقال ابن الزبير ان  
 كنت قد ملكت الا مارة فاعتزلها و هلم ابنك فلنبايعه ارايت اذا بايعنا ابنك معك  
 لا بيكما نسمع و نطيع لا يجمع لكما البيعة ابدا ثم راح و صعد معاوية المنبر فحمد

اللّٰه واثنى عليه ثم قال انا وجلنا احاديث الناس فان عوار زعموا ان ابن ابي بكر و  
 ابن الزبير لن يبايعوا يزيد وقد سمعوا واطاعوا وبايعوا له فقال اهل الشام واللّٰه لا  
 نرضى حتى يبايعوا له على رؤس الاشهاد الا ضربنا اعناقهم فقال سبحان اللّٰه ما  
 اسرع الناس الى قريش بالشر لا اسمع هنا المقالة من احد منكم بعد اليوم ثم نزل  
 فقال الناس بايع ابن عمرو ابن ابي بكر وابن الزبير وهم يقولون لا واللّٰه فيقول  
 الناس بلى وار تحل معاوية فلحق بالشام قال الحسن البصرى افسد امر الناس اثنان  
 عمرو بن العاص يوم اشار على معاوية برفع المصاحف فحملت وقال ابن الفراء  
 فحكّم الخوارج ولا يزال هذا التحكيم الى يوم القيامة والمغيرة بن شعبة فانه كان  
 عامل معاوية على الكوفة فكتب اليه معاوية اقرأت كتابي فا قبل معزولا فابطأ عنه  
 فلما ورد عليه قال ما ابطأ بك قال امر كنت او طيه واهية قال وما هو قال البيعة  
 ليزيد من بعدك قال او فعلت قال نعم قال ارجع الى عملك فلما خرج قال له  
 اصحابه ما وراءك قال وضعت رجل معاوية في غرزعي لا يزال فيه الى يوم القيامة  
 وقال ابن سيرين وفد عمر بن حزام على معاوية فقال له اذ كر اللّٰه في امته محمد  
 بمن تستخلف عليها فقال نصحت وقلت براى وانه لم يبق الا ابني احق وقال عطية  
 ابن قيس خطب معاوية فقال اللهم ان كنت انما عهدت ليزيد لما رايت من فضله  
 فبلغه ما املت عنه وان كنت انما حملني حب الوالد لولده وانه ليس لما صنعت به  
 اهلا فاقبضه بل ان يبلغ ذلك ولد يزيد الشقى المربد سنة خمس او ست وعشرين  
 وجعله ابوه ولي عهده واكره الناس على ذلك كما تقلم فلما مات معاوية و  
 ذلك في شهر رجب سنة ستين بايعه اهل الشام ثم بعث الى اهل المدينة من  
 يأخذه البيعة فابى الحسين وابن الزبير ان يبايعا وخرجا من ليلتها الى مكة فاما ابن  
 الزبير فلم يبايع ولا دعا الى نفسه واما الامام حسين فكان اهل الكوفة يكتبون اليه  
 يدعون الى الخروج اليهم من معاوية وهو يابى فلما بويع يزيد اقام على ما هو مهمو  
 ما يجمع الاقامة مرة ويزيد المسير اليهم اخرى فاشار اليه ابن الزبير بالخروج  
 وكان ابن عباس يقول له لا تفعل وقال له ابن عمر لا تخرج فان رسول اللّٰه ﷺ  
 خيره اللّٰه بين الدنيا والاخرة فاختر الاخرة وانك بضعة منه ولا تنالها بغى الدنيا

فاعتقته و بكى وودعه فكان ابن عمر ويقول غلبنا حسين بالخروج و لعمرى لقد  
 رأى فى ابيه و اخيه عبرة و كلمة فى ذلك ايضا جا برابن عبد الله ابو سعيد و ابو  
 واقد اليشى وغيرهم فلم يطع احدا و صمم على المسير الى العراق فقال ابن عباس و الله  
 لا ظنك تقتل بين ابناك و بنا تك كما قتل عثمان فلم يقبل منه فيكى ابن عباس  
 وقال اقررت عين ابن الزبير و لما رأى ابن عباس عبد الله بن زبير قال قد اتى ما اجبت  
 هذا الحسين يخرج ويتوكل و الحجاز و تمثل شعر:

مالك من قببره بمعمر

خلى لك الجوف ابيضى و اصغرى

و تقرى ما شئت ان تقوى

صيادك اليوم عليك فابشرى

و بعث اهل العراق الى الحسين الرسل و الكتب يدعون اليهم نخرج من مكة متوجها  
 الى العراق فى عشر ذى الحجة و معه طائفة من اهل بيته رجالا و نساء و صبيانا فكتب  
 يزيد الى و اليه بالعراق عبيد الله بن زياد بقتاله فوجه اليه جيشا اربعة الاف امر عليهم  
 عمرو بن سعلبن ابى وقاص فخذله اهل الكوفة كما هو شانهم مع ابيه من قبله فلما  
 ارهقته السلاح عرض عليهم الاستسلام و الرجوع و المضى الى يزيد فيضع يده فى  
 يده فابوا الا قتله فقتل و جى براسه فى طست حتى وضع بين يلى ابن زياد لعن الله  
 قاتله و ابن زياد معه و يزيد ايضا و كان قتله بكر بلا و فى قتله قصة فيها طول لا يحتمل  
 القلب ذكرها فان الله و انا اليه راجعون. و قتل معه ستة عشر رجلا من اهل بيته و لما قتل  
 الحسين مكث الدنيا سبعة ايام و الشمس على الحيطان كما لملاحف المعصفره  
 و الكواكب يضرب بعضها و كان قتله يوم عاشوراء كسفت الشمس ذلك اليوم  
 و احمرت افاق السماء ستة اشهر بعد قتله ثم لازالت الحمرة ترى فيما بعد ذلك  
 اليوم و لم تكن ترى فيما قبله و قيل انه لم يقلب حجر بيت المقدس يوما الا وجد تحته  
 دم عيظ و صار الدرس الذى فى عسكرهم رمادا و انحر و اناقة فى عسكرهم  
 فكانوا يرون فى لحمها النيران و طبخوها فصارت مثل العلق و تكلم رجل فى الحسين  
 بكلمه فرماه الله بكوكب من السماء فطمس بصره قال الثعلبى روت الروات من  
 غير وجه عن عبد الملك بن عمرو اليشى قال رايت فى هذا القصر و اشار الى

قصر الامارة بالكوفة راس الحسين بن علي بين يدي المختار بن عبيد ثم رأيت رأس المختار بين يدي مصعب بن الزبير ثم رأيت رأس مصعب بن الزبير بين يدي عبد الملك فحدث بهذا الحديث عبد الملك فطير منه وفارق مكانه ولما قتل الحسين وبنوا بيه بعث ابن زياد برؤوسهم الي يزيد فسر بقتلهم اولاً ثم ندم لما مقته المسلمون علي ذلك وابغضه الناس وحق لهم ان يبغضوه وفي سنة ثلاث وستين بلغه ان اهل المدينة خرجوا عليه وخلعوا فارساً جيشاً كثيراً وامرهم بقتالهم ثم المسير الي مكة بقتال ابن الزبير فجاءوه وكانت وقعة الحرة علي باب طيبة وما ادراك ما وقعة الحرة وقعة لا يسمع القلب ذكرها ولا يحمّل السمع استماعها ذكرها الحسن مرة فقال والله ما كان ينجو منهم احداً قتل فيها خلق من الصحابة وغيرهم وتهيت المدينة واقتض فيها الف عنراء فان الله وانا اليه راجعون. قال النبي ﷺ من اخاف المدينة اخاف الله وكانت عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين رواه مسلم كان سبب خلع اهل المدينة له ان يزيد اسرت في المعاصي واخرج الواقدي من طرق ان عبد الله بن حنظلة الغسيل قال والله ما خرجنا علي يزيد حتى خفنا ان نرمى بالحجارة من السماء انه رجل ينكح امهات الاولاد والبنات واخوات ويشرب الخمر ويدع الصلوة قال النبي ولما فعل يزيد اهل المدينة ما فعل مع شرب الخمر واتيانه المنكرات اشتد عليه الناس وخرج عليه غير واحد ولم يبارك الله في عمره وسار جيش الحرة الي مكة لقتال ابن الزبير فمات امير الجيش فاستخلف عليهم اميرا واتوا مكة فحاصروا ابن الزبير وقتلوه ورموه بالمنجنيق وذلك في صفر سنة اربع وستين واحترقت من شرارة عن نيرانهم استار الكعبة وسقفها وقرنا الكبش الذي فدى به اسمعيل كانا في السقف واهلك الله يزيد في نصف ربيع الأول من هذا العام فجاء الخير بوفاته.

بسم الله الرحمن الرحيم



## شهر صفر

اعلم انه قد وقع نفي والنهي عن التطير به في احاديث كثيرة بطرق متعددة  
فلنذكر اولاً الاحاديث الواردة فيه ثم نبين المراد به نقلاً عما قال علماء الاحاديث من  
جامع الاصول عن جابر قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا علوى ولا صفر ولا  
غول اخرجه مسلم وعن ابي هريرة قال ان النبي ﷺ قال لا علوى ولا صفر ولا هامة  
فقال اعرابي يا رسول الله فما بال ابل يكون في الرمل كانها الظبافياتي البعر الا جذب  
فيدخل فيها فيجربها قال فمن اعلى الاول اخرجه البخاري ومسلم وابوداؤد وفي  
رواية البخاري لا علوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولمسلم لا علوى ولا هامة ولا لوء  
ولا صفر وله في اخرى لا غول وعن ابن عطية ان رسول الله ﷺ قال لا علوى  
ولا هامة ولا صفر ولا يحل الممرض على المصحح حيث شاء قالوا يا رسول الله ﷺ  
وما ذلك قال انه اذى اخرجه مالك في المؤطا احاديث الجامع الكبير لا علوى  
ولا طيرة ولا هامة ولا صفر وفر من المجزوم كما تفر من الاسد رواه احمد في مسنده  
والبخاري عن ابي هريرة ولا يعلى شيء شيئاً فمن اجرّب الاول لا علوى ولا صفر  
خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصايبها رواه احمد شيئاً فمن اجرّب الاول  
لا علوى ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ورزقها ومصايبها رواه احمد في  
مسنده والترمذي عن ابن مسعود لا علوى ولا طيرة ولا هامة رواه احمد والبيهقي  
وابوداؤد عن ابي هريرة ورواه احمد ومسلم عن السائب بن يزيد لا صفر ولا هامة  
ولا يعلى سقيم صحيحاً رواه القاضي محمد بن عبد الباقي الانصاري في خبر من  
حليته عن شيوخه عن علي لا صفر ولا هامة ولا علوى ولا يتم شهران ستين يوماً ومن  
خفر ذمة الله لم يرح ریح الجنة رواه الطبراني في المعجم الكبير وابن عساكر عن عبد الرحمن  
بن ابي عميرة المزني ورواه الطبراني عن ابي امامة ايضاً بلفظ لا علوى ولا صفر ولا هامة ولا يتم  
شهران ثلثين يوماً ومن خفر ذمة الله لم يرح رائحة الجنة لا علوى ولا هامة ولا صفر خلق الله  
كل نفس فكتب حياتها وموتها ومصيباتها ورزقها رواه احمد والخطيب عن ابي هريرة

لاعلوى ولاطيرة ولاسلمة ولاصفر فمن اعلى الاول رواه احمد وابن  
 ماجتو الطبراني في الكبير عن ابن عباس لاعلوى ولاهامة ولاصفر يحل الممرض  
 على المصحح وليحل المصحح حيث شاء قيل ولم قال ذلك قال لانه اذى  
 ورواه البيهقي عن ابي هريرة لاعلوى ولاهامة ولاصفر واتقوا المجزوم كمانتقون  
 الاسد لاعلوى ولاهامة ولاغول ولاصفر رواه ابن جرير عن ابي هريرة وعن ثعلبة بن  
 يزيد الجماني قال سمعت عليا يقول قال رسول الله ﷺ لا صفر ولاهامة ولا يعدى  
 سقيم صحيحاً قلت انت سمعت هذا من رسول الله ﷺ قال نعم سمع اذنى وبصر  
 عيني رواه ابن جرير وصححه واذافرغنا عن سوق الاحاديث حان ان نشرع في بيان  
 ما قالوا في المراد بصفر فتقول قال ابن الاثير في النهاية هو في زعم العرب حية في البطن  
 تصيب الانسان اذا جاع وتؤذيه وانها تعدى فابطله الاسلام وفي الكرماني شرح  
 البخاري هو بفتحين حية البطن اعتقلوا انها عدى من الجراب وفي الطيبي شرح  
 المشكوة زعموا انها تعض اذا جاء وما يوجد عند الجوع من الالم فمن عضه وقيل  
 هو الشهر المعروف زعموا ان فيه تكثر اللواهي والفتن ففاه الشارع وفي النهاية وقيل  
 اراد به النسئ وهو تاخير المحرم الى صفر ويجعلون المحرم صفر اهو الشهر الحرم  
 وفي شرح الامام النووي على صحيح مسلم الصفر دواب في البطن وهي رودهيج  
 عند الجوع وربما قتلت ودواب بلال مهمله وباء موحلة عند الجمهور وروى فوات  
 بلال معجمة ومثاة فوقانية وله وجه وفي النهاية ومن الاول صفرة في سبيل الله خير  
 من حمر النعم اي جوعه والصفير ايضا ودقيق في الكبلوشراً سيف الاضلاع  
 فيعفر عنه الانسان جناً وربما قتلت وفي مشارق الانوار للقاضي عياض قوله  
 ولاصفر قيل المراد الشهر المعلوم وتغير اهل الجاهلية حكمة ورسمه في النسئ  
 وتاخيرهم المحرم عليه وتحريمه وهذا قول مالك وغيره وقيل بل معناه الاصفر  
 والمراد به دواب في البطن كالمحيات تصيب الانسان اذا جاع وتعدي فابطل الاسلام  
 العلوى وفي جامع الاصول قال ابو داود وقال بقية سالت عن محمد بن راشد عن  
 قوله لاهامة فقال كان اهل الجاهلية يقولون ليس احليموت فيلن الاخرج من قبره  
 هامة وعن قوله لا صفر فقال كان اهل الجاهلية يقولون ليس احليموت فيلن الاخرج من

قبره هامة وعن قوله لا صفر قتل يستشون بدخول صفر قال النبي ﷺ لا صفر قال وسمعت من  
يقول هو رجوع يا خلفي البطن يزعمون انه يعدى قال ابو داود وقال مالك كان اهل  
الجاهلية يحلون صفر اعماوا يحرمونه عاما فقال رسول الله ﷺ لا صفر وفيه في شرح  
عزيب الطاء قد ذكر في الحديث و تفسير قوله لا صفر والعرب تزعم ان في البطن  
حية تصيب الانسان اذا جاع وتؤذيه وانها تعدى فابطله الاسلام قال العبد الضعيف  
اصحح الله حاله وخفف الله له هكنا جاءت الاقوال مختلفة في بيان المراد بصفر وحا  
حاصلها يؤول الى ثلثة اما الشهر المعروف او الدود في البطن او النسئ المذكور وذكره في  
باب التطير يؤيد الاول وفي باب العدوى الثاني والله واعلم وادبنا المراد بصفر ناسب  
ان نبين المراد من اللفاظ الاخر التي وقعت في الاحاديث العلوى يقال اعلى  
المرض اذا اصابها مثله لمقارنة ومجاورته او مواكلته ومباشرته وقد ابطله الاسلام كذا  
في جامع الاصول الطيرة في شرح جامع الاصول لمصنفه الطيرة ما يتشاوم به من  
الفاعل الردى وغيره اشتقاقا من الطير وكانت العرب تطير العذاب والاحل  
ونحوهما من الطيور ويتشاوم به ويرى ان ذلك مانع من الخير ففي الاسلام ذلك  
وقال لا طيرة وهو مصدر كالتطيرة وهو مصدر كالتطير الزجل تطير او طيره كما قالوا  
تخيرت الشئ تخيرا او خيرة ولم يحيى من المصادر على هذا القياس غيرها والقال  
واصله بالهمزة وقد تخففت وهو مثل ان يكون الرجل مريضاً يسمع اخر يقول  
ياسالم او يكون طالباً فيسمع اخر يقول يا واحد فيقع في ظنه انه يرا من مرضه و  
يجد ضالة وهو محبوب وسيجى تحقيقة قال العدوى اسم من الاعلاء كالقوى من  
الايقاء واحدا اللاء بان يصيبه مثل ما اصاب لصاحب اللاء بان يكون يعير جرب  
مثلاً فيقع مخالطة باق بل اخرى حلران ان يعدى ما به من الجراب بها و يظنون انه  
بنفسه يعدى فابطله الاسلام واعلمه النبي ﷺ بان الاله يمرض وينزل اللاء ولنا  
قال فمن اعلى الاول اى من اين صار فيه الجرب وقال العور پشتى في شرح  
المصابيح العلوى مجاورة العلة والخلق الى الغير وهو يزعم الطلب في سبع الجنام  
والجرب والجلدى والحصية والسنجو والرمد والامراض الوبائية وفي المشارق  
للقاضى عياض العلوى ما كانت يعقله الجاهلية من تعدى داء ذ اللاء الى من يجاوره



وبلا صفة ممن ليس به داء فنفاه الشرع وقوله ﷺ لا علوى يحتمل  
 النهى عن قول ذالك واعتقاده او النهى الحقيقية ذالك كما قال لا يعلى شئ  
 شيئاً و فمّن اعلى الاول وكلاهما مفهوم من الشرع الهام جمع هامة وهو طائر  
 كانت العرب تزعم ان عظام الميتة تصير هامة فتطيروا كانوا يقتلون ان القتل يخرج  
 من هامة اى من رأس هامة ولا يزال يقول اسقونى حتى يقتل قاتله وفي النهاية الهامة  
 هى الرأس واسم طائر وهو المراد فى الحديث و ذالك انهم كانوا يتشامون  
 بها وهو من طير الليل وقيل هى البومة وقيل كانت العرب تزعم ان روح القتل  
 الذى لا يدرك بثاره تصير هامة فتقول اسقونى فاذا دبرك بثاره طارت و  
 قيل كانوا يزعمون ان عظام الميتة وقيل روحه تصير هامة فتطير فيسمونه  
 الصدى فنفاه الاسلام ونهاهم عنه وقال الطيبى الهامة يتشامون بها الناس و  
 كانت العرب تزعم ان عظام الميت اذا بليت و تصير هامة ويخرج من القبر و  
 يتردد وياتى باخبار اهله فابطل ﷺ هذا الاعتقاد وقيل هى البرمة اذا سقطت  
 على دار احدهم رها ناعية له او لبعض اهله وهو بتخفيف الميم على الشهور و  
 قيل يتشديد ها وقال القاضى عياض الهام طائر يالف الموتى والقبور وهو  
 الصدى ايضاً وهو مما يطير بالليل وهو غير اليوم يشبهه وكانت العرب تزعم ان  
 الرجل اذا قتل فلم يدرك بثاره خرج من هامة وهو على رأسه طائر يصبح على  
 قبره اسقونى فانا عطشان حتى يقتل قاتله و اشعارهم فى هذا كثيرة وقال  
 بعضهم يخرج من رأسه دوة فتصلح عن طائر يفعل ذالك فهى النبى ﷺ و  
 يحتمل انه نهى عن هذا واليه ذهب غير واحد واليه يحيى الحربى وابو عبيد و  
 قال مالك فى تفسيره اراه الطيرة التى يقال لها الهامة قال القاضى وقد  
 يحتمل انه اراد التطير بها فان العرب ايضاً كانت يطير بالطار السمى بالهام و  
 منهم من كان يتيمن به والى هذا ذهب شمر بن حملوية و حكاة عن ابن  
 الاعرابى قال ابو عبيد وقال مالك فى تفسيره اراه الطيرة التى يقال لها الهامة قال  
 القاضى وقد يحتمل انه اراد التطير بها فان العرب ايضاً كانت يطير بالطار بالهام و  
 منهم من كان يتيمن به والى هذا ذهب شمر بن حملوية و حكاة عن ابى الاعرابى

قال ابو عبيد و قال ما لك في تفسير اراه الطيرة التي يقال لها الهامة قال القاضي و  
قد يحتمل انه اراد التطير بها فان العرب ايضا كانت ينظير با لطائر بالهام و منهم من  
كان يتيمن به والى ههنا ذهب شمر بن حملوية و حكاه عن ابن الاعرابي قال ابو  
عبيد كانت العرب تزعم ان عظام الموتى تصير و يسمون الطائر الذي يخرج من  
هامة للميتة اذا بلى و هو الصلدى الغول في شرح الجامع الاصول هو الحيوان الذي  
كانت العرب تزعم انه تعرض لها في بعض الاوقات و الطرق فيغتال الناس و انه  
ضرب من الشيطين و ليس قوله ولا غول نفا لعين الغول و وجوده و انما فيه ابطال  
زعم العرب في اغتيا له و تلونه في الصور المختلفة يقول لا تصدقوا بذلك و في  
النهاية الغول واحد الغيلان و هو جنس من الشيطان و الجن كانوا يزعمون ان الغول  
في الغلاة ترآى الناس فتقول تغولا ان يتلون في صور شتى و يغولهم اى يضلهم عن  
الطرق و يهلكم ففاهه عليه السلام و ابطله و قيل لا غول ليس نفا لعين بل الابطال زعم العرب  
في تلونه في الصور . المختلفة و اغتيا له اى انها لا تضل احبنا و يشهد له حديث لا  
غول ولكن السعالي و هي سحرة الجن اى ولكن في الجن السحرة لهم تخيل و  
تليس و منه حديث اذا تصولت الغيلان فبادروا بالاذان اى اذفوا شرها بذكر الله  
تعالى فانهم يتفرقون و هو يدل على انه لم يرو بنفها اعلا مها و قال البغوي بل اخبر  
انها لا نقد على شى عن الاضلال و الا هلاك الا باذن الله تعالى و يقال ان الغيلان  
سحرة الجن تفتن الناس بالا ضلال و في المفاتيح شرح المصابيح هو بالفتح مصدر  
غاله اهلكه و بالضم اسم كانوا يزعمون انها ترات الناس ففاهه الشرع و يحتمل انه دفع  
ببعثه عليه السلام كما دفع الاستراق قال الطيبي و اما حديث اعر ذبك ان اغتال فهو من الغول  
و هو هلاك الشى من حديث لا يحس قلت و يؤيده ماورد فيه رواية و اعر ذبك  
من ان اغتال من تحى اى اذهب من حديث لا اشعرير يد به الخسف على ما في النهاية  
و قال القاضي عياض في المشارق قوله ولا غول بضم الغين جاء في الحديث  
تفسيرها بالغول التي تغول بفتح التاء و الغين يريد تلون في صدر مثل الغيلان سحرة  
الجن و كانت العرب تقول ان الغيلان ترائى الناس فتقول تغولا اى تلون لهم و تضدم  
عن الطريق و تهلكهم فابطل النبي عليه السلام هذا الشأن .

النوء في شرح جامع الاصول النوء واحد الانواء وهي ثمانية وعشرون  
نجماً هي منازل تسقط في العرب ثلاثة عشر ليلة منها منزلة مع طلوع الفجر فتطلع  
اخرى مقابلها فتقضى هذه الثمانية والعشرون مع انقضاء السنة وكانت العرب  
تزعّم ان سقوط المنزل تو طلوع . تطيرها يكون مطراً فينسبون المطر الى المنزلة  
ويقولون مطرنا بنوء كذا وانما يسمى نوءاً لانه اذا سقط الساقط منها بالمغرب  
فاتي الطابع بالمشرق بنوء نوء اي نهض وطلع وقيل ان النوء هو الغروب وهو من  
الاضداد قال ابو عبيد ولم يسمع في النوء انه السقوط الا في هذا الموضع وانما  
غلظ النبي ﷺ في امر الانواء لان العرب كانت تنسب المطر اليها فاما من جعل  
المطر من فعل الله عز وجل واراد بقوله مطرنا بنوء كذا اي في وقت كذا وهو هذا  
النوع الفلاني فان ذلك جائز وقد قيل ان عمر بن الخطاب اراد ان يستسقى  
فنادى بالعباس بن عبيد لمطلب كم بقي من نوع الثريا فقال ان العلماء بها يزعمون  
انها تعرض في الافق سبعا بعد وقوعها فمامضت تلك السنة حتى غيث للناس  
واراد عمر كم بقي من الوقت الذي قد جبت العادة انه اذا اتم اتى الله بالمطر وفي  
النهاية في حديث امر الجاهلية الانواء هي ثمان وعشرون منزلة وينزل القمر كل  
ليلة في منزلة منها ومنه (والقمر قلنا منازل) وباقي كلامه مثل كلام شرح جامع  
الاصول المنقول من ابي عبيد وقال الكرماني في شرح صحيح البخاري النوء  
بفتح نون وسكون واو فهمزة زعموا ان المطر لا جل ان الكوكب ناء اي عز  
او طلع ومن زعمه او قاتا لا محذور فيه فليس من الوقت الا وهو معروف بنوع من  
مراقب العباد ثم حكى قصة لا تستسقاء زمن عمر علي ما حكاها في جامع الاصول و  
قال القاضي ابن اعرابي من انتظره منها على انها فاعلة من دون الله او يجعل الله  
ديكاً فيها فهو كافر لان الخلق من الله وحده ومن انتظره منها على اجراء العادة فلا  
شيء عليه وقال النوادي لكنه يكره لانه شعار وكفر وموهم له قال الطيبي يكره  
كراهة تنزيهية وقال القاضي عياض وكذا من امر الجاهلية ذكر الانواء ومن قال  
مطرنا بنوء كذا النوء عند العرب سقوط نجم من نجوم المنازل الثمانية والعشرين  
وهو مغية بالمغرب مع طلوع فجر وطلع مقابله حينئذ من المشرق وعندهم انه

لا بلدان يكون مع ذلك لاكثرها نوع من مطر اورياح عاصفة وشبهها فمنهم من يجعله لذلك الساقط منهم من يجعله للطالع لانه هو الذي ناء اى نهض فينسبون المطر اليه فهى النبي ﷺ عن اعتقاد ذلك وقوله وكفر فاعله لكن العلماء اختلفوا فى ذلك واكثرهم على ان النهى والتكفير لمن اعتقد ان النجم فاعل ذلك دون من اسنله الى العادة ومنهم من كره على الجملة كيف كان لعموم النهى ومنهم من اعتقله فى كفرهم كفر النعمة وقد فصلنا الكلام فى غير هذا الكتاب ولما اشتها امر الطيرة والعلوى واشتد بائس الناس بهما عملا واعتقادا وكثروا قوع الاحاديث فيهما اردنا ان نفردهما بالذكر فى بابين .

### الباب الاول فى الطيرة

فى الطبيى الطيرة بكسر الطاء وفتح الواو قد تسكن هى التشاؤم بالشئ وهو مصدر تطير طيرة كتحير حيرة ولم يجي من المصدر هكذا غيرها واصله فيما يقال التطير بالسوانج والبارح من الطير والظباء وغيرهما وكان ذلك يصد هم عن مقاصد هم ففاه الشرع وابطله ونهى عنى واخبرانه ليس له تاثير فى جلب نفع ودفع ضرر والقال مهموز فيما يسرو يسوء والطيرة لا تستعمل الا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسرو يسوء والطيرة لا تستعمل الا فيما يسوء وربما استعملت فيما يسر قلت كان ما ذكره اصل اللغة والافاستعمال الشرع على ان القال اختص بما يسر والطيره بما يسوء نعم قد يستعمل القال مقيدا فيما يسوء كما يقال القال والسى والقال المكروه وقد قال الطبيى والفرق بين القال والطيرة يفهم مما روى انس عن رسول الله ﷺ انه قال لا علوى ولا طيرة ويعجبنى القال قالوا او ما القال قال كلمة طيبة وفى الكرمانى شرح البخارى اصله انهم كانوا يفرون الظباء والطيور فاذا اخذت ذات اليمين يتبركو او ان اخذت ذات الشمال يتشاوروا قال النوى فى شرح مسلم وهو شرك ان اعتقده وضابطه ان مالم يقع ضرره ولا اطردبه عادة خاصة ولا عامة فهو المنكر وهو الطيرة وما يقع عنده ضرر عموما لا يخصه و نادر الا متكررا كالوباء فلا يقلم على ولو يخرج منه وما يخصه ولا يعم كالدار

والفرس والمرأة فيباح الفرار منه وفي النهاية الفال الهمزة فيما يسر ويسوء  
والطير فيما يسوء الا نادراً وقد ولع الناس تبرك همزة تخفيفاً وانما احب رسول  
الله ﷺ الفال الناس اذا املوا فائلة من الله ورجعوا عوائله عند كل سبب ضعيف او  
قوى فهم على خيرو لو غلطوا وقوى فهم على جهة الرجاء لهم من الله كان ذلك  
من الشر واما الطيرة فان فيها سوء الظن بالله وتوقع البلاء وذلك مذموم بين العقلاء  
ومنهي عنه من جهة الشرع والتفاهل ان يسمع المريض او طالب الضالة يا سالم  
او يا واجد فيظن براءه ووجدان مطلوبه قلت وهذا معنى ماورد في الحديث كلمة  
طيطو في النهاية وقد جاءت الطيرة بمعنى الجنس والفال بمعنى النوع ومنه اصلق  
الطيرة الفال قلت يحتمل ان يكون هنا من قبيل المشاورة فان الطيرة لا شك انه  
في اللغة بمعنى التشائم واما عموم الفال فمسلم قال في القاموس . الطيرة ما يتشاور به  
من الفال الردى واذا عرفت معنى التطير والتفاهل فسوق الاحاديث الواردة في  
هذا الباب فاعلم انه قد اجتمع في بعض الاحاديث ذكر العلوى الطيرة كما ذكرناه  
منهما في احدهما لم نذكره في الاخر وكذا لك حال ما نقلناه من الاحاديث في  
اصفر اللهم الغرض وباعث ينشأ في ثناء البيان .

### احاديث جامع الاصول

عن بريدة قال ان رسول الله ﷺ كان لا يتطير من شئ وكان اذا بعث  
عاملاً سأل عن اسمه فاذا اعجبه فرح به وراى بشر ذلك في وجهه وان كره راى  
كراهة ذلك في وجهه واذا دخل قرية سأل عن اسمها فاذا اعجبه فرح بها وراى كراهة  
ذلك في وجهه اخرجه ابو داود . وعن انس ان رسول الله ﷺ كان يعجبه اذا  
اخرج لحاجة ان يسمع يا راشد يا نجيع اخرجه الترمذي وعن عروة بن عامر القرشي  
قال ذكرت الطيرة عند رسول الله ﷺ قال احسنها الفال ولا ترد مسلماً فاذا راى  
احدكم ما يكره فليقل اللهم لا ياتى بالحسنات الا انت ولا يلدغ بالسيات الا انت  
ولا حول ولا قوة الا بك اخرجه ابو داود . وعن ابن مسعود ان رسول  
الله ﷺ قال الطيرة شرك الطيرة شرك وما من الا لكن الله يذهب بالتوكل  
اخرجه ابو داود . وفي رواية الترمذي قال قال رسول الله ﷺ الطيرة من الشرك

وما منا ولكن الله يذبه بشو كل قال الترمذي سمعت محمد بن اسمعيل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذا الحليث وما منا لكن الله يذبه بالتو كل هنا عندي قول عبد الله بن مسعود وعن انس ان رسول الله ﷺ قال لا عدوى ولا طيرة و يعجبنى الفال الصالح الكلمة الحسنة ولمسلم مثله وقال الكلمة الطيبة وفي رواية اى داود مثل البخارى واخرج الترمذي قال قال رسول الله ﷺ لا عدوى ولا طيرة وانما الشوم في ثلث في الفرس والمرأة والدار وفي رواية قال ذكر الشوم عند النبي ﷺ فقال ان كان الشوم في الدار والمرأة والفرس اخرج به البخارى والمسلم والفرس والمسكن واخرج في المؤطا و ابو داود و الترمذي والنسائي الرواية الاولى ولم يذكر والعدوى والطيرة وعن سهل بن سعد ان رسول الله ﷺ قال ان كان في شئ في الفرس والمرأة والمسكن يعنى الشوم اخرج به البخارى ومسلم وفي المؤطا مثله وقال في حديثه في الربع والخادم والفرس واخرجه مسلم والنسائي ومن حكيم بن معاوية قال سمعت النبي ﷺ يقول لا شوم وقد يكون اليمن في الدار والمرأة والفرس اخرج به الترمذي . وعن ابي هريرة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول الطيرة وخيرها الفال قيل يا رسول الله وما الفال قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم اخرج به البخارى ومسلم وعن سعد بن مالك عن ابيه قال سمعت رسول الله ﷺ يقول العافية والطيرة والطرق من الجبت اخرج به ابو داود قال الطرق الزجر والعيافة الخط وقال في شرحه العيافة زجر الطيرو والتناول بها كما كانت العرب تفعله عاف الطير بعينه اذا زجره والطرق الضرب بالحصى وقيل هو الخط في الرمل كما يعتمله المنجم لاستخراج الضمير ونحوه والجبت كل ما يعبد من دون الله قيل هو الكاهن والشيطان . وقال الطيبى العيافة زجر الطير والتناول باسماتها واصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا في اسفارهم يقال عاف يعيف اذا زجر وحس وظن الطريق هو الضرب بالحصى الذى يفعله النساء وقيل هو الخط لزوال الجبت هو السحر والكهانة وقيل هو كل ما عُبِد من دون الله وقيل هو الساحر وقوله من الجبت معناه من العمل الجبت وقالو اليست بعربية وعن سعيد بن جبزي جشية وقال قطوب الجبت وهو الذى لا خير عنده وعن انس قال قال رجل

يا رسول الله انا كنا في دارٍ كثر فيها عدونا وكثر فيها اموالنا فتحونا الى دار اخرى  
 فقبل فيها عددنا وقل فيها اموالنا فقال رسول الله ﷺ ذروها ذميمة اخرج ابو  
 داؤد وعن يحيى بن سعيد قال جاءت امرأة الى رسول الله ﷺ فقالت دار سكنها  
 العلون كثير والمال وافر فتحونا الى دار اخرى فقل العدو ذهب المال فقال دعوها  
 ذميمة اخرج في المؤطا احاديث الجامع الكبير الطيرة تجرى بقدر رواه  
 الحاكم في المستدرک عن عائشة الطيرة شرك رواه الترمذى واحمد  
 والبخارى في الادب المفرد وابن ماجه والحاكم في المستدرک عن ابن مسعود  
 وكان اهل الجاهلية يقولون انما الطيرة في المرأة والدابة والدار رواه الحاكم في  
 المستدرک والبيهقى في شعب الايمان الشؤم في ثلاث في المرأة والمسكن  
 والدابة والدار رواه الترمذى والنسائى عن ابن عمر وان كان الشؤم في شئ ففى  
 الدار والمرأة والفرس رواه احمد والبخارى عن سهل بن سعد والبيهقى عن ابن  
 عمر والنسائى عن جابر فى الانسان ثلثة الطيرة والظن والحسد ومخرجه من  
 الطيرة ان لا يرجع ومخرجه من الظن ان لا يحقق ومخرجه من الحسد ان لا يغى  
 رواه البيهقى فى شعب الايمان عن ابى هريرة رواه ابن صيرى فى اماليه و  
 الديلمى فى مسند الفردوس بلفظ فى المؤ من ثلث خصال الحديث ليس منا من  
 تطير ولا من تطير له او تكهن او تسخر وتسخر له رواه الطبرانى فى الكبير  
 عن عمران بن حصين من رده الطير عن حاجته فقد اشرك رواه احمد  
 والطبرانى عن ابن عمر الطيرة شرك الطيرة شرك من خرج يريد سفرا فرجع  
 من طير فقد كفر بما انزل الله على محمد لا شؤم فان يك شؤم ففى الفرس  
 والمرأة والمسكن من رده الطيرة عن حاجته فقد اشرك قالوا يا رسول الله وما  
 كفارة ذلك قال يقون اللهم لا طيرك الا طيرك ولا خيرا الا خيرك ولا اله  
 غيرك فقال مرسل والعطاش شاهد عدل لا شؤم وقد يكون اليمن فى الدار  
 والمرأة والفرس رواه الترمذى وابن ماجه عن حكيم بن معاوية ياليتك نحن  
 اخذنا فالك من فيك ولا شئ فى الهام والعين حق واصدق الطيرة الفال رواه  
 احمد والترمذى عن جابر لا طيرة وخيرها الفال الكلمة الصالحة يسمعها

احدكم رواه احمد ومسلم وعن ابي هريرة لا عدوى ولا طيرة ويعجبنى  
القال رواه الدار قطنى فى المتفق وعن ابي مليكة قال قلت لابي بن عباس  
كيف ترى فى جارية لى فى نفسى منها شى فانى سمعتهم يقولون نبي الله ﷺ ان  
كان شى ففى الربع والفرس والمرأة قال فانكران يكون سمع ذلك من النبي ﷺ  
اشد النكرة فى رواية فانكران يكون رسول الله ﷺ قال له وان يكون الشؤم فى  
شى وقال اذا وقع فى نفسك منها شى ففارقها او بعضها او اعتمها رواه ابن جرير .  
وعن قتادة عن ابي حسان ان رجلين دخلا على عائشة فحدثاها ان ابا هريرة قال ان  
رسول الله ﷺ قال الطيرة فى المرأة والفرس والدار فغضبت غضباً شليداً فقالت  
ما قاله انما قال كان اهل الجاهلية يتطيرون من ذلك رواه ابن جرير . وعن ابن عمر  
ان امرأة جاءت الى النبي ﷺ فقالت يا رسول الله ﷺ سكنا داراً ونحن ذرؤنا  
فاحتجبنا وساءت ذاب بيننا واختلفنا فقال بيعوها او ذروها وهى ذميمة رواه ابن جرير  
اعلم ان الاحاديث فى هذا الباب اكثر من هذا وفيما ذكرناه كفاية بشى زائد  
ويفهم من بعضها نفى تاثير الطيرة والنهي عن اعتقادها مطلقاً ومن بعضها ثبوتها فى  
نحو المرأة والداية والدار بصيغة الجزم اما فى الحال او فيما كان من امر الجاهلية  
وهذا فى معنى النفي النهى او بلفظ الشرط مثل ان كان فى شى ففى هذا الاشياء معناه  
والله تعالى اعلم ليس النظر فى شى ففى هذا الاشياء معناه مظنها ومحلها او مناسبتها  
لا يكون فيها على طريقه قوله ﷺ لو كان شى سابق القدر لسبقته العين وعليه كلام  
القاضى حيث قال ووجه تعقيب قوله ولا طيرة بهذه الشرطية يدل على ان الشؤم  
منفى عنها ايضاً . والمعنى ان الشؤم لو كان له وجود فى شى لكان فى هذا الاشياء فا  
نها قيل الاشياء لها لکن لا وجود له فيها فلا وجود له اصلاً انتهى . وقد جاء عن عا  
نثة وابن عباس نفيها فيها صريحاً فوجه التطبيق ان التاثير بالذات منفى والمؤثر فى  
الكل هو الله والكل بحلقه وتقليده واثباتها فى هذا الاشياء لجريان عادة الله  
سبحانه بالخلق فيها وجعلها اسباباً عادية كالنار الاحراق مثلاً فالنفي راجع الى  
التاثير بالذات والاثبات بالعادة والحكمة فى خصوص هذا الاشياء موكولة الى



علم الشارع وقيل الشؤم في المرأة ان تكون ناشرة غير ولود ولا مطيعة  
لزوجها او مكروهة ومستقبحة عنده وفي الدار ضيقها وسوء جيرانها وعدم  
طيب هواها وفي الفرس حراتها وغلاء ثمنها وعدم موافقتها المصلحة ونحو  
ذلك وفي ارتكاب نوع من الممجاز ولشوم محمول على الكراهة التي  
سيها مافي الاشياء من مخالفة الشرع او الطبع ويؤيده ما ذكره في شرح  
السنة كان يقول ان كان لاحد كم دار يكره سكنها او امرأة يكره صحبتها  
او فرس لا يعجبه فليفا رقاها بان يتقل من الدار ويطلق المرأة ويبيع الفرس  
حتى يزول عنه ما يجده في نفسه من الكراهة كما قال عليه السلام في جواب من  
قال يا رسول الله ان كتافي دار كثر فيها عددنا الى اخره ذروها ذميمة امرهم  
بانتقال عنها ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة لانها سبب في ذلك فنفى  
المشؤم الطير باق على حقيقة . والله تعالى اعلم .

### الباب الثاني في العدوى

قد ذكرنا الا حاديث الناطقة بنفى العلوى والنهي عن القول به واعتقاده  
فيما سبق ولكن بقي الاشكال في قوله عليه السلام وفر من المجدوم كما تفر من الاسد بعد  
نفى العلوى وقوله ولا يحل مرض على المصحح وفي رواية ولا يوردن من على  
مصيح والممرض صاحب اهل مرضى والمصحح صاحب ابل صحاح بعد قوله  
لا يعدى شئ شيئاً ورده على الا عرابي حين قال فما بال ابل تكون في الرمل كأنها  
الظبا فياتي البعير الا جرب فيدخل فيها فيجربها قوله عليه السلام فمن اعلى الاول وفي  
رواية جاء اعرابي الى النبي عليه السلام فقال يا رسول الله النقية تكون بشفر البعي او يعجب  
فيشمل الابل كلها جرباً فقال رسول الله عليه السلام فما اعلى الاول لا علوى ولا هامة  
ولا صفر خلق الله كل نفس فكتب حياتها ومصياتها ورزقها . وقد جاء ان ابا هريرة  
كان يحدث بهما اي بقوله عليه السلام لا علوى وبقوله لا يوردن فرض على مصح ثم  
صمت بعد ذلك عن قوله لا علوى واقام على قوله لا يوردن ممرض على  
مصصح فانكر ابو هريرة حليته الاول فقالوا الم تحدث انه علوى فوطن بالجيثة  
قال ابو سلمة فما رأيت نسي حديثاً غيره وقال الحارث وهو ابن عم ابي هريرة قد

كنت اسمعك يا ابا هريرة <sup>رضي الله عنه</sup> تحدثنا مع هذا الحديث آخر قد سكت عنه كنت  
 تقول قال رسول الله <sup>صلى الله عليه وسلم</sup> لا عدوى فابي هريرة ان يعرف ذلك وقال لا يوردن  
 ممرض على مصح فمراه الحارث في ذلك حتى غضب ابو هريرة فوطن  
 بالحبشة قال ابو سلمة ولعمري قد كان ابو هريرة <sup>رضي الله عنه</sup> يحدثنا ان رسول الله <sup>صلى الله عليه وسلم</sup>  
 قال لا عدوى فلا ادري انسى ابو هريرة ام نسخ احد القولين الآخر فان قلت  
 لما انكر ابو هريرة <sup>رضي الله عنه</sup> روايته فلم يبت قلت فيه كلام ذكر في الاصول وليس علم  
 الثبوت عند انكار الراوي على الاطلاق فلو سلمنا ثبوت لا عدوى متحقق  
 بالاحاديث اخر بطرق متعددة كما ذكرنا فوق التعارض بين قوله لا يحل اولا  
 يوردن ممرض على مصح فالان نذكر ما ذكره العلماء في تطبيق نفي العدوى  
 والامر بالفرار من المجدوم فانه المشهور المذكور في هذا الباب ويعلم من  
 ذلك وجه التطبيق في الحديث الثاني والله تعالى اعلم بالصواب فتقول قال  
 الكرماني في شرح صحيح البخاري في شرح قوله لا عدوى اي لا عدوى  
 لطبعه ولكن بقضاء الله تعالى واجراء العادة فلهذا اي عن ايراد ممرض على  
 المصح وقال فر من المجدوم وقيل انه مستثنى من لا عدوى وقال التورپشتي  
 قد اختلف العلماء في تاويل قوله لا عدوى فمنهم من يقول ان المراد منه نفي  
 ذلك وابطاله على ما يدل عليه ظاهر الحديث والقرائن المنسوقة على العدوى  
 وهما لا كثرون ومنهم من يرى انه لم يرد ابطالها فقد قال <sup>صلى الله عليه وسلم</sup> وفر من المجدوم  
 فرارك من الاسد وقال لا يوردن ذوهامة على مصح وانما اراد بذلك نفي  
 ما كان يعتقد اصحاب الطبيعة فانهم كانوا يرون ان العلل المعدية مؤثرة لا محالة  
 فاعلمهم بقوله هذا ان ليس الامر على ما يتوهمون بل هو متعلق بالمشية ان شاء  
 الله كان وان لم يشأ لم يكن ويشير الى هذا المعنى قوله فمن اعدى الاول ان  
 كنتم ترون ان السبب في ذلك العدوى لا غير فمن اعدى الاول وبين بقوله  
 وفر من المجدوم وبقوله لا يوردن ممرض على مصح ان مداواة ذلك من  
 اسباب العلة فليتقه اتقاه من الجدار المائل والسفينة المعبوته <sup>ته</sup> وقد روى الفرقة  
 الاولى على الثانية في استدلالهم بالحديثين ان النهي فيهما انما جاء شفعا على

مباشر واحد الامرين فتصبيه علة في نفسه او عاهة في اهله فيعتقدان العدوى  
 حق قال وارى القول الثانى اولى التاويلين لما فيه من التوفيق بين الاحاديث  
 الواردة فيه ثم ان القول الاول يفضى الى تعطيل الاصول الطبيعة ولم يرد  
 الشرع بتعطيلها بل ورد باثباته والعيرة على وجه لاناقض في اصول التوجيه  
 ولاتناقض في القول بها على الوجه الذى ذكرناه واما استدلالهم بالقرائين  
 المنسوقة عليها فاناقد وجدنا الشارع يجمع في النهى بين ما هو حرام وبين  
 ما هو مكروه وبين ما هو منهى عنه لمعنى وبين ما هو ينهى عنه لمعان كثيرة  
 ويدل على صحة ما ذكرنا قوله ﷺ المجذوم المباح قد بايعناك فارجع  
 وقوله ﷺ للمجذوم الذى اخذ بيده فوضعها معه فى القصعة كل ثقة بالله  
 وتوكل عليه ولا سبيل الى التوفيق بين هذين للحديثين الا من هذا الوجه يبين  
 بالاول التوقى من اسباب التلف وبالثانى التوكل على الله فى متاركة  
 الاسباب يثبت بالاول التعرض للاسباب وهو سنة وبالثانى ترك الاسباب  
 وهو حاله وقال الطيبى فى حديث رواه عمرو بن الشريد كان فى وفد ثقيف  
 رجل مجذوم فارسل اليه النبي ﷺ اناقد بايعناك فارجع رواه مسلم  
 هذا ارشاد الى رخصة من النبي ﷺ لمن لم يكن له درجة التوكل ان يراعى  
 الاسباب فان كل شىء من الموجودات خاصية واثرا وودعها فيه الحكيم جل  
 وعلا وقال البغوى وقيل الجذام ذورائحة تسقم من اطال صحبة ومواكلته  
 ومضاجعته وليس من الغدى بل من باب الطب كم يتضرر بكل ما يعاف وشم  
 ما يكره والمقام فى مقام لا يوافق هواه وكله باذن الله تعالى وما هم بضارين به  
 من احد الا باذن الله قال الشيخ الامام الحافظ ابن حجر العسقلانى فى شرح  
 نخبة الفكر وجه الجمع بينهما ان هذه الامراض لاتعدى بطبعها لكن الله  
 تعالى يجعل مخالطة المريض بها للصحیح سببا لاعدائه مرضه ثم قد يتخلف  
 ذلك عن سببه كما فى غيره من الاسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح  
 تبعالغيره والاولى فى الجميع بينهما ان يقال ان تقيه ﷺ للعدى باق على  
 عمومة وقد صح قوله ﷺ لا يعدى شىء شيئا وقوله فمن اعدى الاول يعنى ان

به سبحانه وتعالى ابتداء ذلك في الثاني كما ابتدائه في الاول واما الامر  
 بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع لتلايق للشخص الذي يخالطه  
 من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لابالعدوي المنفية فيظن ان ذلك بسبب  
 خالطته فيعتقد صنحة العلوي فيقع في الحرج فامر بتوجيه حسما للمادة والله  
 اعلى علم هنا كلام الشيخ في الشرح وقال فيم فقل عنه في حاشيته ويدل علمه اكل  
 نبي عليه السلام مع مجذوم حيث كان يعلم ان لا يصيب شيء الا باذن الله وكان ائمان ان يقع  
 في مثل هذا الظن لو اصابه مكروه والامر ليس الا لمن لا يجد في نفسه صدق اليقين  
 ويؤمن ان تحلته نفسه بشيء لو اصاب شفقة عليه واخذ الحجر من الوقوع في بحر  
 الشرك الخفي جزاه الله عن امته خير الجزاء واعطاه الوسيلة والفضيلة واللوا صلى  
 الله عليه وسلم وشرف وكرم هنا كلامه وحيث ختم بالصلوة على النبي عليه الصلوة  
 والسلام ختمنا به الكلام والله تعالى اعلم .





# شهر الربيع الاول

اوں واحق مانڈ کرنيہ ذر مولدہ ووفاتہ ﷺ ومايتبعہ من الاحکام ونختمہ  
بذکر رؤيتہ عليہ الصلوٰۃ والسلام فی المنام ففیہ بابان .

## الباب الاول في مولده صلى الله عليه وسلم

واعلم ايها المحب الصلح ايديك الله بورا يقين وتور قلبك بذكر سيد المرسلين ﷺ  
وعلى االه وصحبه اجمعين انه لما حملت امة برسول الله ﷺ ظهر بحمله عجائب و  
وجد لايجاده غرائب ذكرت في كتب السير وروايه الاخبار ونحن اختصرنا منه ما  
يعرت به اصل القضية واوردنا من الاخبار ماورد وصح من الطريق المتعارف في رواية  
الاحاديث ومن الله التوفيق روى انه كانت قريش في جذب شليدو ضيق عظيم فلما  
حملت به ﷺ اخضرت الارض وحملت الاشجار واتاهم الوجد من كل جانب  
فسميت تلك السنة التي حملت فيها رسول الله ﷺ سنة الفتح والابتهاج وفي  
حليث ابن اسحاق ان امة كانت تحدث انها آيت حين حملت به ﷺ فقيل لها  
انك حملت بسيد هله الامة وقالت ماشعرت بانى حملت به ولاوجد له  
ثقل ولاحما كما تجد النساء الا انى انكرت رفع حيضتى وقد جاء في بعض  
الاحاديث مرفوعا انه قال ﷺ حملت بى امى كاتقل ماتحمل النساء وجعلت  
تشتكى الى صواحباتها ثقل مانجد ثم ان امى رايت فى منامها ان الذى فى بطنها نور  
الحليث وفيه ان امة عليه وعليها الصلوٰۃ والسلام وجدت الثقل فى حملہ وفى  
سائر الاحاديث انها لم تجد ثقلاً وجمع الحافظ ابونعيم بينهما بان الثقل و كان فى ابتلاء  
علوقها به والخفة عند استمرار الحمل بها فيكون فى حالين خارجا عن  
المعتاد المعروف وعن ابى زكريا يحيى بن عائد بقى ﷺ فى بطن امة تسعة اشهر  
كاملاً لا تشكو او جعاً ولا مغصاً ولا ريحاً ولا ما يعرض لذوات الحمل من النساء

۱ آورده شد جماعت فرشتگان - ۱۲ ۲ کچھ کھانے کی خواہش کرتا۔ ۳ رگ و پٹھوں کا ہاہم ملنا۔

وكتبت تقول والله ما رأيت من حمل هو اخف منه ولا اعظم درجة منه ولما تم لها من حملها شهران توفي عبدالله وقيل توفي في المهل والراجح الشهر هو الاول مات في طريق مكة راجعاً من المدينة ودفن بالابواء . وروى ابو نعيم من حليث ابن عباس قال كنت امانة تحلت وتقول اتنى اب حين متولى من حملى ستة اشهر فى المنام وقال لى يا امانة الهك قد حملت بخير العلمين فاذا ولدته نسيته محملاً واكفى شاك قالت ثم لما اخذ فى ما اخذ النساء وذكرت عجائب ممارات من الطيور البيض منفرها من الزمرد واجحجها من اليقوت ورجالا ونساء فى الهوى بيليهن وباريق من فضة وكشف الله عن بصرى فرأيت مشارق الارض ومغربها ورأيت ثلثة اعلام مضروبات علماً بالمشرق وعلماً بالمغرب وعلماً على ظهر الكعبة فدخلتني المنخاض فوضعت محمداً ﷺ فنظرت اليه فاذا هو ساجد وقد رفع اصبعه كالمتضرع المبتهل ثم رأيت صحبة يضافد اقبلت من السماء حتى غشيته فصنيتة عنى فسمعت منادياً ينادى طوفوا به مشارق الارض ومغربها وادخلوه البحر ليعرفوا بلسمه ونعمته وصفته وصورته ويعلمون انه سمي فيها الماحى لا يقى شرك من الشرك الامحى فى زمانه ثم تجلت عنه فى اسرع وقت وروى محمد بن سعد من حيث جماعة منهم عطاء وابن عباس ان امنت بنت وهب قالت لما فصل منى بمعنى النبى ﷺ خرج معه نوراضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع الى الارض محملاً على يديه ثم اخلقضة من التراب قبضها ورفع رأسه الى السماء وروى الطبرانى انه لما وقع الى الارض وقع مقبوضة اصبع يده مشيراً بالسبلة كالمتسبح بها واخرج احمد والبخاري والحاكم والبيهقى عن العرياض بن سارية ان رسول الله ﷺ قال اتى عبدالله وختم النيين ان ادم لمنجلل فى طينة وساء خبركم عن ذلك ابا دعوة ابي ابراهيم وبشارة عيسى ورؤياتى امتى رأيت وكذلك امهات الايتاء برين وان ام رسول الله ﷺ رأت حين وضعه نوراضاء له قصور الشام قال الحافظ ابن حجر صححه ابن حبان والحاكم وله طرق كثيرة والى هذا اشار العباس بن عبدالمطلب فى شعره حيث قال شعر.

وانت لما ولدت اشرفت الارض واطضاءت بنورك الافق  
فحن فى ذلك الضياء والنور ووسيل الرشاد نخرق

وَوَجْهَ تَخْصِيصِ الشَّامِ بِنُورِهِ أَنَّهَا دَارُ مَلِكِهِ كَمَا ذَكَرَ كَعْبُ بْنُ فِي الْكُتُبِ السَّابِقَةِ  
 مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَوْلَاهُ بِمَكَّةَ وَمَهَا جِرْتُهُ يَثْرَبَ وَمَلِكُهُ بِالشَّامِ وَلِهَذَا اسْرَى ﷺ  
 بِهِ إِلَى الشَّامِ إِلَى بَيْتِ الْمُقَلِّسِ كَمَا هَاجَرَ إِلَيْهَا قَبْلَهُ إِبْرَاهِيمُ وَبِهَازِنَزَلِ عَيْسَى بْنُ مَرْيَمَ  
 وَهِيَ أَرْضُ الْمُحَشَّرِ وَالْمُنْشَرِّ وَجَاءَ فِي الْحَلِيثِ الصَّحِيحِ عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ فَانْهَاجَ خَيْرَةَ  
 اللَّهُ مِنْ أَرْضِهِ يَجْتَبِي لِأَيِّهِ خَيْرَتَهُ مِنْ عِبَادَةٍ وَمِنْ عَجَائِبِ وَوَلَادَةِ ﷺ مَا خَرَجَهُ الْبِيهَقِيُّ  
 وَأَبُو نَعِيمٍ أَنَّهُ كَانَ يَهُودِيًّا سَكَنَ مَكَّةَ لِلتَّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 قَالَ يَمْعَشِرُ يَهُودٍ طَلَعَ نَجْمًا حَمْدُ الَّذِي يُولَدُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ  
 يَهُودِيًّا سَكَنَ مَكَّةَ فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي وُلِدَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَمْعَشِرُ قُرَيْشٍ هَلْ  
 وُلِدَ فِيكُمْ مَوْلُودٌ قَالُوا لَا نَعْلَمُ قَالَ انظُرُوا فَإِنَّهُ وَلِدُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ نَبِيٌّ هَذِهِ الْأُمَّةَ بَيْنَ  
 كَتْفَيْهِ عِلَامَةٌ فَانصُرُوا فَاسْأَلُوا أَقْبِيلَ لَهُمْ وَوُلِدَ لِعَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ غُلَامٌ فَلَنَهَبَ  
 الْيَهُودِيَّ الْعِلَامَةَ خَرَمَ مَغْشِيًا عَلَيْهِ وَقَالَ نَهَبَتِ النَّبُوَّةَ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ  
 أَمَا وَاللَّهِ يَسْطُونَ بِكُمْ سَطْوَةً يَخْرُجُ خَيْرُهَا مِنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ رَوَاهُ يَعْقُوبُ بْنُ  
 سَفْيَانَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ كَمَا قَالَ فِيهِ فَتَحَ الْبَارِي وَمِنْ عَجَائِبِ وَوَلَادَتِهِ أَيْضًا مَا رَوَى مِنْ  
 ارْتِحَاجِ إِيْوَانَ كَسْرِي وَسُقُوطِ أَرْبَعَةِ عَشَرَ شَرْفَةً مِنْ شَرَفَاتِهِ وَغِيْضِ بَحِيرَةٍ طَبْرِيَّةٍ  
 وَخَمُودِنَارِ فَارِسٍ كَانَ لَهَا أَلْفُ عَامٍ لَمْ تَحْمَلْ رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَهُوَ مَشْهُورٌ وَقِي سُقُوطِ  
 أَرْبَعَةِ عَشَرَ شَرْفَةً إِشَارَةً إِلَى أَنَّهُ يَمْلِكُ مِنْهُمْ بَعْدَ الشَّرَفَاتِ وَقَدْ مَلَكَ مِنْهُمْ فِي أَرْبَعِ  
 سِنِينَ عَشْرَةَ وَقَدْ مَلَكَ الْبَاقُونَ إِلَى خِلَافَةِ عَثْمَانَ ذَكَرَهُ فِي الْمَوَاهِبِ اللَّئِنِيَّةِ وَمِنْ  
 ذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْ زِيَادَةِ حِرَاسَةِ السَّمَاءِ بِالشَّهْبِ وَقَطْعِ رِصْدِ الشَّيَاطِينِ وَمِنْهُمْ مَنْ  
 اسْتَرَاقَ السَّمْعَ وَوُلِدَ ﷺ مَعْلُورًا أَيْ مَخْتُونًا مَسْرُورًا أَيْ مَقْطُوعَ السَّرَّةِ كَمَا رَوَى مِنْ  
 حَلِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عَسَاكَرٍ وَرَوَى الطَّبْرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَأَبُو نَعِيمٍ  
 وَالتَّخَطِيبِ وَابْنِ عَسَاكَرٍ مِنْ طَرَفٍ عَنِ أَنَسِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مِنْ كَرَامَتِي عَلَى رَبِّي  
 أَنِّي وُلِدْتُ مَخْتُونًا وَلَمْ يَرَأِ أَحَدٌ سَوْءَتِي وَصَحَّحَهُ أَيْضًا فِي الْمَخْتَارَةِ قَالَ الْحَاكِمُ فِي  
 الْمُسْتَدْرَكِ تَوَاتَرَتْ الْأَخْبَارُ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَوُلِدَ مَخْتُونًا وَلَعَلَّهُ  
 أَرَادَ يَتَوَاتَرُ الْأَخْبَارُ اشْتِهَارُهَا وَكَثْرَتُهَا فِي السِّيَرِ لِأَنَّ طَرِيقَ السَّنَدِ الْمَصْطَلَحِ عَلَيْهِ عِنْدَهُ  
 أُمَّةَ الْحَلِيثِ وَقَدْ ضَعَفَهُ بَعْضُهُمْ وَبِهِ صَرَحَ ابْنُ الْقَيْمِ ثُمَّ قَالَ لَيْسَ هَذَا مِنْ



خصائصه عليه السلام فان كثير من الناس ولد منحوناً وفي الوشاح لابن وريد قال ابن الكلبي  
بلغنا ان ادم خلق منحوناً واثنى عشر نيامن بعله خلقوا منحونين واخرهم محمد عليه السلام  
وحكى انه ختنه جده عبد المطلب يوم سبعة ووضع له ماداً وسماه محمد اوقيل ان  
جبرئيل ختنه حين طهر قلبه قال الذهبي وهذا منكر فائده من المرأة ويسمى اعذار  
الرجل اعذار بالعين المهملة والذال المعجمة والراء وختان المرأة خفضا بار الحاء  
المعجمة والفاء والضاد المعجمة وقد اختلف العلماء هل هو واجب او سنة فذهب  
اكثرهم الى انه سنة وليس بواجب وهو قول ابي حنيفة ومالك وبعض اصحاب  
الشافعي وذهب الشافعي الى وجوبه وهو مقتضى قول ستخون من المالكية وذهب  
بعض اصحاب الشافعي الى انه واجب في حق الرجال وسنة في حق النساء واحتج  
من قال انه سنة بحديث ابي المليح بن اسامة عن ابيه ان النبي عليه السلام قال الختان سنة  
للرجل وتكرمة للنساء رواه احمد في مسنده والبيهقي واجاب من اوجه بان له ليس  
المراد بالسنة ههنا خلاف الواجب بل المراد به الطريقة واحتجوا على وجوبه بقوله  
تعالى ان اتبع ملة ابراهيم حنيفاً وثبت في الصحيحين من حديث ابي هريرة قال قال  
رسول الله عليه السلام احسن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدم وبما روى  
ابوداؤد من قوله عليه السلام للرجل الذي اسلم الق عنك شعر الكفر واختن واحتج القفال  
على وجوبه بان بقاء القلفة يحبس النجاسة ويمنع صحة الصلوة فيجب ازالتها واختلفوا  
في وقته فقال القائلون بالوجوب وقته بعد البلوغ لانه محل الوجوب وقال بعض  
اصحاب الشافعية يجب على الولي ان يخنن الصبي قبل البلوغ والظاهر ان من قال  
بالسنة فوقته عنده قبل البلوغ لان ستر العورة واجب فلا يترك بالسنة والله تعالى اعلم.  
واختلف في عام ولاوة عليه السلام فالأكثر على انه عام الفيل وبه قال ابن عباس ومن  
العلماء من حكى الاتفاق عليه وقال وكل قول يخالفه وهو المشهور انه ولد بعد الفيل  
بخمسين يوماً واليه ذهب السهيلي في جماعة وقيل بخمس وخمسين حكاها  
الدمياطى في آخرين واختلف ايضا في الشهر الذي ولده والمشهور انه الربيع الاول  
وهو قول جمهور العلماء ونقل ابن الجوزى الاتفاق عليه وكذا اختلف ايضا في اى يوم  
من الشهر فقيل انه غير معين واتما وليوم الاثنين من الربيع الاول من غير تعيين.

والجمهور على انه يوم معين فقيل ليلتين خلقامنه وقيل لثمان خلت منه قال الشيخ  
قطب الدين القسطلاني وهو اختيار اكثر اهل الحديث ونقل عن ابن عباس وجبير بن  
مطعم وهو اختيار اكثر من له معرفة بهذا الشأن اختاره الحميلي وشيخه ابن حزم  
وحكى القضاة في عيون المعارف اجماع اهل السير عليه اوردته الدهري عن  
محمد بن جبير بن مطعم وكان عارفا بالنسب وايام العرب وقيل لعشرو قيل لاثني  
عشرو وهو المشهور وعليه اهل مكة في زيادتهم موضع مولده عليه السلام في هذا الوقت قال  
الطبي اتفقوا على انه ولد يوم الاثنين ثاني عشر الربيع الاول انتهى وفي قوله اتفقوا  
تظرو عرف وجههما ذكرنا واختلف ايضا في الوقت الذي ولد فيه والمشهور انه ولد  
يوم الاثنين عن قيادة الانصاري انه عليه السلام سئل عن صيام يوم الاثنين قال ذاك يوم  
ولدت فيه وانزلت علي فيه النبوة رواه مسلم وهنا يدل على انه ولد نهاراً وفي  
المسند عن ابن عباس قال ولد عليه السلام يوم الاثنين واستبني يوم الاثنين وخرج من مكة  
مهاجراً الى المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين وكذا فتح مكة ونزول سورة  
المائدة يوم الاثنين وقيل روى انه ولد عند طلوع الفجر فعن عبدالله بن عمرو بن العاص  
قال كان يمر الظهران راهب يسمى عيصا من اهل الشام وكان يقول يوشك ان يولد  
فيكم يا اهل مكة مولودين له العرب ويملك العجم وهذا زمانه فكان لا يولد بمكة  
مولود الا ساله عنه فلما كان صبيحا اليوم الذي ولد فيه رسول الله عليه السلام خرج عبد  
المطلب حتى اتى عيصا فنادى فاشرف عليه فقال له عيص كن اباه فقد ولد فيكم  
ذالك المولد الذي كنت احلتكم عنه يوم الاثنين ويعث يوم الاثنين ويموت يوم  
الاثنين قال والله لي الليلة مع الصبح مولود قال فمسميته قال محمد والله لقد كنت  
اشتهي ان يكون هذا لولد فيكم اهل البيت بثلاث خصال تعرفه فقلاتي عليهن منها انه  
طلع نجمه البارحة وانه ولد اليوم وان اسمه محمد رواه ابو جعفر بن ابي شيبة اخرجه  
ابونعيم في الدلائل بسند فيه ضعف وقيل كان مولوده عليه السلام عند طلوع الفجر وهو ثلاثة  
انجم صغار ينزلها القمر وهو مولد النبي ووافق ذالك من الشهور نيسان الشمسية  
وهو برج الحمل وكان لعشرين مضت منه قيل ولد لتالمامر من حليث عائشة قال

الشيخ بدر الدين الزركشى والصحيح ان ولادته عليه الصلوة والسلام كانت  
 نهاراً واما ما روى من تدلى النجوم فضغه ابن حية لاقتضائه ان الولادة كانت ليلاً قال  
 وهذا لا يصلح ان يكون تعليلاً فان زمان النبوة صالح للخوارق وبحوزان يسقط  
 النجوم نهاراً انتهى قال العبد الضعيف ويحتمل وان يكون سقوط النجوم في ليلة ولد  
 صبيحتها والاضافة في قولهم سقطت النجوم او نزلت الشهب في ليلة مولودة ﷺ  
 بهذا المعنى ثم اذ قلنا انه ولد ليلاً فلك الليلة افضل من ليلة القدر بلا شبهة لان ليلة  
 المولود ليلة ظهوره ﷺ وليلة القدر معطاة له وما شرف بظهور الذات الشرف من  
 اجله اشرف مما شرف بنزول الملكة فيها وليلة المولود شرف بظهوره ﷺ ولان  
 ليلة القدر وقع الفضل فيها على امة محمد ﷺ وليلة المولد الشريف وقع الفضل  
 فيها على سائر الموجودات فهو الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعمت به نعمته على  
 جميع الخلائق من اهل السموات والارضين وارضعته ﷺ وقلد رأى ابو لهب بعد  
 موته في النوم فقيل له ما حالك قال في النار الا انه خفت كل ليلة اثنتين وامص من  
 بين اصبعي هاتين ماءً و اشار الى رأس اصبعيه وان ذلك باعتراف لثبوتية عند ما بشرتني  
 بو لادة النبي ﷺ وبارضا عنها له قال ابن الجرى فاذا كان هذا ابو لهب الكافر  
 الذي نزل القرآن بدمه جوزى في النار برفحة ليلة مولدة النبي ﷺ فما حال المسلم  
 من امة يسر بمولده ويذل ما تصل اليه قدرته في المحبة ﷺ لعمرى انما كان جزائه  
 من الله الكريم ان يدخله بفضل العميم جنات النعيم ولا يزال اهل الاسلام يختلفون  
 بشهر مولده ﷺ ويعلمون الولايم ويتصدقون في ليا ليه بانواع الصدقات ويظهرون  
 السرور ويزيلون في المبرات ويعتون بقرآءة مولده الكريم ويظهر عليهم من  
 مكان كل فضل عميم ومما جرب من خواصه انه امان في ذلك العام ويشرى  
 عاجل بنيل البغية والمرام فرحم الله امرأ اتخذ ليا لى شهر مولده المبارك اعياداً  
 ليكون اشد غلبة على من في قلبه مرض وعناد ولقد اظن بن الحاج في المدخل  
 فى الانكار على من احده الناس من البدع والاهواء والعناء بالالات المحرمة  
 عند عمل المولد الشريف فالله تعالى يشبه على قصده الجميل ويسلك بنا سبيل

السنة فانه حسبنا ونعم الوكيل ثم تشرف وتسعد بارضاعه حليلة السعدية قالت  
 حليلة فيما رواه الطبراني والبيهقي وابو نعيم وغيرها قدمت مكة في زمرة من بني سعد  
 تلتمس الرضاء في سنة شهباء فقدمت على اتان لي ومعى صتي وشارف لنا لا  
 اجد في ثديي ما يغنيه ولا في شارفنا ما يغذيه فوالله ما علمت منا امرأة الا وقد  
 عرض عليها رسول الله ﷺ فتأباه اذا قيل يتيم فوالله ما بقي من صواحي امرأة الا  
 اخذت رضيعا غيري فلما لم اجد غيره قلت لزوجي والله اني لا اكره ان ارجع من بين  
 صواحي ليس لي رضيع لا نطلقن الي ذلك اليتيم فلا خذنه فذهبت فاذا انه  
 ملرج في ثوب ابيض من اللبس يفرح منه المسك وتحتة حريرة خضراء راقدة  
 على قفاه يغط فاشفقت ان او قظه من نومه لحسنه وجماله فدنوت رويدا فوضعت  
 يدي على صدره قفا فتبسم ضاحكاه وفتح عينيه ينظر الي فخرج من عينيه نور حتى  
 دخل خلال السماء وانا انظر فقبلته بين عينيه واعطيته ثديي الا بمن فا قيل عليه بما  
 شاء من اللبن فحولته الي الايسر فابي وكانت تلك حالته بعد قال اهل العلم اعلمه  
 الله الي ان له شريكاً فالهمه العدل فقالت فلوي وروي اخوه ثم اخذته فما هو الا ان  
 جنبه رحلي وقام صاحبي تغني زوجها الي شارفنا تلك فاذا انها الحافل فحلب  
 فشرب وشربت حتى روينا بتا بخير ليلة قالت حليلة فودع الناس بعضهم بعضاً  
 وودعت انا ام النبي ﷺ ثم ركبت اتاني واخذت محمداً بين يدي الكعبة ثلاثاً  
 ورفعت رأسها الي السماء ثم مشيت قد سبقت وابت الناس الذين كانوا معي فمجبين  
 منها ويقلن ان لها لساناً عظيماً قالت ثم قدمنا منازل بني سعد ولا اعلم الضامن ارض  
 الله اجذب منها فكانت غمي تروح علي حين قدمنا به سياغاً لنا فنحلب ونشرب  
 وما يلحب انسان قطرة لبن ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا  
 يقولون لدعاتهم اسرحوا حيث يسرح راعي غنم بنت ابي ذؤيب فتروح اغنامهم  
 جياغاً تبص بقطرة لبن وتروح اغنامي شاعالناً ولم تنزل حليلة تعرف الخير والسعادة  
 وتفوز منه بالحسنى وزيادة . شعر :

لقد بلغت في الهاشمي حليلة      مقاماً علا في ذروة العز والمجد  
 وزادت مواشيها واخصب ريعها      وقد عم هذا السعد كل بني سعد

قال ابن الجراح رأيت في كتاب الترقيص لابي عبد الله محمد بن المعلى  
الازدى ان في شعر حليلة مما كانت توقص به النبي ﷺ . شعر :

يارب اذا اعطيته فابقه وعله الى العلى وارقه

واوحص ابا طيل العدى بحقه

وكانت الشيما اخته من الرضا عه تخصصته وترقصه وتقول : شعر :

هذا اخي لم تلده امي وليس من نسل ابي وعمي

فديته من فحول معمي فاتمهم اللهم فيما وتقمي

واخرج البيهقي والصابوني والخطيب وابن عساكر وغيرهم

عن العباس بن عبد المطلب قال قلت يا رسول الله دعاني للدخول في

دينك ابارة لنبوتك رأيتك في المهد تناغي القمر وتشير اليه

باصبعيك فحيث اشرف اليه امال قال اني كنت احدته ويحدثنى ويلهيني

عن البكاء واسمع وجبته يسجد تحت العرش وقال الصابوني هذا

حديث غريب الاسناد والمتن في المعجزات حسن والمناغاة المحاذة

وقد ناعت الام صبيتها اي لا طفته وشاغلته بالمحاذة والملاعبة

واخرج البيهقي وابن عساكر عن ابن عباس قال كانت حليلة تحدثت

انها اول ما فطمت رسول الله ﷺ تكلم فقال الله اكبر كبيرا والحمد لله

كثيرا . او سبحان الله بكرة واصيلا فلما تدعوع كان يخرج ويتظر الى

الصبيان يلعبون فيجنبهم الحديث وعنه قال كانت حليلة لا ندعه يذهب

مكانا بعيدا فغفلت عنه يوما فخرج معه اخته الشيما في الظهر الى

اليهم فخرجت حليلة تطلبه حتى تجده مع اخته فقالت في هذا الحر

فقالت اخته يا امة ما وجد اخي في حر رأيت غمامة تظل عليه اذا وقف

وقفت واذا سارسارت حتى انتهى الى هذا الموضع وكان ﷺ يشب شبابا

لا يشبه الغلمان قالت حليلة فلما فصلت قد منا به على امه احرص شي

على مكثه عندنا لما نرى من بركته فكلمنا امه وقلنا لو تركته عندنا حتى

يغلظ فائله نخشى عليه وباء مكة ولم نزل به حتى رده معنا فرجعنا به فوالله

انه بعد مقلنا بشهرين او ثلثة مع اخيه من الرضاة لفي بيهم لنا خلف بيوتنا  
اذ جاء اخوه يشتد فقال ذاك اخي القرشي وقد جاء رجلا ن عليهما ثياب بيض  
الحديث في باب شق صدره الشريف عليه السلام فانطلقنا فرده الى اهله قبل ان يظهر  
ما نتخوف حتى قد منا به الى امه واخبرناها بشأنه فقالت اخشيتما عليه الشيطان  
عليه سبيل وانه لكان لابني هذا شان فائده : كان شق الصدر الشريف  
المحمدي وغسل قلبه اطهر عليه السلام اربع مرات الآولى وهو صغير في بني سعد في  
بهم لحليمة والثانية وهو ابن عشر سنين وفي الحديث انه عليه السلام قال هو ان ذالك  
اول ما ابتدأت به من امر النبوة وكان عليه السلام نذرا ان يعتكف شهراً وهو وخديجة  
فوافق شهر رمضان وقد يفهم من بعض الكتب انه كان في غار حراء فخرج ذات  
ليلة نسمع السلام عليك قال وظنتها فجاء الجن فجئت مسرعا حتى دخلت  
على خديجة فقالت ما شانك فاخبرتها فقالت ابشربان السلام خير ثم  
خرجت مرة اخرى فانا بجبرئيل على الشمس له جناح بالمشرق وجناح  
بالمغرب الحديث والرابعة ليلة الاسراء ويرى خامسة ولا يثبت وقد افردنا  
في ذالك رسالة ولله الحمد وقد وقع في طرق الاحاديث المروية في هذا  
الباب انه كان الغسل بماء زمزم وانه كان في طست من ذهب واستفيد منه ان  
ماء زمزم افضل واطهر من ماء الجنة والالتخشوه به وسئل هل غسل قلبه  
الشريف في الطست خاص بما وفعل بغيره من الانبياء ايضا عليهم السلام  
اجيب بانه فرد في خبر التابوت والسكينة انه كان فيه طست الذي غسلت فيه  
قلب الانبياء ذكره الطبرى وعزاه العماد بن كثير في تفسيره لرؤية السدى عن  
ابى مالك عن ابن عباس كذا في المواهب اللدنية ولما بلغ عليه السلام اربع سنين  
وقيل خمسا وقيل ستا وقيل سبعا وقيل اثنتى عشرة سنة وشهراً وعشرة ايام ماتت  
امه بالابواء وقيل بالحجون وفي القاموس ودار نابغة بمكة فيه مدفن امه  
ام النبى عليه السلام واخرج ابن سعد عن ابن عباس لما بلغ عليه السلام ست سنين  
وخرجت به امه الى اخواله في عدى ابن النجار بالمدينة تذرهم ثم  
رجعت به الى مكة فلما كانت بالابواء توفيت وقد روى ان امه امنت

به عليه السلام بعد موتها فروى الطبرى بسنده عن عائشة ان النبى صلى الله عليه وسلم نزل  
الحجون كئيباً حزيناً فاقام به ما شاء الله عز وجل ثم رجع مسروراً قال سألت  
ربى عز وجل فاحيا لى امى فأمنت بى ثم رقتها وروى ابو حفص بن شاهين فى كتابه  
الناسخ والمنسوخ نحوه وكذا روى من حديث عائشة ايضاً احياء ابويه عليه السلام حتى أمنا  
به اورده السهلى وكذا الخطيب قال السهلى ان فى اسناده مجاهيل وقال ابن  
كثير انه حديث منكر جد او سنله مجهول وقد خرج بعض العلماء ان ابويه عليه السلام  
ناجيان وليسا فى النار والكلام فى ابائه الشريفة طويل والسكوت فى هذا الباب احوط  
ولقد احسن الحافظ شمس الدين بن ناصر اللين اللمشقى حيث قال شعر :

حيا الله النبى مزيد فضلٍ      على فضلٍ وكان به رءوفاً

فاحيا امه وكذا اباه      لا يمان به فضلا لطيفا

فاسلم فالقليم بد اقدير      وان كان الحديث به ضعيفا

ولقد اظن بعض العلماء فى الاستدلال لا يمانهما فالله يشبه الجنة على  
قصده الجميل فالجنر من ذكرهما بما فيه نقص لان ذلك يؤذى النبى صلى الله عليه وسلم لان  
العرف جاء بانه اذا ذكر ابو الشخص بما ينقصه او وصف فيه نقص تاذى ولله بذكر  
ذلك عند المخاطبة وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الاحياء بسبب الاموات وللسيوطى  
رسائل فى اثبات هذا المطلب فارجع اليها ثم مات جده عبد المطلب اوصاه بذلك  
لانه كان شقيق عبد الله وقد اخرج ابن عساكر عن حليلة عن عرطفت قال قدمت  
مكة وهو فى قحط فقالت قريش يا ابا طالب اقحط الرادى واجدب العيال فهلم  
فاستسق فخرج ابو طالب ومعه غلام كانه شمس دجن تجلت عنه سحاب وحوله  
اغيلمة فاخده ابو طالب فالصق ظهره بالكعبة ولا ذا الغلام باصبعه وما فى  
السماء فزعة فا قبل السحاب ههنا وههنا فاغدق واغدودق وفى ذلك  
يقول ابو طالب . شعر :

وابيض ويستسقى الغمام بوجهه      شمال اليتيمى عصمة للارامل

والشمال بكسر الثالثة الملجاء والغياث وقيل المطعم فى الشدة والارامل

المساكين من رجال ونساء وبالنساء اخص واكثر استعمالا والواحد ارمل وارملة  
له ، عك كايك پيار ہے جہاں آپ کا مقبرہ ہے۔

وهذا البيت من فصيلة لابي طالب ذكرها ابن اسحاق بطولها وله في مدحه عليه السلام  
 قصائد اخرو كفالته وحمایته رسول الله عليه السلام مشهورة وقال ابن التين ان في شعر  
 ابي طالب هذا دلالة على انه كان يعرف نبوة النبي عليه السلام قبل ان يبعث لما خيره به  
 بحيرى بفتح الموحلة وكسر المهملة وسكون المشاة التحية اخره راء مكسورة  
 وغيره من شأنه وتعقبه الحافظ ابن حجر ان ابن اسحاق ذكر ان انشاد ابي طالب  
 بهذا الشعر كان بعد البعث و معرفته ابي طالب بنبوته جاء في كثير من الاخبار و  
 تمسك بها بعض الشيعة انه كان مسلما و انه مات على الاسلام وان الحشرو  
 تزعم انه مات كافرا واستدل لدعوات بما لا دلالة فيه انتهى كذا في المواهب  
 وروى انه عليه السلام كان يقول له عند موته يا عم قل لا اله الا الله كلمة استحل لك بها  
 الشفاعة يوم القيامة فلما راى ابو طالب حرص رسول الله عليه السلام قال له والله يا ابن  
 اخي لو لا مخافة قريش انى انما قلتها جزعا لقلتها لا اقولها الا تشرك بها فلما تقاب  
 من ابي طالب الموت نظر العباس اليه يحرك شقيه فاصغى اليه باذنيه فقال يا  
 ابن اخي والله لقد قال اخي الكلمة التى امرته بها فقال عليه السلام اسمعه كذا فى رواية ابن  
 اسحق انه اسلم عند الموت واجيب بانه مخالف لما صح من موته على ملة  
 عبدالمطلب والكلام فيه طويل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل . و لما بلغ  
 رسول الله عليه السلام اثنى عشر سنة خرج مع عمه ابي طالب الى الشام حتى بلغ بصرى  
 فراه بحيرى الراهب واسمه جرجيس فعرفه بصفته فقال وهو اخذ بيده هذا سيد  
 العالمين هذا يعطه الله رحمة للعالمين فقيل له وما علمك بذلك فقال انكم حين  
 اشرفتم به من العقبة لم يبق شجر ولا حجر الا خر له ساجدا ولا يسجد الا النبي  
 وانى لا عرفه بخاتم النبوة فى السفلى غضروف كفه مثل النفاحه وانا نجله فى  
 كئنا وتزوج عليه السلام خليجة وهو ابن خمس وعشرين سنة وكانت تدعى فى  
 الجاهلية بالطاهرة وكان لها حين تزوجها النبي عليه السلام اربعون سنة واصدقها عشرين  
 بكرة وحضر البكر وزوسا مضر فحطب ابو طالب فقال الحمد لله الذى جعلنا  
 من ذرية ابراهيم و فرع السمعيلى و ضيفى معد و عنصر مضر و جعلنا حضنة بيته  
 وسواس حرمه و جعل لنا و بيتا محجوجا و حرما منا و جعلنا الحكام على الناس



ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزى برجل الا يرجع به فان كان في المال قل فان المال ظل زائل وامر حائل ومحمد ممن قد عرفتم قرابة وقد خطب خليجة بنت خويلد وبذلها من الصداق اما اجله وعاجله من مالي كنا وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطو حسيم ولما بلغ رسول الله ﷺ اربعين سنة وقيل واربعين يوما وقيل عشرة ايام وقيل وشهرين يوم الاثنين لثمان من الربيع الاول سنة احدى واربعين من الفيل بعث الله رحمة للعالمين ورسولا الى كافة الثقلين اجمعين فرفع قلعه واعلا ذكره في العالمين فاقام بمكة ثلث عشرة سنين ثم امر بالهجرة الى المدينة المطهرة فقام بها عشر سنين فجاهد في سبيل الله ودعا الخلق ونور العالم بنور الايمان واليقين ولما كان الحكمة في بعثه ﷺ هداية الخلق وتيمم مكارم الاخلاق وتكميل المباني اللين فحين حصل هذا الامر وتم هذا المقصود رفعه الله اليه في اعلى عليين وتوفاه الله وهو ابن ثلث وستين سنة ﷺ وعلى اله وصحبه واتباعه واحزابه اجمعين.

### الباب الثاني في وفاته ﷺ

ونذ كرفيه ما جاء من الاخبار في اوله والله الموفق ومما وقع قيل موته بشهر ما روى عن ابن مسعود قال نعي لنا نبينا وحبينا ﷺ قبل موته بشهر هو بابي وامى ونفسى له الفداء فلما دنا الفراق جمعنا في بيت امة عائشة وشد لنا فقال مرحبا بكم حيا كم الله بالسلام رحمكم الله حفظكم الله حيركم الله وزقكم الله رفعكم الله فنفعكم الله واكرم الله هدكم الله وقاكم الله اوصيكم بتقوى الله واوصى الله بكم واستخلفه عليكم واحذركم انى لكم نذير مبين ان لا تعلقوا على الله في عباده وبلاده فانه قال لى ولكم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا او العاقبة للمتقين وقال اليس في جهنم مثوى للمتكبرين قلنا يا رسول الله متى اجلك قال دنا الفراق المنقلب الى الله والى جنة الماوى والى سدرة المنتهى والى الرفيق الاعلى الكاس الاوفى والحوض المصفى او العيش المنهى قلنا يا رسول الله من يغسلك قال رجال اهله الا دنى فالادنى قلنا يا رسول الله فقيم تكفك قال

فی ثيابی هذا ان شتمت اوفی ثياب مصر اوفی حلة یمانیه قلنا یا رسول الله  
من یصلی علیک و بکینا و بکی فقال مهلا رحمکم الله و جزاکم الله  
عن نبیکم خیر اذا انتم غسلتمونی و کفتمونی فضعونی علی سریری  
هذا علی شفیر قبری فی بیتی هذا ثم اخرجوا عنی ساعة فان اول من  
یصلی علی حبیبی و خلیلی جبرئیل ثم میکائیل ثم اسرافیل ثم ملک  
الموت مع جنود من الملائكة باجمعهم ثم ادخلوا علی فیجاً فوجاً فصلوا علی  
وسلموا تسليماً ولا تؤذونی یترکته ولا بزنة و یستد بالصلوة علی  
رجال اهل بیت ثم نساؤهم ثم انتم بعد ثم اقرؤا السلام علی من ناب عنی  
من اصحابی و اقرؤا السلام علی من یبقی علی دینی من یومی هذا الی  
یوم القيامة قلنا یا رسول الله من ید خلک قبرک قال اهلی مع ملائكة  
کثیرة یرونکم من حیث لا ترونهم و فی انوار التنزیل والمدارک عن ابن  
عباس انه قال اخر ایه نزل بها جبرئیل و اتقوا ایوما ترجعون فیہ الی الله  
ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون و قال صنعها فی رأس ماتین  
والثمانین من البقرة و عاش رسول الله ﷺ بعدها احداً و عشرین یوماً و  
قیل احداً و ثمانین یوماً و قیل ثلث ساعات و فی تفسیر الزاهدی و بکی  
ابن عباس و قال ختم الوحی بالوعید .

### ذکر ابتداء مرضه ﷺ و کیفیته

روی انه ابتداء به صداع فی او اخر صفر لیلین بقیة منه یوم  
الاربعاء فی بیت میمونة و قیل لیلة و قیل بل فی مفتح الربیع الاول  
و فی الوفاء مرض فی صفر لعشر بقین منه و توفی ﷺ لا ثنی عشرة لیلة  
خلت من الربیع الاول انتهى و ذکر رزین عن ابی حاتم شهر الربیع الاول  
من السنة الحادية عشر و کان ابتداء یوم الاثنین فی بنت میمونة و قیل  
زینب بنت جحش و قیل ریحانة و ذکر الخطابی ان ابتداءه یوم  
الاثنین و قیل السبت و قیل اربعاء قاله الحاکم و حکى فی الروضة  
قولین و فی مدته اختلاف قیل اربعة عشر و قیل اثنا عشر یوماً و علیه

الاكثرون وقيل عشرة وبه جزم سليمان التيمي وهو احد الثقات بان ابتداء  
 مرضه يوم السبت الثاني والعشرين من الصفر ومات يوم الاثنين لليتين خلنا من  
 الربيع الاول وفي الاكفاء لما نقل رسول الله ﷺ من حجة الوداع اقام بالمدينة بقية  
 ذى الحجة وصفر وضرب على الناس وبعث اسامة بن زيد الى الشام وامره ان يوطى  
 الخيل لحوم البلقاء والداروم من ارض فلسطين فتجهز الناس وارعب مع اسامة  
 المهاجرين الاول وكان اخرج بعث بعثه رسول الله ﷺ فينا الناس على ذلك ابتلاء  
 صلوات الله وسلامه عليه بشكوه الذي قبضه الله تعالى فيه الى ما اراد به من رحمته  
 وكرامته في ليال بقين من صفر وفي شهر الربيع الاولي فكان اول ما بدأ به  
 رسول الله ﷺ فيما ذكر انه خرج الى بقيع الغرقد من جوف الليل  
 فاستغفر لهم ثم رجع الى اهله فلما اصبح ابتداء بوجعه في يوم ذالك حدث  
 ابو موهية مولى رسول الله ﷺ قال بعثى رسول الله ﷺ من جوف الليل فقال يا ابا  
 موهية انى قد امرت ان استغفره هل هذا البقيع فانطلق معى فانطلق معه فلما وقف  
 عليهم قال السلام عليكم يا اهل المقابر ليهن عليكم فما اصبحتم فيه مما اصبحت الناس  
 فيه اقبلت الفتنة كقطع الليل المظلم يطبع اخرها اولها ثم اقبل على فقال يا ابا موهية  
 انى قلنا وتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فقال لا والله يا ابا موهية لقد  
 اخترت لقاء ربى والجنة ثم استغفرا هل البقيع ثم انصرف فبدأ به وجعه الذى قبضه  
 الله تعالى فيه وقالت عائشة رجع رسول الله ﷺ من البقيع فوجلتنى وانه اجد صلداً  
 فى رأسى وانا اقول وارساه فقال بل انا والله يا عائشة اقول وارساه قالت وكان  
 يسلىنى بالمزاح على تجشم منه فقال وما ضرّك لو مت قبلى ففتمت عليك  
 وكفنتك وصليت عليك ودفنتك فقلت والله لك انى بك قد فعلت ذلك  
 فرجعت الى بيتى فاعرست فيه ببعض نسائك من اخر ذلك اليوم فتبسم رسول  
 الله ﷺ فتستام به وجعه وهو يدور على نساء حتى اشتد به وهو فى بيت ميمونة  
 فدعا نساءه يستأذنهن فى ان يمرض فى بيتى فاذن له فخرج رسول الله ﷺ يمشى  
 بين رجلين من اهله احدهما لفضيل ابن عباس ورجل اخر عاصبا رأسه يخط قدماه  
 حتى دخل بيتى وعن عباس ان الرجل الآخر هو على بن ابي طالب ثم عز رسول

ﷺ واشتد به وجعه وفي رواية بعد ان قال وار اساه فذهب فلم يلبث الا يسراً  
 حتى جنى به محمولا في كساء فدخل عليّ وبعث الى النساء فقال اني قد اشتكيت  
 واني لا استطيع ان ادور بيتكن فاذن فلا كن عند عائشة فكنت اوضيه ولم اوض  
 احد اقبله وروى ان رسول الله ﷺ كان يتمال في مرضه اين انا غلام اين انا غلام يريد  
 يوم عائشة فاذن له ازواجه يكون حيث يشاء وكان في بيت عائشة حتى مات عنها  
 وفي رواية ان النبي ﷺ كان يحمل في ثوب يطاف به عليّ نساء وهو مريض يقسم  
 بينهن قالت عائشة ثم تما دى به وجعه وهو في ذلك يدور عليّ نساءه حتى اجتمعن  
 راي اهل البيت عليّ ان يلدوه وتخوفوا ان يكون به ذات الجنب ففعله او في رواية  
 عن عائشة قالت كانت تأخذ رسول الله ﷺ الخاصرة فاخذته يوماً واغمى عليه  
 حتى ظننا انه هلك فللدنا ثم فرج عن النبي ﷺ وقلدوه فقال من صنع لي هذا  
 فهينه فاعتلن بالعباس فاتخذ جميع من في البيت العباس سبياً ولم يكن له في  
 ذلك راي فقالوا عمك العباس سبياً ولم يكن له في ذلك راي فقالوا عمك  
 العباس امر بذك وتخوفنا ان يكون ذات الجنب فقال انها من الشيطان ولم يكن  
 الله عز وجل ليسلطها علي ولا ليرمى بها ولكن من هنا عمل النساء لا يقى احد في  
 البيت الا لنا لاعمى عباس فان يمينا لا تنا له فلدواكلهم ولدت ميمونة وكانت  
 صائمة ثم خرج رسول الله ﷺ الي بيت عائشة وكان يومها بين العباس ولي  
 والفضيل يمسك ظهره ورجلاه. تخطان حتى دخل عليّ عائشة فلم يزل عندها  
 مغلوباً لا يقدر علي الخروج من بيتها الي غيره ثم ان وجعه اشتد قالت عائشة جعل  
 يشتكى ويتقلب علي فراشه فقلت له لو منع هذا بعضنا لو جدت عليه فقال ان  
 المؤمنين يشتد عليهم انه لا يصيب المؤمن فكتبته من شوكة فما فوقها لا رفع الله له  
 بها درجة وخط عنه بها خطيته وقالت ما رايت احداً كان اشتد عليه الوجل من رسول  
 الله ﷺ انه كان لا يكاد يقربه عليه من شدة الحمى فقال ليس احد اشدّ بلاء من  
 الانبياء كما يشتد علينا البلاء كذ لك يضا عف لنا الاجر وعن عبد الله بن  
 مسعود قال دخلت علي النبي ﷺ وهو يو عك فقلت يا رسول الله  
 انك لتو عك وعكا شديداً قال اجل اني او عك كما يو عك

رجلان منكم قلت ذلك بان لك اجران قال اجل ذلك و كذلك ما من  
مسلم يصيبه اذى شوكه فما فرقها الا كفر الله بها سياته كما تحط الشجرة ورقها  
راه البخاري وعن عائشة قالت لما اشتد عليه وجعه قال صبر علي من سبع قرب لم  
تحلل او كيتهن لعل استريح فاعهد الى الناس قالت عائشة فاجلسنا ه في منضب  
لحفصة من نحاس و سكينا عليه الماء حتى طفق يشير الينا ان قد فعلت ثم خرج فقام  
يومئذ خطيباً نحمد الله واثني عليه واستغفر للشهداء الذين قتلوا يوم احد .

### ذكر اشتداد مرضه عليه السلام

كانت مدة علته اثني عشر يوماً وقيل ثمانية عشر يوماً وقال رسول الله عليه السلام في مرضه  
سأله ابواب الشوارح الى المسجد الاباب ابي بكر فاني لا اعلم رجلاً احسن يداً  
عندي في الصحابة من ابي بكر وفي رواية ستوا عنى كل خوخة في هذا السجد غير  
خوخة ابي بكر وعن ابن عمر جاء ابو بكر فقال يا رسول الله عليه السلام اين فامرضك  
واكون الذي اقوام عليك قال يا ابا بكر ان لم احمل ازواجي وبناتي واهل بيتي  
علاجي ازادات مصيبي عليهم عظيماً وقد وقع اجر ك علي الله ومما وقع في  
مرضه انه خطب الناس في مرضه وقال في خطبته ان الله تبارك وتعالى خير ابدا بين  
النيا وبين ما عنده فاختر ذلك العبد وما عند الله فبكي ابو بكر فعجبنا من ابي بكر ان  
اخبر رسول الله عليه السلام خبر او كان رسول الله عليه السلام هو الخير وكان ابو بكر اعلمنا وانه اعتق  
في مرضه عليه السلام اربعين نفساً وروى ان رسول الله عليه السلام عليه كان لم يشتك  
شكوى الا سأل الله تبارك وتعالى العافية حتى كان في مرضه الذي توفي فيه فانه لم يدع  
بالشفاء بل عاب نفسه وشرع يقول بالنفس مالک تلودين كل ملاخوم ما وقع في  
مرضه انما اسر الى فاطمة حليتها فبكت ثم اسر اليها حليتها فضحكت قالت عائشة فسألتها  
عن ذلك فقالت ما كنت الافشى سر رسول الله عليه السلام حتى اذا قبض سألتها فقالت انه  
اسر الى فقال جبرئيل كان يعارضني بالقران في كل عام مرة وانه عارضني العام مرتين  
ولا اراه الا وقد حضر اجلي واتي اول بيتي لحوقاي ونعم السلف انالك فبكت  
لذلك ثم قال الاترضين ان تكوني سيلة نساء هذه الامة او نساء المؤمنين فضحكت  
لذلك ومما وقع في مرضه انه عليه السلام كان يصلي بالناس في مدة مرضه وانما انقطع ثلثة

يام وقيل سبع عشرة صلوة فلما اذن بالصلوة في اول ما امتع وعلى صلوة العشاء قال  
 سوا ابوبكر فليصل بالناس وعن الزهري قال النبي ﷺ ابن زمعة مروا بالناس فليصلوا فخرج  
 عبدالله ابن زمعة فلقى عم ابن الخطاب فقال صل بالناس فصلى عمر بالناس فجهر  
 صوته وكان جهير الصوت فسمع رسول الله ﷺ صوته فقال اليس هذا صوت عمر  
 فقالوا بلى يا رسول الله فقال يابى الله ذلك والمؤمنون ليصل بالناس ابوبكر كنافي  
 المنتقى وفي شرح المواقيف ان بلال اذن بالصلاة في زمان مرضه فقال النبي ﷺ لعبد  
 الله بن زمعة اخرج وقل لابى بكر يصلى فخرج فلم يجد على الباب الا عمر في  
 جماعة ليس فيهم ابوبكر فقال يا عمر صل بالناس فلما كبر وكان رجلا صينا سمع  
 النبي ﷺ فقال يابى الله والمسلمون الا ابوبكر قاله ثلاث مرات قال فقال عمر لعبد الله  
 بن زمعتبئس ما صنعت كنت ارى ان رسول الله ﷺ امرك ان تأمرنى قال لا والله  
 وما امرنى ان امر احدا وروى ان بلالا اذن فوقف على الباب فقال السلام عليك  
 يا رسول الله يرحمك الله فقال له مر ابوبكر يصل بالناس فخرج بلال ويده على ام  
 رأسه وهو ينادى واغوثاه وانقطاع رجاء وانكسار ظهراه ليتى لم تللنى امى  
 واذا وللتنى لم اشهد من رسول الله ﷺ يا امرك ان لتعلم فلما نظر ابوبكر  
 خلوا المسجد من رسول الله ﷺ وكان رجلا رقيقا لم يتمالك ان خر مغشيا فضج  
 المسلمون فسمع رسول الله ﷺ الضجة وقال يا فاطمة ما هذا الضجة قالت يا رسول  
 الله ضج المسلمون لفقدهم فدعا يعلى وابن عباس وانكب عليهما وخرج الى  
 المسجد وصلى ثم قال يا معشر المسلمين انتم فى وداع وكنفه والله خليفتى  
 عليكم بتقوى الله وحفظ طاعته فانى مفارق للدنيا .

وعن عائشة قالت لما ثقل رسول الله ﷺ جاء بلال يؤذنه بالصلوة فقال  
 مرو ابوبكر فليصل بالناس قلت يا رسول الله ان ابوبكر رجل اسيف وانه متى يقوم  
 مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر فقال مرو ابوبكر فليصل بالناس قالت فقلت  
 لحفصة قولى له فقالت له حفصة يا رسول الله ان ابوبكر رجل اسيف وانه متى يقوم  
 مقامك لا يسمع الناس فلو امرت عمر فقال ان كن صواحب يوسف مروا ابوبكر  
 فليصل بالناس قال فمروا ابوبكر فلما دخل الصلوة ووجد النبي ﷺ من نفسه خفة فقام

يهادى بين رجلين ورجلاه يخطان فى الارض حتى دخل المسجد فلما سمع ابو بكر  
حسّه ذهب ليتاخر فاوحى اليه رسول الله ﷺ ان قم كما انت ف جاء رسول الله ﷺ  
حتى جلس عن يسار ابي بكر فكان رسول الله ﷺ يصلى بالناس قاعدا او ابو بكر  
قائما يقتلى ابو بكر بصلوة النبي ﷺ الناس يقتلون بصلوة ابي بكر وفى سيرة ابن  
هشام فلما خرج رسول الله ﷺ تفرج الناس فعرف ابو بكر ان الناس لم يصنعوا ذلك  
الا لرسول الله ﷺ فنكص عن مصلاه فلذفع رسول الله ﷺ فى ظهره وقال صل بالناس  
وجلس رسول الله ﷺ الى جنبه فصلى قاعدا عن يمين ابي بكر فلما فرغوا من الصلوة  
قال ابو بكر يا رسول الله انى اراك قد اصبحت بنعمة من الله وفضل كما تحب اليوم  
بنت خارجه انا اتيتها قال نعم قال ثم دخل رسول الله ﷺ وخرج ابو بكر الى اهله بالسبخ  
والروايات متعارضة على ان الامام كان ابو بكر وروى عن ابن عباس انه قال لم يصل  
النبي ﷺ خلف احد من امته الا خلف ابي بكر وصى خلف عبد الرحمن بن عوف  
فى سفر ركعة واحدة وعن ابي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن ابيه انه  
كان مع النبي ﷺ فى سفر غزوة فذهب النبي ﷺ فى سفر غزوة لحاجة فاقاموا الصلوة  
وتقدم عبد الرحمن ف جاء النبي ﷺ وعبد الرحمن قد صلى بهم ركعة وصلى مع الناس  
خلفه واتم الذى فاته وقال ما قبض نبي حتى يصلى خلف صالح من امته كذا فى  
الصفوة وعن مغيرة بن شعبة انه غرامع رسول الله ﷺ غزوة تبوك قال المغيرة فبرز  
رسول الله ﷺ قبل الغائط فحملت معه اداة قبل الفجر فلما رجع اخذت اهريق على  
يديه من الادوية فغسل يديه ووجهه وعلية جبة من صوف فلذهب يحسر عن ذراعيه  
فضاق كم الجبة فاخرج يديه من تحت الجبة والقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه  
ثم مسح ناصيته وعلى العمامة ثم اهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني  
ادخلتهما طاهريتن فمسح عليهما وفى رواية عن المغيرة قلت يا رسول الله انسىت قال  
بل انت نسيت بهلنا امرنى ربي وروى هذه الرواية ابو داود والدارمى معناه قال المغيرة  
ثم ركب وركبت فانهينا الى القوم وقد قاموا الى الصلوة ويصلى بهم عبد الرحمن بن  
عوف وقلركع بهم ركعة فلما احس بالنبي ﷺ ذهب يتاخر فاومى اليه فادرك النبي  
ﷺ وتمت معه فركعتا الركعة التى سبقنا رواه مسلم ذكره فى المشكوة وروى عن

رافع بن عمرو بن عبيد عن ابيه انه قال لما نقل النبي ﷺ عن الخروج امر ابوبكر ان  
 يقوم مقامه فكان يصلي بالناس وربما خرج النبي ﷺ بعد ما دخل ابوبكر في الصلوة  
 ويصلي خلفه ولم يصل خلف احد غيره الا انه ﷺ صلى خلف عبد الرحمن بن  
 عوف ركعة واحدة في سفر وفي اسد الغابة عن الحسن البصري عن علي بن ابي  
 طالب قال قلم رسول الله ابابكر وصلى بالناس واني شاهد غير غائب واني لصحيح  
 غير مريض ولو شاء ان يقلمني لقد مني فريضنا للنينا من رضى الله ورسوله لدينا ومما  
 وقع في مرضه انه ﷺ اشتد وجعه يوم الخميس فاراد ان يكتب كتابا فقال لعبد الرحمن  
 بن ابي بكر اسنى بكتف اولوح اكتب لابي بكر وعن ابن عباس لما حضر رسول  
 الله ﷺ وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب قال النبي ﷺ هل اكتب لكم  
 كتابا لاتصلوه فقال عمر ان رسول الله ﷺ قد غلب عليه الوجع وعندكم القران  
 حسبا كتاب الله فاختلف اهل البيت واخصموا منهم من يقول قلموا اكتب لكم  
 رسول الله ﷺ كتابا لاتصلو بعدة ومنهم من يقول ما يقول عمر فلما كثر اللفظ  
 والاختلاف قال رسول الله ﷺ قوموا عنى فكان ابن عباس يقول ان الرزية كل  
 الرزية ما حال بين رسول ﷺ وبين ان يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغظهم  
 رواه البخارى ومما وقع في مرضه انه ﷺ كان له سبعة دنانير فما توفي حتى انفقها عن  
 سهل بن سعد قال كان عند رسول الله ﷺ سبعة دنانير ووضعها عند عائشة فلما كان  
 في مرضه قال يا عائشة ابغى بالذهب ثم اغمى عليه وشغل عائشة مابه حتى قال  
 ذلك ثلاث مرات فبعث بها الى علي فصدق بها ثم امسى رسول ﷺ ليلة الاثنين في  
 حديد الموت فارسلت عائشة الى امرأة من النساء بمصباحها فقالت اقطرى لنا في  
 مصباحنا من عندك السمن فان رسول الله ﷺ في حديد الموت وقي رواية قال  
 لعائشة وهي مسننته الى صدرها يا عائشة ما فعلت بذلك الذهب قالت هو عندي  
 قال فانفقيه فغشى على رسول الله ﷺ وهو على صدرها فلما افاق عليه الصلوة  
 والسلام قال انفقت تلك الذهب يا عائشة قالت لا فدعا بها ووضعها كلها ومات من  
 ذلك اليوم ومما وقع في مرضه انه ﷺ خير عند موته قالت عائشة كت اسمع انه  
 لا يموت نبى حتى يخير بين الدنيا والاخرة فسمعت رسول الله ﷺ يقول في



اخر مرضه مع الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين  
 وحسن اولئك رفيقا فظنت انه خير وفي رواية مع الرفيق الاعلى في الجنة مع الذين  
 انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك  
 رفيقا ومما وقع مرضه استعمال السواك قبل موته روى عن عائشة انها كانت تقول ان  
 من نعم الله على ان رسول الله ﷺ توفي في بيتي وفي يومى وبين سحرى ونحرى  
 وفي رواية بين حافتي وذقتى وان الله عز وجل جمع ريقى وريقه عند موته وقد دخل  
 على عبد الرحمن بن ابي بكر ويده سواك وانما استلة رسول الله ﷺ فرايته ينظر  
 اليه فعرفت انه يحب السواك فقلت اخذه لك فاشار بالراس ان نعم فتاولته فاشتد  
 على وقلت اليه لك فاشار برأسه ان نعم فلينته فاخذه فامر به وبين يديه ركوة او علة  
 يدخل يديه في الماء فيمسح بها وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات ثم  
 يصب عليه فجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده واخرج الحاكم  
 وابن سعد من طرق انه ﷺ مات واراتسه في جحر على طرفه كلها كما قاله الحافظ  
 ابن حجر لا تخلوا عن شيء فلا يلتفت اليه ومما وقع في مرضه انه كشف الستريوم  
 الاثني عشر فنظر الى الناس وهم في صلوة الفجر عن انس ان ابابكر كان يصلي بهم في  
 وجع رسول الله ﷺ الذي توفي فيه حتى اذا كان يوم الاثني عشر وهم صفوف في الصلوة  
 وكشف النبي ﷺ ستر الحجرة ينظر الينا وهو قائم كان وجهه ورقة مصحف ثم تبسم  
 فهنا ان نفتن من الفرج برؤية النبي ﷺ فنكص ابوبكر على عقبه الصف قطن ان  
 النبي ﷺ خارج الى الصلوة فاشار الينا النبي ﷺ ان اتوا صلوتكم فارخى الستر فتوفي  
 من يومه ومما وقع في مرضه ما روى عن ابن عباس وعليهما خرجا من عند رسول  
 الله ﷺ في مرضه فلقيهما رجل فقال كيف اصبحت رسول الله ﷺ يا ابا الحسن فقال  
 اصبحت بريئا فقال العباس لعلى انت بعد ثلث عبد العصائم خلا به فقال انه بنخيل لي اني  
 اعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت واني خائف ان لا يقوم رسول الله ﷺ من  
 وجعه فاذهب بنا اليه فلنساء له فان يك هذا الامر الينا فعلمنا ذلك وان لم يكن الينا  
 امرنا ان نستوحي بنا خيرا فقال له على رايت اذا اجتاه فلم يعطناها ترى الناس يعطونها  
 والله لا اسألها اياه ابدا ومما جرى في مرضه نزول جبرئيل اليه ﷺ ثلثة ايام قبل موته

برسالة من الله يقول له كيف تجدك وكان ذلك في يوم السبت والاحد واثنين  
واستيلان ملك الموت عليه يوم الاثنين روى عن ابي هريرة ان جبرائيل اتى النبي  
ﷺ في مرضه الذي قبض فيه فقال ان الله تبارك وتعالى يقربك السلام ويقول  
كيف تجدك قال اجلني وجعيا يا امين الله وفي بعض الروايات اجلني يا جبرئيل  
مغموما واجلني يا جبرئيل مكروبا ثم جاء في اليوم الثالث ومعه ملك الموت فقال  
يا محمد ان الله تعالى ان يقربك السلام ويقول كيف تجدك قال اجلني يا امين الله  
وجعامن هنا معك قال هنا ملك الموت وهذا اخر عهدي باللنيا بعدك  
واخر عهديك بها ولن اتى على هالك من ولدادم بعدك ولن اهبطوا الارض الى  
عهدك بعدك فوجد النبي ﷺ سكرة الموت وعنده قدح فيه ماء فكلما وجد  
سكرة اخذ من ذلك الماء ومس به وجهه ويقول اللهم اعني على سكرة الموت  
وعن ابي هريرة ان رسول الله ﷺ قال في وجعه الذي مات فيه ما زالت اكلة خبز  
تعاودني فالان او ان انقطاع ابهرى ونحكي ابن اسحاق انه كان المسلمون ليرون ان  
رسول الله ﷺ مات شهيدا مع ما اكرمه الله به من النبوة اورده في الشفاء وعن عائشة  
قالت كان رسول الله ﷺ يتعوز بهنذه الكلمات اذهب الباس رب الناس اشفع انت  
الشافى لاشفاء الاشفاء ك شفاء لا يغادر سقما متفق عليه قالت فلما ثقل رسول  
الله ﷺ في مرضه الذي مات فيه اخذت بيده فجعلت امسحه بها وتقولها فترع يده  
منى ثم قال رب اغفر لي والحقني بالرفيق الاعلى وكان هذا اخر ما سمعته من كلامه  
اخرجاه في الصحيحين وقال السهيلي وجدت في بعض كتب الواقدي ان اول كلمة  
تكلم بها النبي ﷺ وهو مسترضع عند حليلة الله اكبر واخر كلمة تكلم بها الرفيق  
الاعلى وروى الحاكم من حديث انس ان اخر ما تكلم به ﷺ جلال ربي الرفيع  
كذافي المواهب اللدنية وعن عائشة انها قالت اخر ما عهد رسول الله ﷺ ان قال  
لا يترك بجزيرة العرب دينان وقالت ام سلمة كانت عامة وصية رسول الله ﷺ عند  
موته الصلوة وماملكت ايمانكم حتى جعل ينجلج في صدره وما يفيض بها لسانه  
كذافي الاكفاء وعن انس كانت وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت الصلوة  
وماملكت ايمانكم حتى جعل رسول الله ﷺ يتفرغ غربها في صدره ولا يفيض بها

لسانه وروى انه استأذن عليه ملك الموت فوقف بين يديه عليه السلام فقال يا رسول الله يا احمد ان الله ارسلني اليك وامرني ان اطيعك في كل تأمرني ان امرتني ان اقبض نفسك قبضتها وان امرتني ان اتركها تتركها قال او تفعل يا ملك الموت قال بذلك امرت ان اطيعك في كل ما امرتني قال جبرئيل ان الله قد يشاق اليك قال فامض يا ملك الموت لما به قال جبرئيل يا رسول الله هذا اخرموطى الارض انما كنت حاجتي من الدنيا فتوفى رسول الله عليه السلام في الاكفاء قالت عائشة توفى رسول الله عليه السلام بين سحري ونحري وفي نوبتي لم اظلم فيه احلنا فمن سفهي احدائة سنني ان رسول الله عليه السلام فض وهو في حجرى ثم وضعت رأسه على وسادة وقمت اندب مع النساء واضرب على وجهي ولما توفى رسول الله عليه السلام جاء رجل الثغرية يسمعون الصوت والحس ولا يرون انشخص السلام عليكم يا اهل البيت ورحمة الله وبركاته كل نفس ذائقة الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامة ان في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودر كما من كل فانت بالله واياه فارجوا وانما المصاب من حرم الثوب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال على اتلرون هنا وهو الخضر عليه السلام كذا في المشكوة نقلا عن دلائل النبوة وروى عن انس انه قال لما قبض رسول الله عليه السلام اجتمع اصحابه له ليكون قد دخل عليهم رجل طويل شعر المنكين في ازارور داء يتخبطى اصحاب الله ورسول الله عليه السلام حتى اخذ بعضادتي باب البيت فبكى على رسول الله ثم اقبل على اصحابه فقال ان في الله عزاء من كل مصيبة وعوضا من كل فانت الحليث ثم ذهب الرجل فقال ابوبكر على بالرجل فنظروا ايمينا وشمالا فلم يروا اخذ فقال ابوبكر لعل هنا لخضر جاء يعزينا ورواه ابن ابي الدنيا من حديث على ابن ابي طالب وتكلموا فيه وقد رواه الشافعي في الام وليس فيه ذكر الخضر كذا في المواهب اللدنية .

### ذكر سنة عليه السلام

عن ابن عباس قال انزل على رسول الله عليه السلام وهو ابن اربعين واقام بمكة ثلث عشرة سنة وبالمدينة عشر سنين وتوفى وهو ابن ثلث وستين سنة اخرجاه في الصحيحين وكذا الصحيح في سن ابى بكر وعمر وعائشة ثلث وستون وعن انس انه توفى وله

ستون سنة وفي رواية خمس وستون سنة وصححه في تاريخه وفي تاريخ ابن  
عساكر ثنتين وستون سنة ونصف وفي كتاب ابن ابي شيبة احدى او اثنان لاراه بلغ  
ثلاثا وستين وجمع بين الاقويل بان من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها  
والسنة التي قبض فيها ومن قال ثلثا وستين وهو المشهور اسقطهما ومن قال ستين  
اسقط الكسور ومن قال اثنين ونصف كانه اعتمد على طيبي في الاكليل وفيه كلام  
لم يكن نبي الاعاش نصف عمرا خيه الذي قبله وقد عاش عيسى خمسا وعشرين سنة  
ومائة ومن قال احدى او اثنين فشك ولم يتيقن وكل ذلك انما نشاء من الاختلاف  
في مقام بمكة بعد البعثة والله تعالى اعلم كذا في نسيرة مغلطاني.

### ذكر وقت وفاته ﷺ

توفي يوم الاثنين بلاخلاف نصف النهار لاثني عشرة ليلة خلت من الربيع الاول سنة  
احدى عشرة من الهجرة ضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه وعن ابن عباس ولد  
ﷺ يوم الاثنين واستبنى يوم الاثنين وخرج مهاجرا من مكة الى المدينة يوم الاثنين  
ودخل المدينة يوم الاثنين ورفع الحجر يوم الاثنين وقبض يوم الاثنين وقبض ﷺ في  
كساء ملبد قال ابو بردة اخرجت الينا عائشة كساء ملبد او ازارا غليظا فقالت قبض  
رسول الله ﷺ وارتفعت الرنة عليه وسجته الملائكة دهش الناس كما روى عن غير  
واحل من الصحابة وطاشت عقولهم واقمحو او اختلطوا فمنهم من خيل ومنهم من  
اصمت ومنهم من اقعده الى الارض فكان عمر ممن خيل وجعل يصيح ويقول ان  
رجالا من المنافقين يزعمون ان رسول الله ﷺ مات وانه والله مامات ولكنه ذهب الى  
ربه كما ذهب موسى بن عمران فقد غاب عن قومه اربعين ليلة ثم رجع اليهم بعد ان  
قيل قلمات ووالله ليرجع رسول الله ﷺ كما رجع موسى فليقطعن ايدي رجال  
وارجلهم زعموا ان رسول الله ﷺ مات وفي بعض الروايات اخذ عمر بقاتم سيفه وقال  
لا اسمع احدا يقول مات رسول الله ﷺ الا ضربته بسيفي هذا واما عثمان بن عفان  
فخرس حتى ينهب به وي جاء ولا يتكلم الا بعد الغد واقعد على فلم يستطع حراكا  
واضنى عبد الله بن ابيس فمات كملما ولم يكن فيهم اثبت واجزم من ابي بكر والعباس  
وفي رواية وكان البتيم ابا بكر جاء وعليناه بهلان وزفراته تترددو غصصه تتصاعد

وترفع فدخل على النبي ﷺ فاكب عليه وكشف الثوب عن وجهه وقال طبت  
حياميتنا وانقطع لموتك ما لا ينقطع لاحد من الانبياء فعظمت عن الصفة وجالت  
عن البكا ولوان موتك كان اختيار الجدة الموتك بالنفوس اذ كرنا يا محمد عليه  
وسلم ميل حتى نزل فدخل المسجد فلم يتكلم الناس حتى دخل على عائشة فيتمم  
قصر رسول الله ﷺ هو مغشى بثوب حيرة فكشف وجهه ثم اكب عليه فقبله وبكى  
ثم قال بابي وامى والله لا يجمع الله عليك موتتين الا الموتة الاولى التى كتب  
عليك فقد متها رواه البخارى اختلف فى قول ابى بكر لا يجمع الله عليك موتتين  
ف قيل هو على ظاهره واشار بملك الى الرد على من زعم ان سيجى فيقطع ايدى رجال  
لانه لو صح ذلك للزم ان يموت مائة اخرى فاخبر انه اكرم على الله من انه يجمع  
عليه موتتين كما جمعها على غيره كالذين خرجوا من ديارهم وهم الوف وكالذى  
مر على قرية وقيل ازاد ان لا يموت مائة اخرى فى القبر كغيره ان يجى يسئل ثم  
يموت وقيل لا يجمع الله موت شريعتك وقيل كنى بالموت الثانى عن الكرب اى  
لا تلقى بعد كرب هذا اليوم كربا اخر قاله فى الفتح البارى وعن ابن عمر ان ابا بكر خرج  
وعمر يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فابى عمر ان يجلس فا قبل الناس الى ابى  
بكر وتركو عمر فقال ابوبكر من كان منكم يعبد محمد افان محمد اقل مات ومن كان  
يعبد الله فان الله حى لا يموت قال الله تبارك وتعالى وما محمد الا رسول قد خلت من  
قبله الرسل الاية قال والله فكان الناس لم يعلموا ان الله انزل هذه الاية حتى  
تلاها ابوبكر وفى صحيح البخارى لما تكلم ابوبكر جلس عمر فحمد الله ابوبكر  
واثنى عليه وقال الاعن لربك ولتكن ببالك وفى رواية لمعات رسول الله ﷺ  
اختلفوا فى انه هل مات ام لا قال انس لما توفى رسول الله ﷺ بكى الناس فقام عمر بن  
الخطاب فى المسجد حفيظاً فقال لا اسمعن ان محمداً قلمات ولكنه ارسل اليه  
كما ارسل الى موسى ابن عمران فلبث عن قومه اربعين ليلة والله لا رجوا ان يقطع  
ايدى رجال وارجلهم يزعمون انه قلمات قال عكرمة مازال عمر يكلم ويوعد الناس  
حتى ازيد شلقة فقال العباس ان رسول الله ﷺ وسلم يأسن كما تأسن الناس وانه

قدمات فادفوا صاحبكم ولما توفي رسول الله ﷺ كان ابوبكر غائبا بالسبخ يعني العالية  
 غلزو جته بنت خارجه وكان عليه الصلوة والسلام قد اذن له في الذهاب اليها فسل  
 عمر بن الخطاب سيفه ويوعده من يقول مات رسول الله ﷺ فاقبل ابوبكر من السبخ  
 حين بلغه الخبر الى بيت عائشة فدخل فكشف عن وجه رسول الله ﷺ فحني يقبله  
 ويكي ويقول توفي والذي نفسي بيده صلوات عليك يا رسول الله اطيعك حيا  
 وميتا ذكره الطبري في الرياض وفي بعض الروايات فوضع البرد عن وجهه ووضع  
 فاه على فيه واستنشى الريح ثم سجاه اى شم ريح الموت وروى عن عائشة ان  
 ابابكر اقبل على فرس من مسكنه بالسبخ منازل بنى الحارث بن الخزرج بعوالي المد  
 بينه وبين منزل النبي ﷺ من كان يعبد فان محمدا محمدا قدمات ومن كان يعبد الله فان الله  
 حتى لا يموت وقال انك ميت وانهم ميتون وقال وما محمد الا رسول قد خلت  
 من قبله الرسل الآية قال فشج الناس يكون وفي حديث ابن عمر عن ابي شيبة ان  
 ابابكر مرمعمر وهو يقول ما مات رسول ﷺ حتى يقتل الله المنافقين وفي رواية حتى  
 يفنى المنافقين قال وكانوا اظهروا. لاستبشار ورفعوار وسهم فقال ايها الرجال ان  
 رسول ﷺ قد مات الم تسمعوا الله يقول انك ميت وانهم ميتون وقال وما جعلنا  
 لبشر من قبلك الخلد ثم اتى المنبر الحديث وعن انس بن مالك انه سمع عمر بن  
 الخطاب في حين بويع ابوبكر في مسجد رسول ﷺ واستوى على منبره عليه الصلوة  
 والسلام تشهد ثم قال واما بعد فاني قلت لكم امس مقالة وانها لم تكن كما قلت والله  
 انى ما وجدت المقالة التى قلت لكم فى كتاب الله ولا فى عهد رسول ﷺ يد يرناى  
 يكون اخرنا موتا او كما قال فاختر الله عزوجل لرسوله الذى عنده على الذى عندكم  
 وهذا الكتاب الذى هدى الله به رسوله فخذوا به نهتوا كما هدى به رسول  
 الله ﷺ قال ابو نصر كانه قال ما قال لعظم ماورد عليه وخشى الفتنة وظهور المنافقين  
 فلما شاهد قوة يقين الصديق الاكبر وتفوهه بقول الله عزوجل كل نفس ذائقة الموت  
 وقوله انك ميت وانهم ميتون رجع عن قوله المذكور انتهى. واخرج ابن عساكر عن  
 ابي ذؤيب الهنلى قال بلغنا ان النبي ﷺ عليل فاجس اهل الحى خيفة وبت بلبية تطويلة  
 حتى اذا كان قربه السحر تمت فهتف هتاف وهو يقول: شعر:

خطب اجل اناخ بالاسلام بين الخيل ومقعد الاطام ا  
قبض النبي محمد فعيوننا تبلى الدموع عليه بالاسجام  
فوثبت من نومي فزعافنظرت الى السماء فلم ارا لسعد الذبح فعلمت ان  
النبي ﷺ قد قبض او هومت فهدمت المدينة ولاهلهما ضجيج بالبكاء كضجيج الججيج اذا  
احلوا بالا حرام فقلت مه قليل قبض رسول ﷺ وفي حيوه الحيوان للد ميري عن الواقدي  
عن شيوخه انهم قالوا المشك في موت النبي ﷺ وضعت اسماء بنت عميس يدها بين كفيه  
فقال توفى رسول ﷺ فلرفع الخاتم من بين كفيه و كان هذا الذي قد عرف به موت  
النبي ﷺ اخرج البيهقي وابو نعيم وروى عن أم سلمة انها قالت وضعت يدي على  
صدر رسول الله ﷺ يوم مات فمري جمع الطعام واتوضا متذهب ريح المسك من يدي  
واخرج ابو نعيم عن علي قال لما قبض رسول الله ﷺ صعد مالك الموت باكي الى السماء  
والذي بعثه بالحق لقد سمعت صوتا ينادى من السماء يا محمد اكل المصاب تهون عند  
هذه المصاب وفي سنن ابن ماجه انه ﷺ قال في مرضه ايها الناس ان احد امن الناس او من  
المؤمنين لو اصاب بمصيبة فلتعبر بمصيتي في حين المصيبة التي تصيبه بعلي فان احد امن  
اهتى لن يصاب بمصيبة بعد اشد عليه من مصيتي .

### ذكر غسله ﷺ

ولما فرغ الناس من بيعة ابي بكر وجمعهم الله ومما اهتم به اصحابه بعد  
موته ﷺ وتقرر الامر على ابي بكر فلما فرغوا من بيعته اقبلوا على تجهيز النبي ﷺ و  
الاشتغال به وروى انه سئل ابن عباس كيف كان غسل النبي ﷺ قال ضرب العباس كلة  
له من ثياب يمانية صفات فصارت سنة فينا وفي كثير من صالحى الناس ثم اذن لرجال  
من بنى هاشم فعدوا بين الحيطان والكلة ثم دخل العباس الكلة ودعا عليا والفضل  
اباسفيا بن الحارث واسامة بن زيد فلما اجتمعوا فى الكلة القى عليهم العباس وعلى من  
وراء الكلة فى البيت فناداهم مناد انتهبوا به وهو يقول لا تغسلوا النبي ﷺ فان كان ظهرا  
فقال . الايلى وقال اهل البيت صدق فلا تغسلوا فقال العباس لاندع سنة بصوت  
لاندرى ما هو وغلبيهم العباس ثانيا فناداهم مناد فانتهبوا به وهو يقول اغسلوا رسول  
الله ﷺ فى ثيابه فقال اهل البيت الا فقال الانعم وقد كان العباس حين دخل الكلة

للغسل قعد متربعا واقعد عليا متربعا متواجهان واقعد النبي ﷺ علي حجورهما  
 فردوا ان اضجعوا رسول الله ﷺ علي ظهره ثم اغسلوه واستروه فشاروا عن الصفيح  
 واضجعاه وغربا رجل الصفيح وشرقا رأسه ثم اخلوا في غسله وعليه قميصه  
 ومجولة مفتوح الشق ولم يغسلوه الا بالماء القراح وطبوه بالكافور ثم اعتصر قميصه  
 ومجولة وجمروه عودا وتراثم احتملوه حتى اوضعه علي سريره وسجوه وروى عن  
 ابن عباس انه كان يقول استرونيكم يستركم الله قالت عائشة لما ارادوا غسل رسول  
 الله ﷺ اختلفوا فيه فقالوا والله مانلرى انجرّد رسول الله ﷺ كما تجرد موتانا او نغسله  
 وعليه ثيابه فلما اختلفوا اتى الله عليه النوم حتى مامنهم رجل الا وذقنه في صدره  
 وكلمهم متكلم من ناحية البيت لا يدرّون من هو ان اغسلوا النبي ﷺ وعليه ثيابه  
 فقاموا الي رسول الله ﷺ وغسلوه وعليه قميصه وفي المشكوة يصبون الماء فوق  
 القميص ويدلكونه بالقميص رواه البيهقي في دلائل النبوة وكانت عائشة تقول  
 لو استقبلت من امرى ما استلبرت فاغسل رسول الله ﷺ الانساءه ويروى عن غير  
 واحد ان الذين تولوا اغسلوا ﷺ ابن عمه علي بن ابي طالب وعمه العباس بن عبد  
 المطلب وابناه الفضل وقثم مؤلا ه اسامة بن زيد ومولا ه شقران ولما اجتمع القوم  
 لغسل رسول الله ﷺ نادى من وراء الباب اوس بن خولى الانصارى احد بنى عوف  
 بن الخزرج وكان بلديا علي ابن ابي طالب فقال يا علي انشلتك الله حظنا من  
 رسول الله ﷺ فقال له ادخل فدخل فحضر غسل رسول الله ﷺ ولم يل من غسله  
 شيئا وقيل كان يحمل الماء قال فاسنله علي الى صدره عليه قميص وكان العباس  
 والفضل وقثم يلقبونه مع علي وكان اسامة وشقران يصبان الماء عليه واعينهم معصوبة  
 من وراء الستر لحديث علي الا يغسله احد الا انت وفي رواية اما في رسول الله ﷺ  
 لا يغسله غيرى فانه لا يرى احد احد عورتى الا طمست عيناه كذا في سيرة مغلطاني  
 وفي الشفاء علي يغسله بالماء والسكر ولم ير من رسول الله ﷺ شى مما يرى من  
 الميت وهو يقول بابى انت وامى ما طيبك حيا وميتا وروى ابن ماجه بسند جيد عن  
 علي يرفعه اذا نامت فاغسلوانى بسبع قرب من بشرى بشر غرس قال في النهاية يفتح  
 الغين المعجمة وسكون الراء والسين المهملة وكان رسول الله ﷺ يشرب منها



وقلروى ابن النخار انه عليه الصلوة والسلام قال رأيت الليلة انى اصبحت على بير ان الجنة فاصبح على بئر غرس فوضاً وبزق فيها كذا فى تاريخ المدينة للسمودى وجعل على على يده خرقة وادخلها تحت القميص كذا فى سيرة مغلطائى وروى ان الغسلة الاولى كانت بالماء القراح والثانية بالماء والسر والثالثة بالماء والكافر وروى ان الغسلة الاولى كانت بالماء القراح والثانية بالماء والسر والثالثة بالماء والكافر وروى جعفر بن محمد قال كان الماء يجتمع فى جفون النبي ﷺ وكان على يشربه وفى شواهد النبوة سئل على عن سبب فهمه وحفظه قال لما غسلت النبي ﷺ اجتمع ماء فى جفونه فرفحته بلسانى وازددتة فاوى قوة حفظى منه ويقال ان عليا والفضل كان غسلا رسول الله ﷺ فودى على ان ارفع طرفك الى السماء اورده فى الشفاء .

### ذكر تكفينه ﷺ

فلما فرغوا من غسله جففوه ثم صنع به ما يصنع بالميت ثم اخرج فى ثلاثة اثواب ثوبين ابيضتن وبرد حيرة وبالا كفاء قال الترمذى فذكر عائشة قولين فى ثوبين وبرد حيرة قالت قد اتى اولكنهم رتوه ولم يكفوه فيه وعن عباس ان النبي ﷺ كفن فى ريطتين وبردنجرانى وعن عائشة قالت كفن النبي ﷺ فى ثلاثة اثواب بيض سحولية بلدة من اليمن من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة قال دخلت على ابى بكر فى مرضه ثم نظرت الى ثوب عليه كان بمرض فيه به ردع من زعفران قال اغسلوا ثوبى هذا وزيد واعليه ثوبين تكفونى فيها قلت ما هذا خلق قال ان الحى احق الجليد من الميت انما هو للمهنته رواه البخارى وقى مؤطا الامام ابى عبد الله مالك بن انس كفن رسول الله ﷺ فى ثلاثة اثواب جهرة وسحارين ولا بى داود فى ثلاثة اثواب نجرانية وفى الاكليل كفن فى سبعة اثواب وجمع فيها بانه ليس فيها قميص ولا عمامة محسوبا وفى حليث تفرديز بن ابى زياد هو ضعيف وحظ بكافور وقيل يمسك كذا فى سيرة مغلطائى وفى حليث عروة عن عائشة قالت كفن رسول الله ﷺ فى ثلاثة اثواب سحولية بيض اخرجت النساءى من رواية عبدالرزق عن معمر عن الزهرى عن عروة وانفق عليه الائمة السنة من طريق هشام بن عروة عن عائشة بزيادة من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة وفى رواية البيهقى فى ثلاثة اثواب

صحولية جلد السحولية بفتح السين وضمها قال النووي والفتح اشهر وهو رواية  
 البيهقي والاكثرين فالفتح منسوب الى السحول وهو القصار لانه يسحلها اي يغسلها  
 والى سحول وهي قرية باليمن واما الضم فهو جمع سهل وهو الثوب الابيض النقي  
 لا يكون الامن قطن وفيه شئو ذلانه نسب الى الجمع وقيل انه اسم القرية هنا بالضم الكاف  
 اسكان الراوضم السين المهملة والفاء القطن فقال الترمذي روى في كفن النبي ﷺ  
 روايات مختلفة وحديث عائشة اصح احاديث في ذلك والعمل عليه عند اكثر اهل  
 العلم من الصحابة وغيرهم وقال البيهقي في الخلافات قال ابو عبيد الله يعني الحاكم  
 تواترت الاخبار عن علي بن ابي طالب وابن عباس وعائشة وابن عمرو وجابر ابن عبد الله  
 وعبد الله ابن مغفل عنهم في تكفين النبي ﷺ في ثلثة اثواب ليس فيها قميص ولا عمامة  
 وعن عبد الله ابن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي ان رسول الله ﷺ كفن في  
 سبعة اثواب روى هذا الحديث احمد في مسنده وفي ذكر ابن الحزم ان الوهم فيه من ابن  
 عقيل او ممن بعده وقد اختلف في معنى قوله ليس فيها قميص ولا عمامة فالصحيح ان  
 معناه انه ليس في الكفن ولا عمامة اصلاً والثاني ان معناه انه كفن في ثلثة اثواب خرج عن  
 القميص والعمامة قال الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد الاول اظهر في  
 المراتب ذكر النووي في شرح صحيح مسلم ان بالاول قال جمهور العلماء وقال  
 هو الصواب الذي يقتضيه ظاهر الحديث وقال الثاني ضعيف فلم يثبت انه ﷺ كفن في  
 قميص وعمامة انتهى قالوا او يترتب على هذا الاختلاف في تفسير الحديث اختلافهم  
 في انه هل يستحب ان يكون في الكفن قميص لتصير خمسة فذكر الحنابلة انه مكروه  
 وقال الشافعية انه جائز غير مستحب وقال المالكية انه يستحب للرجال والنساء وهو في  
 حق النساء اكلوا قالوا او الزيادة الى السبعة غير مكروهة وما زاد عليها سرف وقال الحنفية  
 ان الاثواب الثلثة ازارو قميص ولقافة وفي الحديث دلالة على ان القميص الذي غسل  
 فيه نزع عنه عند تكفينه قال النووي في شرح مسلم وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره  
 واما الحديث الذي في سنن ابي داود عن ابن عباس ان النبي ﷺ كفن في ثلثة اثواب الحلة  
 الثوبان وقيصه الذي توفي فيه فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به لان يزيد بن زيد  
 احلوانه مجمع على ضعفه ولا سيما قد خالف بروايته الشقاة .

## ذكر الصلوة عليه صلى الله عليه وسلم

وروى عن محمد وانه صلى الله عليه وسلم بغير امام وفي رواية افراد الا يؤمهم احد يدخل المسلمون زمرا فيصلون عليه ويخرجون فلما صلى عليه نادى عمر خلو الجنازة اهلها وفي رواية صلى عليه علي والعباس وبنو هاشم ثم داخل المهاجرون ثم الانصار اثم الناس يصلون عليه افراد الا يؤمهم احد ثم النساء ثم الغمان قيل انه اوصى بذلك لقوله عليه الصلوة والسلام اول من يصلي على ربي ثم جبريل ثم ميكائيل ثم اسرافيل ثم ملك الموت مع جنوده ثم الملائكة ثم ادخلوا فوجا بعد فوج الحديث وفيه ضعف بل كانوا يدعون وينصرفون قال ابن الماجشون لما سئل كم صل عليه صلوة قال اثنان وسبعون الف صلوة فقل من اين لك هذا قال من الصندوق الذي تركه مالك بخطه عن نافع عن ابن عمر كذا في سيرة مغلطائي وفي حديث ابن ماجه لما فرغوا من جهازه صلى الله عليه وسلم هوم الثلثاء وضع على سريره في بيته دخل الناس عليه صلى الله عليه وسلم ارسلا يصلون عليه ثم اذا فرغوا دخل النساء حتى اذا فرغن دخل الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم احد وفي رواية ان اول من صلى عليه الملكة افواج اثم اهل بيته ثم الناس فوجا فوجا ثم نساءه اخر وروى انه لم صل عليه اهل بيته لم يدر الناس ما يقولون فسئلوا ابن مسعود فامرهم ان يسئلوا عليا فقال لهم قولوا ان الله وملكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ليك اللهم ربنا وسعديك صلوات الله البر الرحيم الملكة المقربين والنبيين والصدّيقين والشهداء والصلحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وامام المتقين ورسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي اليك باذنك السراج المنير وعليه السلام ذكره الشيخ زين الدين المراغي في كتابه تحقيق النصرة.

## ذكر دفنه و كيفية قبره صلى الله عليه وسلم

كان في المدينة حفاران احدهما يلدحوا الاخر يدحودعا العباس رجلين. فقال ليذهب احدكما ابي عبيد بن الجراح وهو كان يلدح لاهل مكة وليذهب الاخر الى ابي طلحة الانصاري وهو كان يلدح لاهل المدينة ثم قال العباس اللهم خزل رسولك فلما فلم يجد صاحب ابي عبيد ابا عبيد قور وجد صاحب ابي طلحة فلحده رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع دفنه بكة او بالمدينة وفي البقيع او القدس معنى قال ابو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يقبر نبي الا حيث يموت وفي رواية ما قبض الله نبي الا في الموضع الذي يحب ان يدفن فيه فاخروا فراشه واحفروا له تحت فراشه و نزل في قبره على بن ابي طالب والعباس والفضل والقثم ابنا العباس وكان اخر الناس عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لانه اخر من صعده من قبره. واما قصة المغيرة وطرح خاتمه في القبر

ونزوله فيها لخرجه فغير صحيح والله تعالى اعلم وشقران مولى رسول الله ﷺ وقيل ان اوس ابن خولى قد قال لعلى بن ابي طالب يا على انشدك بالله حظنا من رسول الله ﷺ فقال له انزل فنزل مع القوم وكانوا خمسة وفي رواية عن على نزل في حفرة النبي ﷺ هو العباس وعقيل بن ابي طالب واسامه بن ابن زيد وابن حولى وهم الذين تولوا كعبة والاول اصح وقد كان شقران حين وضع رسول الله ﷺ في خفرتة اخذ قطيفة نجرانية حمراء صابها يوم خيرو كان رسول الله ﷺ يلبسها ويفرشها فطرحها تحته فدفنها معه في قبره فقال والله لا يلبس احد بعدك ونبي في وقبره اللبن يقال تسمع لبنات قيل فلما فرغوا عن وضع اللبنة اخرجوا القطيفة قال ابو بكر وعمر والحاكم قال النووي وقد نص الشافعي وجميع اصحابه وغيرهم من العلماء وعلى كراهة وضع قطيفة او نحو ذلك تحت الميت في القبر وقد شد البغوي من اصابتنا فقال لا بأس بذلك لهذا الحديث والصواب كراهة ذلك كما قال الجمهور واجابوا عن هذا الحديث بان شقران انفراد بفعل ذلك ولم يوافق احد من الصحابة وانما فعله شقران لما ذكرنا عنه من كراهية ان يلبسها بعد النبي ﷺ انتهى وقد صح انها اخرجت يعني القطيفة من القبر لما فرغوا من وضع اللبنة التسع كذا في سيرة مغلطاني ثم هاتوا التراب على لحدده وجعل قبره مسطوحا وفي المشكوة عن جابر وكان الذي رش الماء على قبره ﷺ بلال بن رباح بقربة بدمان قبل رأسه حتى انتهى على رجليه رواه البيهقي في دلائل النبوة وعن سفيان بن نمازانه راه مسنما وفي صحيح البخاري من حديث ابي بكر بن عياش انه رأى قبر النبي ﷺ مسنما اي مرتفعا زاد ابو نعيم وهو قول ابي حنيفة ومالك واحمد والمزني وكثير من الشافعية وبعض قلماء الشافعية استحبو التسطيع ويحتمل ان يكون في الاول مسطوحا وقيل روى ابو داود الحاكم انه كشف عائشة للقاسم بن محمد قبره ﷺ وعن قبر صاحبيه ثلثة قبور لامشوفة ولا لاطينة مطبوعة بيطحاء العرصة الحمداء وفي رواية حمراء وبيضاء ورفع قبره من الارض قلر شبر وهذا كان في خلافة معاوية فكانها كانت في الاول مسطحة ثم لما بنى جدار القبر في امارة عمر بن عبد العزيز على المدينة من قبل الوليد بن عبد الملك صيرؤها مرتفعة ثم الخلاف في ان ايها افضل والاصل الجواز ويرجع الستطيع بما رواه مسلم من حديث فضالة بن ابي عبيدانه مر بقبر فسوى ثم قال سمعت رسول الله ﷺ يأمر بتسويتها ورسول الله ﷺ مقدم وابوبكر عند رأسه بين كفى النبي ﷺ وعمر عند رجليه هكذا.

قبر عمر

قبر ابي بكر

قبر النبي

قبر  
عمر

قبر  
النبي

كذا نقله السمودى فى خلاصة الوفا:

وذكر رزين ان رسول الله ﷺ مقلّم و ابو بكر

خلف رأسه عند منكيه ﷺ وطالت

رجلاه اسفل وعمر خلف ابى بكر هكذا

قبر  
ابى بكر

قبر  
ابى بكر

قبر  
النبي

قبر  
عمر

واما صفة القبور الشريفه بالحجرة المنيفة

فقد اختلف فيها على نحو سبع كيفيات ذكرناها فى الاصل باولتها والذى عليه  
الاكثر ان النبي ﷺ امامها الى القبلة مقلّمًا اى لجد ارقبة كما سيأتى ثم قبر ابى بكر  
عنده حذاء منكى رسول الله ﷺ ثم قبر عمر عند مكى ابى بكر وهذه صفة نقل  
من خلاصة الوفاء بعينها. وفى حديث عائشة قالت قال رسول الله ﷺ فى مرضه  
الذى لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور انبياءهم مساجد  
لولا ذلك ايرز قبره غير انه خشى او خشى ان يتخذ مسجدا على شك الراوى  
على صيغه المجهول او المعلوم فعلى الاول الضمير للشان ومقتضاه انهم فعلوا  
ذلك باجتهادهم والثانى يقتضى ان النبي ﷺ هو الذى امرهم بذلك ومعنى  
ابرز قبره كشف قبره ﷺ ولم يتخذ الحائل والمراد الدفن خارج بيته وهذا قالته  
عائشة قبل ان يوضع المسجد ولهذا الموضع المسجد جعلت حجرتها مثلثة  
اشكل محلودة حتى لا يتانى لاحدان يصلى جهة القبر الكريم مع استقبال القبلة  
ونقل اهل السير عن سعيد بن المسيّب قال بقى فى البيت موضع قبر فى السهوة  
الشريفة يلفن فيه عيسى ابن مريم عليهما السلام.

## ذكر وقت دفنه عليه السلام

اختلف في وقته روى عن عائشة قالت ما علمناه بدفن رسول الله عليه السلام حتى سمعنا صوت المساحي ليلة الثلاثاء في السحرو في المؤطابليغ مالكانه عليه السلام توفي يوم الاثنين ودفن يوم الثلاثاء والترمذي في ليثها في مكانه الذي توفي فيه. وروى عن محمد ابن اسحق انه قال قبض رسول الله عليه السلام يوم الاثنين فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء ودفن في الليل اي ليلة الاربعاء وقيل يوم الثلاثاء وحين زاغت الشمس وفي كفاية الشعبي صلوا عليه عليه السلام يوم الاربعاء ثم دفن فان قلت لم اخردفنه عليه السلام وقد قال لاهل بيت اخروا دفن ميتهم وعجلوا دفن ميتكم ولا تؤخروه فالجواب لماذا ذكر من علم اتفاهم على موته او لاختلافهم في موضع الدفن اولانهم اشتغلوا في الخلاف الذي وقع بين المهاجرين والانصار حتى استقر امر الخلافة التي هي اهم مهمات الدين فبايعوا ابا بكر ثم بايعوه بعد بيعة اخرى في ملامنهم ثم رجعوا بعد ذلك الى النبي عليه السلام وفي رواية الترمذي عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله عليه السلام المدينة اضاء منها كل شئ فلما كان اليوم مات فيه اظلم منها كل شئ وما نفضنا ايدينا من التراب وانا لفي دفنه حتى انكرنا قلوبنا.

## ذكر الندبة عليه و مرثيته عليه السلام

ولما دفن عليه السلام جاءت فاطمة فقالت كيف طابت انفسكم ان تحشوا على رسول الله عليه السلام التراب رواه البخاري وفي رواية اخرى لما فرغوا من دفنه عليه السلام خرجت فاطمة قالت يا ابا الحسن دفنتم رسول الله عليه السلام قال نعم قالت كيف طابت قلوبكم ان تحشوا التراب على رسول الله عليه السلام اليس ذلك نبي الرحمة قال نعم ولكن لامر لا امر الله تعالى فقعدت تندب على رسول الله عليه السلام وتقول يا ابااه وارسول الله ونبي الرحمة الآن لا ياتي الوحي الآن ينقطع عنا جبرئيل اللهم الحق روي بروحه واشبعني بالنظراني وجهه والاتحرمني اجره وشفاعته يوم القيامة وفي رواية اخذت تربت من تراب رسول الله عليه السلام وشممت ثم انشدت . شعر :

ماذا على من شم تربة احمد ان لا يشم ملهى الزمان غواليا

صبت على مصائب لو انها اصببت على الايام صبرن ليا ليا

وفي الاكفاء مما ينسب الى اوفاطمة شعر :

ماذا علي من شم البيتين وعن انس قال لما نزل النبي ﷺ

جعل يتغشاها الكرب فقالت فاطمة واكرب ابناه قال رسول الله ﷺ ليس علي

ايك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا ابتاه اجب رباً دعاه يا ابتاه جنة الفردوس ماواه يا ابتاه

الي جبرئيل اتعاه فلما دفن قالت يا انس اطابت انفسكم ان تحثوا علي رسول الله ﷺ التراب

انفرد باخراجه البخاري وزاد الطبراني يا ابتاه عن ربه ما ادناه وقد عاشت فاطمة بعله ﷺ

سنة اشهر فما ضحكت تلك الملة ويحق لها مثلي ذلك ويروي عن انس قال مررت

علي باب عائشة وكانت تلبس النبي ﷺ يامن لم يشبع من خبز الشعير يامن اختار الحصر

علي السرير يامن لم يتم الليل كله من خوف السعير وعن عائشة ان ابابكر دخل علي

النبي ﷺ بعد وفاة فوضع فاه بين عينيه فوضع يده علي صدغيه فقال وانيه واخيلاه

واصفياه وفي رواية قالت لما توفي رسول الله ﷺ جاء ابوبكر فدخل عليه ورفع الحجاب

وكشف الثوب من وجهه فلستر جمع فقال مات ارا الله رسول الله ﷺ ثم تحول من قبل راسه

فقال وانيه ثم جلد راسه وقيل جبهته ثم رفع راسه فقال واخيلاه ثم جلد راسه وقيل جبهته

فقال واصفياه ثم جلد راسه ثم جبهته ثم استجاب بالثوب ثم خرج وذكر ابو العباس القصاب

في شرحه لبردة لبوصيري انه لما تحقق عمر ابن الخطاب موته ﷺ يقول ابي بكر الصديق

ورجع الي قوله قال وهويكي بلي انت وامى يارسول الله ﷺ لقد كان لك جذع

تخطب الناس عليه فلما كثروا اتخلت منبراً لتسمعهم نحن الجزع بفراقك حتى جعلت

يدك عليه فسكن فامتك اوتى بالحين عليك حين فارقتهم بلي انت وامى يارسول

الله ﷺ لقد بلغ من فضيلتك عند الله ان جعل طاعتك طاعة فقال من يطع الرسول فقد

اطاع الله بابي انت وامى يارسول الله ﷺ لقد بلغ من فضيلتك عنده ان بعك

اخر الانبياء وذكر في اولهم فقال الله تعالى لقد اخلنا من النبيين ميثاقهم ومنك من نوح

بابي انت وامى يارسول الله ﷺ لقد بلغ من فضيلتك عنده ان اهل النار يوتون ان يكونوا

مطيعك وهم بين اطباقيا يعذبون يقولون يا ليتنا اطعنا الله اطعنا الرسول وقال ابو الجواز كان

الرجل من اهل المدينة اذا صابته مصيبة جاء اخوة يصفحه ويقول يا عبد الله اتق الله فان في

رسول الله ﷺ اسوة حسنة قال قائلهم . شعر :

اصير بكل مصيبة او تجلد !

واعلم بان المرأ لم يخلد غير مخلد

واصبر كما صبر الكرام فانها نوب تنوب اليوم تكشف في غد  
واذاتك مصيبة تشجى بها فاصبر مصابك بالنبي محمد

وقال اخر شعر:

تذكرت لما فرق الدهر بيننا فغزيت نفسي بالنبي محمد

وقلت لها ان المنايا سبيلنا فمن لم يمت في يومه مات في غد

وروى ان بلالا لما كان يؤذن بعد وفاته عليه السلام فاذا قال اشهدان محمدا رسول الله عليه السلام

ارتج المسجد بالبكاء والنحيب فلما دفن ترك بلال الاذان شعر:

لو ذاق طعم الفراق رضوى لكان من وجده يمد

قد حملوني عذاب شوق يعجز عن حمله الحديد

ورثته عليه السلام عمته صفية بمرأى كثيرة فيها قولها شعر:

الا يا رسول الله كنت رجاءنا و كنت بنا براء ولم تك جافيا

و كنت رحيمًا هاديًا ومعلمًا ليك عليك اليوم من كان باكيًا

لعمرك ما ابكى النبي لفقده ولكن لم اخشى من الهجراتيا

كان على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا

افاطم صلى الله رب محمد على جدث امسى بيثرب ثاويًا

فدى لرسول الله امى وخالتى وعمى وخالتى وماليا

فلوان رب الناس ابقى محمدًا سورنا ولكن امره كان فاضيا

عليك من الله السلام تحية وادخلت جنات من العلىن راضيا

ورثاه ابوسفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عمه عليه السلام شعر:

ارقت نبت همى لا يزول ا و ليل اخى المصيبة فيه طول

واسعد فى البكاء وذاك فيما اصيب المسلمون به قليل

لقد عظمت مصيبتنا او جلت عشيته قيل قد قبض الرسول



واصحت ارضنا ماعراها  
فقدنا الوحي والتنزيل فينا  
وذاك احق ما سالت عليه  
نبي كان يجلو الشك عنا  
ويهدينا فلانخشي ضلالا  
أفأطمه ان جزعت فلناك عنر  
فقبر ابيك سيد كل قبر  
ورثا الصديق بقول شعر:

لما رأيت نبينا مستنجدا  
فارتاع قلبي عند ذاك بهلكة  
عتيق ويحك ان حُك قد توى  
يا ليتني من قبل مهلك صاحبي  
فلتحدثن بدائع من بعده  
ورثا عليه السلام الصديق عليه السلام ايضا بقوله: شعر:

ودعنا الوحي اذ ولت عنا  
سوى ما قد تترك لنا رهينا  
وقال الحسن شعر:

كنت السواد لنا ظري  
من شاء بعدك فليمت  
فعمى عليك الناظر؛  
فعليك كنت الحاذر؛

ذكر ميراثه وتركته وحكمه فيها عليه السلام

ما ترك عليه السلام عند موته درهما ولادينا راولا عبدا ولا شيئا الا بغلته؛  
البيضاء وسلاحه وارضا جعلها صدقة وفي خلاصة السير ترك رسول الله عليه السلام  
يوم مات ثوبي حيرة وازارا يمانيا وثوبين صحارين وقيصا صحاريا وقيصا سحوليا  
اوجبة يمنية وحميصا وكساء ابيض وفلانس صغارا لاطية ثلثا واربعاً وازارا  
طوله خمسة اشبار وملحفة مودسة وقال رسول الله عليه السلام نحن معاشر الانبياء

لا تورث ما تركناه صدقة وقال ﷺ لا تقسم ورثتي ديناراً ولا درهماً ما تركت بعد نفقة نسائي و مئونة عيالي فهو صدقة ط

وعن ابي هريرة قال جاءت فاطمة بنت رسول الله ﷺ الى ابي بكر فقال من يرثك قال ولدي واهلي فقالت مالي لا ارث ابي فقال ابو بكر سمعت رسول الله ﷺ يقول كل مال نبي صدقة الا ما اطعمته انا لا تورث ولكني اعول على من كان رسول الله ﷺ يعول وانفق عليه وعن عائشة سألت ابا بكر بعد وفات رسول الله ﷺ ميراثه من تركته رسول الله ﷺ من خير وفدك وصدقة بالمدينة فقال

ابو بكر ان رسول الله ﷺ قال لا تورث ما تركناه صدقة فابي ابو بكر ان يدفع الى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة على ابي بكر وصلى عليها علي وكان لعلي من الناس جهة حيو فاطمة فلما توفيت استكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة ابي بكر ومبايعته ولم يكن بائع تلك الاشهر فبايعه بعدها كذا في الصحيحين روى البيهقي عن الشعبي ان ابا بكر عاد فاطمة في مرضها فقال علي هذا ابو بكر يستأذن عليك قالت اتحب ان اذن له قال نعم فاذنت له فدخل عليها فارضاها حتى رضيت كذا في الوفاء وفي رياض النفوسه للمحب الطيري دخل ابو بكر على فاطمة فاعتذر اليها وكلمها فرضيته عنه وعن الازاعي قال بلغني ان فاطمة غضبت على ابي بكر فخرج ابو بكر حتى اقام على بابها في يوم حار ثم قال لا ابرح مكاني حتى ترضي علي بنت رسول الله ﷺ فدخل عليها علي فاقسم عليها ترضي فرضيت عنه واخرج ابن السمان في الموافقة وقد اخصم علي والعباس في ميراث النبي علي

عهد عمر فقال عمر لطلحة والزبير وعبدالرحمن بن عوف وسعد رضيت الله عنهم انشلتكم الله اسمعتم رسول الله ﷺ يقول كل مال نبي صدقة الا ما اطعمته انا لا تورث قالوا اللهم نعم

ذكر زيارة قبره الشريف علي ساكنه التحية والسلام

زيارة النبي القرشي الهاشمي المكي الملقب ابي القاسم محمدين عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم خاتم الانبياء والميسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم اجمعين مستحبة مندوبة من اوكد المستحبات وفضل القربات قرية من الواجب

في حق من كان له وقلرة لقوله ﷺ من وجد سعة ولم يغد على نقد جفاني وفي  
 رواية ما من احد من امتي له سعة ولم يزرني ليس له عنر عند الله وعنه ﷺ من جاء  
 في زائر الا يهمله الا يارتي كان حقا على ان اكون له شفيعا يوم القيامة رواه الحافظ  
 ابو علي بن السكن وقد قال رسول الله ﷺ من زار قبري وجبت له شفاعتي صححه  
 ابن عبد الحق وعنه ﷺ من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي وفي الباب  
 احاديث كثيرة وفيما نقلنا كفاية فاذا خرج الزائر وتوجه الى المدينة الطيبة يكثر من  
 الصلوة على النبي ﷺ في الطريق لانه لاعبادة افضل منها بعد الفرائض السالكي هذا  
 الطريق فاذا وقع بصره على شجرة المدينة وحرها فليزد في الصلوة والسلام على  
 النبي ﷺ وليسئل الله تعالى ان ينفعه بزيادته ويسعده في الدنيا والاخرة وليقل اللهم  
 ان هذا حرم رسولك فاجعله في وقاية من الفار وامانا من العذاب وسوء الحساب و  
 يستحب ان يغتسل لدخول المدينة المطهرة ويلبس افخر ثيابه وانظفها ويتطيب  
 ويتصلق بها تيسر ثم يدخلها قائلا بسم الله وعلى ملة رسول الله ﷺ رب ادخلي  
 مدخل صلتي واخرجني من مخرج صلتي واجعل لي من لذك سلطانا نصيرا فاذا وصل  
 باب المسجد فليقلم رجله اليمنى في دخوله قائلا اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي ابواب  
 رحمتك وفضلك وليقصد الروضة الشريفة المقدسة وهي ما بين منبره وقبره من  
 المسجد التي هي روضة من رياض الجنة فيصلى تحية المسجد في مصلى رسول  
 الله ﷺ ان تيسر والا في غيره من الروضة او من المسجد ثم يسجد سجدة شكر  
 الله على الوصول الى تلك البقعة الشريفة في المسجد خارج الصلوة والتلاوة  
 كلام بين العلماء ويسئال اتمام النعمة عليه بقبول زيادته ثم يأتي القبر ويقف عند رأسه  
 مستقبلا ويكون وقوفه مستدبرا للقبلة ولا يضع يده على جدار الخطيرة ولا يقبلها  
 فان ذلك وامثاله من صنع الجاهلين وليس من سيرة السلف الصالحين بل يدعوا  
 على قدر ثلث اذرع واربعة ثم يصلي على النبي ﷺ وعلى الصديق والفاروق  
 وليقل بحضور قلب وغض صوت وسكون جوارح السلام عليك يا سيد  
 المرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا قائد الغر المحجلين  
 السلام عليك يا من ارسله الله رحمة للعالمين السلام عليك وعلى اهل بيتك

وازوجک واصحابک اجمعین السلام علیک ایہا النبی ورحمة اللہ وبرکاتہ  
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک عبدہ ورسولہ وامنہ وخشیرتہ من خلقہ واشہد  
انک بلغت الرّسالة و اذیت الامانة ونصحت الامة وجاهدت فی سبیل اللہ حق  
جہادہ وعبدت ربک حتی اتاک الیقین فجزاک اللہ عنّا یارسول اللہ ﷺ افضل  
ماجزی نبیاً عن امتہ اللّٰہم صلّ علی سیدنا محمد وعلیٰ ال سیدنا محمد کماصلت  
علیٰ ابراهیم وعلیٰ ال ابراهیم انک حمیدٌ مجیدٌ وبارک علی سیدنا محمد کما  
بارکت علیٰ ابراهیم وعلیٰ ال ابراهیم انک حمیدٌ مجیدٌ اللّٰہم انک قلت وقولک  
الحق ولو انہم اذا ظلموا انفسہم جاءوک فاستغفروا اللہ واستغفرلہم الرّسول لو جدوا  
اللہ توابعاً رَحِیماً اللّٰہم قد سمعنا قولک واطعنا امرک وقصدنا نبيک مستشفعين  
به اليک من ذنوبنا اللّٰہم فبعلینا واسعدنا بزيادة وادخلنا فی شفاعتہ و قد  
جنناک یارسول اللہ ظالمین انفسنا مستغفرین لذنوبنا وقد سماک اللہ تعالیٰ  
بالرؤف الرحیم فاشفع لمن جآ نک ظالماً لنفسہ معترفاً بذنبہ تائباً الی ربہ و قد انشد  
ہذہ الابیات بعضهم و ذکرہا فی رسائل المناسک : م

یاخیر من دفنت فی القاع اعظمہ      فطاب من طیہن القاع والاکم  
نفسی الفداء لقبرانت ساکنہ      فیہ العفاف وفيہ الجود والکرم

انت الشفیع الذی ترجی شفاعتہ،

عند الصراط اذا ما زلت القلم

ویدعولنفسہ ولوالدیہ ولمن احبّ بما احبّ فالنداء فی حضرته  
مستجاب وقد ذکرنا اداب الخروج الی المدینة وسلوک طریقہا واداب دخولہا و  
زیارتہ ﷺ واداب الاقامة بہنا البللہ والطیة المطیة بالتفصیل والتکمیل فی تاریخ  
المدینة المسمیٰ بجذب القلوب الی ديار المحبوب فلیطلب ثمة .

ولنختم الرّسالة بذکر رؤیتہ ﷺ فی المنام

وما فیہا من الکلام واللہ السّموّق و بیہ ازمة المرام ذکر فی مواہب  
اللئلیة ان من خصائص النبی ﷺ ان من راہ فی المنام فقلراہ حقّان الشیطان لا  
یتمثل بہ ففی روایة فنادة عند مسلم من راہی فی المنام فقلراہ الحق وله ایضاً من حدیث

جابر من رأى فى المنام فقد رأى ان لا ينبغي الشيطان ان يتشبه بى وفى حديث  
ابى سعيد عند البخارى فان الشيطان لا يكوننى اى لا يتكون كونى فخذت  
المضاف واومل المضاف اليه بالفعل وفى حديث ابى قتادة عند البخارى  
لا يترأى بى ومعناه لا يستطيع ان يتمثل بى يعنى ان الله تعالى وان مكّنه فى  
التصور فى اى صورة اراد فانه لا يمكنه من لا تصور فى صورة النبى ﷺ فذهب  
جماعة الى ان جعل ذلك اذا رآه الرأى على صورة الكريمة التى كان عليها  
حتى انه ضيق الا مر بعضهم وقال لا بد ان يراه على صورة التى قبض عليها حتى  
يعتبر عدد الشعرات البيض التى لم تبلغ عشرين و عن حماد بن زيد انه لما كان  
محمد يعنى ابن سيرين اذا قصّ عليه رجل انه رأى النبى ﷺ قال صف لى الذى  
رأيت فانه وصف له صفت لا يورنها قال قلت لابن عباس رأيت النبى ﷺ فى  
المنام قال لم تره وسنده صحيح وقد اخرج الحاكم من طريق عاصم بن كليب  
حدثنى ابى قال قلت لابن عباس رأيت النبى ﷺ قال صفه لى قال فذكرت  
الحسن بن على فشبّهته به قال قد رأيت وسنده جيد لكن يعارضه ما اخرج ابن  
عاصم من وجه اخر عن ابى هريرة قال قال رسول الله ﷺ من رأى فى المنام  
فقد رأى فانى ارى فى كل صورة وفى سنده ابن التومة وهو ضعيف لا اختلاطه  
وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط والله تعالى اعلم قال القاضى ابو بكر  
بن العربى رؤيته ﷺ بصفاته المعلومة ادرك على الحقيقة ورويته على غير  
صفته ادراك للمثال فان الصواب ان الانبياء لا تغيرهم الارض فيكون ادراك  
فانه الكريمة حقيقة الصواب ادراك الصفات ادراك للمثال و قال القاضى  
عياض لا يحتمل ان يكون المراد بقوله فقد رأى او فقد رأى الحق ان من رآه  
على صورة المعروفة فى حياته كانت رؤياه حقاً من رآه على غير صورته كانت  
رؤياه تاويل انتهى وتعقبه شيخ الاسلام بن حجر العسقلانى فقال لم يظهر لى من  
كلام القاضى ما ينافى ذلك بل ظاهر قوله انه يراه حقيقة فى الحالين فى الاول  
يكون الرؤيا مما يحتاج الى تعبير والثانى مما يحتاج الى التعبير ويلزم من قول ان  
لا يكون رؤيته الا على صورته المومتان من رآه على غير صفته يكون رؤيا من

اضغاث احلام ومن المعلوم انه يُرى في النوم على حالة بخلاف حالة في الدنيا من الاحوال اللاحقة ولم يمكن للشيطان من التمثل بشئ مما كان عليه او ينسب اليه عن ذلك فانه ابلغ في الحرمة واليق بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظة فالصحيح في تأويل هذا الحديث ان مقصوده ان رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولا اضغاثا بل هي احق في نفسها ولوراي على غير صورته فصور تلك الصور ليست من الشيطان في يقظته فالصحيح لي تأويل هذا الحديث ان مقصوده ان رؤيته في كل حالة ليست باطلة ولو اضغاثا بل هي احق في احق في نفسها ولوراي على غير صورته فصور تلك الصور ليست من الشيطان بل هو من قبل الله وهذا قول القاضي ابي بكر بن الطيب وغيره ويؤيده قوله فقد راي الحق اشار اليه القرطبي وقال شيخ مشائخنا في الحديث الحافظ ابن حجر الهيثمي والصواب كما قد منا في رؤيته عليه السلام التعميم على اي حال راه الرائي بشرط ان يكون على صورته الحقيقية في وقت ما سواء كان في شبابه او رجوليته او كهوليته او اخر عمره وقد يكون لما خالفه ذلك تعبير يتعلق بالرأي كما قال بعض علماء التعبير ان من راه شابا فهو غايه حرب وقال ابو سعيد احمد بن محمود بن نصر من راي نبيا على حاله وهيته فذلك دليل على اصلاح الرائي وكمال جاهه وظفره على من عاداه ومن راه متغير الحال عابسا مثلاً فذلك دليل على سوء حال الرائي وقال العارف ابن ابي حمزة من راه في صورة حسنة فذلك حسن في دين الرائي وان كان في جارحة من جوارحه شئ او نقص فذلك الخلل في الرائي من جهة الدين وقال هذا هو الحق وقد جرب ذلك فوجد على هذا الاسلوب وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه حتى يتبين للرائي هل عنده من خلل اولانه عليه الصلوة والسلام نوراني مثل المرأة الصيقل ما كان في الناظر اليها من حسن او غيره تصور فيها وفي ذاتها على احسن حال لا نقص فيها وكذلك يقال في كلامه عليه الصلوة والسلام في النوم انه يعرض على سنة فما وافقها فهو حق وما خالفها فالخلل في الرائي فرايا الذات الكريمة حقة والخلل انما هو في سمع الرائي وبصره قال وهذا اخير ما سمعته ذلك انتهى قال العبد الضعيف اصلح الله حاله سمعت سيده الشيخ العارف بالله

عبدالوهاب بن ولي الله المتقى يقول سمعت سيدى الشيخ العارف بالله تعالى  
بن حسام الدين المتقى يقول جاء من ديار مصر استفتاء صورته ما تقول  
سادات العلماء والعرفاء فى رجل رأى فى منامه رسول الله ﷺ يأمره ويقول له  
اشرب الخمر بماذا يعبر ذلك فكتب كل من بلغ شيئاً واتى ماسخ من  
التاويلات و الاشارات حتى اذ اتى الشيخ العارف بالله المتبع المقتدين محمد  
بن عراق وكان شيخاً قوياً متبعاً فى كمال التباع للسنة كتب فى جواب ان  
الرأى قد غلط حسه فانه ﷺ قال له تشرب الخمر فغلطت حاسته فوقع له انه  
يقول اشرب الخمر والله تعالى اعلم واعلم انه قد ورد فى حديث اخر من رواية  
مسلم من رأى فى المنام فسيرانى فى اليقظة او فكانمارانى فى اليقظة بدل  
قوله سيرانى ومثله وعند ابن ماجه وصححه الترمذى من حديث ابن  
مسعودواختلفوا فى تفسير قوله فسيرانى فى اليقظة فقال ابن بطال يريد بقوله  
فسيرانى فى اليقظة تصديق تلك الرؤيا فى اليقظة وصحتها وخروجهما على  
الحق وليس المراد انه يراه فى الآخرة لانه سيراه يوم القيامة فى اليقظة جميع  
امته من رآه فى المنام ومن لم يراه وقال الماذرى ان كان المحفوظ فكانمارانى  
فى اليقظة فمعناه ظاهر وان كان المحفوظ فسيرانى فى اليقظة احتمال ان  
يكون اراد اهل عصر ممن لم يهاجر اليه انه اذا رآه فى المنام جعل ذلك  
علامة على ان يراه بعد ذلك فى اليقظة واوحى الله تعالى بذلك اليه ﷺ  
وقيل معناه سيرى تاويل الرؤيا فى اليقظة وصحتها واجاب القاضى عياض  
باحتمال ان يكون رؤياه له فى النوم على الصفة التى عرف بها ووصف  
القريب منه والشفاعة بعلو الدرجة ونحو ذلك من الخصوصيات قال  
ولا يبعد ان يعاقب الله بعد المذنبين فى القيامة بمنع رؤية نبيه ﷺ وحمله  
ابن ابي جمرة على محمل اخر فذكر عن ابن عباس او غيره انه رأى النبى ﷺ  
فى النوم فبقى بعد ان استيقظ متفكراً فى هذا الحديث فدخل على بعض  
امهات المؤمنين لعلها خالته ميمونه فاخرجت له المرأة التى كانت للنبى ﷺ  
فنظر فيها صورة النبى ﷺ ولم ير صورة نفسه فالحاصل من الاجابة خمسة

وجوه احدها انه على سبيل التشبيه والتمثيل او يدل عليه قوله عليه السلام فكانما رانى فى اليقظة وثانيها ان معناه سيرانى فى اليقظة تا ويلها بطريق الحقيقة وثالثها انه خاص باهل عصره ممن امن به قيل ان يراه فى المرأة التى كانت له ان امكنه ذلك قال الشيخ الحافظ ابن حجر وهذا من ابعده المحاصل وخامسها انه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية والله واعلم بالصواب واليه المرجع والمآب .

### تذييل

فى ذكر نبذة من شهر الربيع الآخر وما يناسب ان يجعل تلوا وتذييلاً لحوال هذا شهر المكرم المفصل اعنى شهر الربيع الاول ذكر شهر الربيع الاخر حصنا لله فيه بالفيض الباطن والظاهر وما فيه من قضية وفات سيلنا ومولانا قطب الفرد الغوث شيخ الاسلام والمسلمين غوث الثقلين الشيخ محى الدين ابى محمد عبدا لقادر الحسنى والحسينى الجيلانى الحنبلى رضى الله وارضا ه عنا وذكره نبذة من الاختلاف فى يوم وصول الى جناب الكريم المتعال والاشارة لماهو الراجح فيه من الاقوال فنقول قد ذكر فى بهجة الاسرار الكتاب المشهور فى بيان احوال هذا الشيخ الكريم المختار برواية الثقافة من المشائخ الكبار وبين مصنف هذا الكتاب وبين الشيخ واسطنان فحسب انه مرص فى رمضان اياما عنده من المشائخ الشيخ على بن الهيشى والشيخ ابو احمد النجيب عبد القاهر السهروردى والشيخ ابو الحسن الجوسقى وغيرهم من المشائخ فجاء شخص مهمى السمت عليه فقال السلام عليك يا ولى الله ان شهر رمضان جئتك اعتذرا اليك مما قدر عليك فى ما ودعت فهذا اخر اجتماعى اليك ثم انصرف فمات الشيخ ليلة السبت تاسع من الربيع الاخر من السنة الثانية ولم يدرك ، رمضاننا اخر انتهى ولقد ذكروا فى مناقبه انه كان تاتى اليه المشهور قبل ان تحل فان كان فى قدر الله تعالى ان يكون فيه نقمة وسوء جاء فى صورة منكورة وان كان فى قدر الله تعالى ان يكون نعمة وخير جاءه فى صورة جميلة فقد ذكر فى بهجة الاسرار خلاصة المفخر فى مناقب الشيخ عبدالقادر تاليف الشيخ العالم العارف



الامام عبد الله اليافعي تكمة كتابه روض الديار حسين انه، سيد السادات  
 سيف الدين عبد الوهاب قالوا كنا جلوساً عند شيخنا الشيخ محي الدين  
 عبد القادر الجيلاني احزنه اجمعه سلخ جمادى الاخر من ستة ستين  
 ومائة وهو يتكلم فجاء شاب حسن الصورة وجلس الى الشيخ وقال  
 السلام عليك يا ولي الله انا شهر رجب جئتك اهليك وما قدر ان يكون  
 في سوء عا على الناس قال فلم ير الناس في شهر رجب ذلك الا خيراً فلما  
 كان يوم الاحد سلخه جاء رجل كرهه المنظر ونحن ايضاً عنده فقال له  
 السلام عليك يا ولي الله انا شهر شعبان جئتك وقد قدر في ان يكون فناء  
 ببغداد وغلاء بالحجاز وسيف بخراسان وكان كما قال قلت في هذه الرواية  
 يكون عرسه تاسع الربيع الاخر وهذا هو الذي ادر كنا عليه سيدنا الشيخ  
 العالم العارف الكامل الشيخ عبد الوهاب القادري المتقي المكي فانه قدس  
 سره كان يحافظ يوم عرسه هذا التاريخ اما اعتماداً على هذا الرواية او على  
 ما راى من شيخه الشيخ الكبير على المتقي ومن غيره من المشائخ رحمهم  
 الله تعالى وقد اشتهر في ديارنا هذا اليوم الحادى عشر وهو المتعارف عند  
 مشائخنا من اهل الهند من اولاده كذا ذكر شيخنا وسيدنا السيد البهي  
 الرضى الوصى ابو المحاسن سيدى الشيخ موسى الحسنى الجيلانى بن  
 الشيخ الكامل العارف المعظم المكرم ابى الفتح الشيخ حامد الحسنى  
 الجيلانى نقلاً من الاولاد القادرية تصنيف المخدم الاعظم الاكرم الامجد  
 الافخم ولى الله بالاتفاق الذى يقال له المخدم الثانى والشيخ عبد القار  
 الثانى قدس الله روحه مما نقل فيها عن ابائه الكرام رحمة الله تعالى عليهم  
 اجمعين وذكر الشيخ الامام عبد الله اليافعي في كتاب خلاصة  
 المفاهرو في تاريخه المشهور المسمى بمراة الجنان ان وفاته في  
 شهر الربيع الاخر من سنة ستين او احدى وستين وخمس مائة ولم يعين اليوم  
 وذلك اما لعدم علمه بذلك اول اختلاف وقع هنالك وقد يقال ان  
 وفاته في اليوم السابع عشر ولا اصل له والله تعالى اعلم فان قلت هل

لهذا العرف الذي شاء في ديارنا في حفظ اعراس المشائخ في ايام وفاتهم  
 تهم اصل فان كان عندك علم بذلك فاذكره قلت قد سألت عن  
 ذلك شيخنا الامام عبد الوهاب المتقى المكي فاجاب بان ذلك من  
 المشائخ عاداتهم لهم في ذلك نيات قلت كيف تعين ذلك اليوم دون  
 سائر الايام فقال الضيافة مسنونة على الاطلاق فاقطعوا النظر عن تعيين اليوم وله  
 النظائر كمصافحة بعض المشائخ بعد الصلوة وكالا كتحال يوم عاشوراء فانه  
 سنة على الاطلاق وبدعة من جهة الخصوصية ثم قال وقد ذكر بعض  
 المتأخرين من مشائخ المغرب ان القوم الذي وصلوا فيه الى جناب الغرة  
 وخطائر القدس يرجى فيه من الخير والكرامة والبركة النورانية اكثر او فر من  
 سائر الايام ثم طرق ملياً ثم رفع رأسه فقال لم يكن في زمن السلف شيء من  
 ذلك وانما هو من مستحسنات المتأخرين والله تعالى اعلم .





## شهر رجب

في القاموس رجب فلانأهابه وعظمة رجاورجوباً ورجبه وارجه ومنه رجب لعظيمهم اياه والجمع ارجاب ورجوب ورجبات محركة والترجيب ذبح النسائك فيه انتهى وفي النهاية للجزري والترجيب العظيم من رجب فلان مولاه عظمة ومنه شهر رجب لانه كان يعظم ومنه رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان اضافة الى مضر لانهم عظموه وقوله بين جمادى وشعبان تأكيد لانهم كانوا ينسئون ويؤخرون من شهر الى شهر فيتحول عن موضعه والعتيرة الرجبية ذبيحة يذبحونها في رجب انتهى ويقال له اصم في القاموس الاصم رجب لانه لا ينادى فيه يا فلان ويا صاحبه والنهاية وشهر الله الاصم رجب اذ لا يسمع فيه صوت السلاح لكونه شهراً حراماً ووصف بوصف الانسان الذي لا يسمع مجازاً قال العبد المؤلف عفا الله عنه واما المشهور بين بعض الناس من انه انما يقال له الاصم لانهم يتصمّمون<sup>نفسه</sup> يوم القيامة ولا يشهد على الناس ما فعلوا فيه من المعاصي والقبايح ويقول انه اصم لا اسمع شيئاً ولذلك يقال شهر الله لكونه مختلفاً بخلقه سبحانه وهو سر العيوب على العباد قال اصل له ولا هو معقول لان الاقصاب بصفة الستارية لا يقتضى الاختصاص باصم لان ذلك انما هو في ستر الاقوال فقط والله اعلم ولم نجد في جامع الاصول من واحلمن الصحاح الست حديثاً وادان في فضل رجب الا انه قد ذكر في الجامع الكبير احاديث في فضله وفضل العمل فيه وهي هذا رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر امتى رواه ابو الفتح بن الفوارس في امالية عن الحسن مرسلان رجب شهر عظيم تضاعف فيه الحسنات من صام يومئذ كان كصيام سنة الراعى عن سعيد ان رجب شهر اللئيمى الاصم وكان اهل الجاهلية اذا دخل رجب يعطون اسلحتهم ويضعونها فكان الناس يأمن السبيل ولا يخافون بعضهم بعضاً حتى يتقضى رواه في شعب الايمان عن عائشة وقال رفعه منكر رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات فمن صام يوماً من رجب فكأنما صام سنة ومن صام فيه سبعة ايام غلقت عليه سبعة ابواب جهنم ومن صام منه ثمانية ايام

فتحت له ثمانية ابواب الجنة ومن صام منه عشرة ايام ويسأل اللّٰه شيئاً الا اعطاه ومن  
صام منه خمسة عشر يوماً نادى منادٍ من السماء قد غفر لك ما مضى فاستأنف العمل  
ومن زاد زاده وفي رجب حمل الله نوحاً في السفينة فصام رجب وامر من معه ان  
يصوموا فجرت بهم السفينة ستة اشهر اخر ذلك يوم عاشوراء اهبط على الجودي  
فصام نوح ومن معه والوحش شكر الله عز وجل وفي يوم عاشوراء فلق الله البحر لبي  
اسرائيل وفي يوم عاشوراء تاب الله على ادم وعلى يونس وفيه ولد ابراهيم رواه  
الطبراني عن سعيد بن ابي راشد في رجب ويوم ليلة من صام ذلك اليوم وقال  
تلك الليلة كان لمن صام الدهر مائة سنة وقام مائة سنة وهو لثلاث بقين من رجب  
وفيه بعث الله تعالى محمداً ﷺ رواه البيهقي في شعب الايمان وقال منكر عن سلمان  
الفارسي وعن خروشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب اكف الرجال في  
صوم رجب حتى يضعوها في الطعام ويقول رجب وما رجب شهر يعظمه الجاهلية  
فلما جاء الاسلام ترك رواه ابن ابي شيبة والطبراني في الاوسط وعن ابي قلاب قال  
في الجنة قصر لوصام رجب رواه ابن عساكر وعن عامر من شبل الجرمي قال  
سمعت رجلاً يحدث انه سمع انس بن مالك يقول في الجنة قصر لا يدخله الا صوام  
رجب رواه ابن شاهين في الترغيب ان في الجنة نهر يقال له رجب اشد بياض من اللبن  
واحلى من العسل من صام يوماً من رجب سقاه الله من ذلك النهر رواه الشيرازي في  
اللقاب ورواه البيهقي في شعب الايمان عن انس صوم اول يوم رجب كفارة سنين  
والثاني كفارة سنتين والثاني كفارة ستة ثم كل يوم شهر رواه ابو محمد الخلال في  
فضائل رجب عن ابن عباس وفي رجب ليلة تكتب للعامل فيها حسنة مائة سنة  
وذلك لثلاث بقين من رجب فمن صلى اثنتي عشر ركعة يقرأ في كل ركعة فاتحة  
الكتاب وسبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مائة مرة ويستغفر الله مائة مرة  
ويصلي على النبي ﷺ مائة مرة ويدعو نفسه ماشاء من دنياه واخرته ويصح صائماً  
فان الله تعالى يستجيب دعاءه كله الا ان يدعو في معصية رواه البيهقي في شعب  
الايمان عن ابان عن انس وقال هو اضعف من الذي قبله وعن انس ان رسول الله ﷺ  
كان اذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه ابن

عساكر في تاريخه وابن النجار وزاد ابن عساكر وكان اذا كانت ليلة الجمعة قال هذه  
ليلة غراء واذا كان يوم الجمعة قال هذا يوم ازهر وفي تنزيل الشريعة في الاحاديث  
الموضوعة حديث فضل رجب على سائر الشهور كفضل القرآن على سائر الكلام  
رواه الدليمي عن انس ولم يبين علته وفيه من لا يعرف وفي تبين المحب للحافظ ابن  
حجر هذا الحديث بزيادة اللفظ فضل رجب على سائر الشهور كفضل محمد صلى الله عليه وسلم  
على سائر الانبياء عليهم السلام وفضل رمضان على سائر الشهور كفضل الله تعالى  
على عباده قال الحافظ ابن حجر رواه السلفي واسانيدُه ثقة الالهة الله السقطي فهو  
الاية والله تعالى اعلم حديث في يوم وليلة من صام ذلك اليوم وقام تلك الليلة كان  
له الاجر كمن صام مائة سنة وهي ثلث بقين وفيه بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رواه الدليمي  
عن سلمان فيه خالد بن هياج متروك له احاديث مناكير كثيرة والحمل فيه على ابن  
خالد فهو الأفة في هذه الحديث وفي فوائد هناد النسفي باسناد منكر عن انس مرفوعاً  
بعثت نبياً في السابع والعشر بن من رجب من صام ذلك اليوم ودعا عن افطاره كانت  
كفارة عشرة سنين وفي جزع ابي محاذ الشاة المروزي في فضائل رجب لعبد  
العزيز الكتاني من ضمرة عن ابن شوب عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن ابي  
هريرة موقوفاً من صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب الله له صيام ستين شهر  
واليوم الذي هبط فيه جبرئيل على محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهذا مثل ما ورد في هذا المعنى  
حديث من صام يوم من رجب وقام ليلته ليله بعثه الله تعالى اماً يوم القيامة ومرة على  
الصراط وهو بهلل ويكبر الحديث رواه الدارمي عن جابر من طريق اسمعيل بن يحيى  
التي هي حديث من احياء ليلة من رجب وصام يوماً منه اطعمه الله تعالى من اثمار الجنة  
وكساه الله تعالى من حلال الجنة وسقاه الله تعالى من الرحيق المخحوم رواه الدارمي عن  
الحسين بن علي فيه حصين بن مخارق حديث رجب من الاشهر الحرم وايامه  
مكتوبة على ابواب السماء السادسة فاذا صام الرجل منه يوماً وجود صومه بتقوى الله  
نطق الباب ونطق اليوم فقالا يارب اغفر له واذا لم يتم صومه بتقوى اللهم يستغفر له وقال  
خلعتك نفسك رواه ابن شاهين والدارمي عن ابي بصير وفيه اسمعيل التيمي  
حديث رجب شهر الله الاصم المثر الذي افرد الله نفسه فمن صام فيه يوماً ايماناً

واحساباً استوجب رضوان الله الاكبر وشهر رمضان شهر امتي ترمض فيه ذنوبهم فاذا  
 صام عبد مسلم ولم يكذب ولم يغتب وفطره طيب خرج من ذنوبه كما تخرج الحية  
 من سلخها رواه الحاكم في تاريخه عن ابي سعيد فيه ابو هارون العبدى وعصام ابن  
 طليق ليس بشئ قلت لعل الافه ابو هارون فانهم كذبوه حتى قال بعضهم هو اكلاب  
 من فرعون حليت عن ابي الدداء قد سأل رجل عن صيام رجب فقال سألت عن شهر  
 كانت الجاهلية تعظمه وما زاد به الاسلام الا فضلاً وتعظيماً ومن صام منه يوماً تطوعاً  
 محتسابه ثواب الله عنه يتغنى لوجه الله مخلصاً اطفأ صومه ذلك اليوم غضب الله  
 تعالى عليه واغلق عنه باباً من ابواب النار لو اعطى ملا الارض ذهباً ما كان ذلك جزاء  
 له ولا يستكمل اجره بشئ من الدنيا دون يوم الحساب وله اذا امسى عشر دعوات  
 مستجابات فان دعاه بشئ من عاجل الدنيا اعطاه له وادخر له الخير كما فضل ما دعاه  
 من اولياء الله واحبائه واصفيائه ومن صام يومين كان له مثل ذلك وله مع ذلك اجر  
 عشرة من الصديقين في عمرهم بالغة ما بلغت ومن صام ثلاثة ايام كان له مثل ذلك  
 وقال الله عز وجل عند افطاره لقل رجب حق عبدى هذا وجبت له محبتى ولايتى  
 اشهدكم يا ملائكتى انى قد غفرت له ما تقلم من ذنبه وما تاخروا من صام اربعة ايام كان  
 له مثل ذلك ويعث يوم القيامة ووجهه مثل القمر ليلة البدر ويكتب له عدد من عالج  
 حسنات ويدخل الجنة ويقال تمن على الله ما شئت ومن صام ستة ايام كان له مثل  
 ذلك ويعطى نوراً يستضي به اهل الجمع يوم القيامة ويعث فى الامنين حتى يمر على  
 الصراط بغير حساب ويعافى من عقوق سبعة ايام كان له مثل ذلك وتغلق له سبعة  
 ابواب جهنم وحرمة الله على النار ووجب له الجنة يتبوأ منها حيث يشاء ومن صام  
 ثمانية ايام كان له مثل ذلك ورفع كتابه فى اعلى عليين ويعث يوم القيامة من الامنين  
 ويخرج من قبره نور ووجهه يتلأ لا يشرق لاهل الجمع حتى يقولون هذا نبي مصطفى  
 فان ادنى ما يعطى ان يدخل الجنة بغير حساب ومن صام عشرة ايام قنح بخ له مثل  
 ذلك وعشرة اضعافه وهو ممن يدل الله سيئاته حسنات ويكون فى المقربين لله  
 بالقسط كمن عبد الله الف عام صائماً قائماً صابراً محتسباً ومن صام عشرين يوماً  
 كان له مثل ذلك وعشرون ضعف وهو ممن يزاحم ابراهيم عليه السلام فى قبره

ويشفع في مثل ربيعة ومضر كلهم من اهل الخطايا والذنوب ومن صام ثلثين يوماً كاملاً كان له مثل ذلك وثلاثون ضعفاً وناداه مناد من السماء ابشر يا ولي الله بالكرامة العظمى وانظر الى وجهه الله الجليل في المرافقة النبئين والصدّيقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا طوبى لك طوبى لك ثلث مرات غدا اذا كشف العطاء فافضيت الى ختم ثوب زبك الكريم فاذا نزل به الموت سقاه ربه عنده خروج نفسه بشرية من حياض الفردوس حتى لا يجد للموت المآ فظل في قبره ريان حتى يرد حوض النبي ﷺ فانا خرج من قبره اتاه سبعون الف ملك معهم النجائب من الترو والياقوت ومعهم ظرائف الحلوى والحلل، فيقول يا ولي الله التجأ الى ربك الذى اظمأت له نهارك وانحلت له جسمك فهو اول الناس دخولا جنات عدن يوم القيامة مع الفائزين الذين روضوا عنه وذلك هو الفوز العظيم فان كان لكل يوم يصومه صلقة على قبر قوته فصلى فيها فهيات لو اجتمع جميع الخلائق على ان يقتلوا قلم ما اعطى ذلك العبد من الثواب رواه ابن شاهين فى الترغيب عن مكحول وفى اسناده ظلمات بعضها فوق بعض وفيه داود بن المحبر وهو المتهم به وسليمان بن الحكم ضعفه والعلاء بن الكثير مجمع على ضعفه قال الحافظ ابن حجر فى تبين العجب هذا حديث موضوع ظاهراً الوضع قبح الله من وضعه فوالله لقد قف شعري من قراءته فى حال كتابته والمتهم به عندي داود بن المحبر والعلاء ابن خالد فكلاهما قد كذب ومكحول لم يترك اباً للترداء ولا يم الله ما حدث به مكحول قط حديث عن انس قال خطب بنا رسول الله ﷺ قبل رجب بجمعة فقال يا ايها الناس انه قد اظلمكم شهر عظيم رجب شهر الله الاصم تضاعف فيه الحسنات وتستجاب فيه الدعوات وتفرج فيه الكربات لا يود للمؤمن فيه دعوة فمن اكتسب فيه خيراً فضعف له فيه اضعافاً مضاعفة والله يضاعف لمن يشاء فعليكم بقيام ليله وصيام نهاره فمن صلى فى يوم فيه خمسين ركعة ما تيسر من القران اعطاه الله من الحسنات بعد الشفع والوتر وبعد الشعر والوبر ومن صام فيه يوماً كتب الله له به صيام سنة ومن خون فيه لسانه لقنه الله حجة عند مسألة منكرو نكير ومن تصلى فيه بصلقة كان بها فكاكة من فتنة النار ومن وصل فيه رحمة وصلّى الله فى الدنيا والاخرة ونصره على اعدائه ايام



حياته ومن عاد فيه مريضاً امر الله كرم ملائكتهم بزيارته والتسليم عليه ومن صلى فيه على جنازة فكانما أحيى مؤودة ومن أطعم فيه مؤمناً فيه طعاماً اجلسه الله يوم القيامة على مائدة عليها إبراهيم عليه السلام ومحمد ﷺ ومن سقى فيه شربة من ماء سقا الله تعالى من الرحيق المنخوم ومن كسا فيه مؤمناً كساه الله الف حلة من حلل الجنة ومن أكرم يتيماً وأمره يده على رأسه غفر الله له بعدد كل شعرة مستها يده ومن استغفر الله عز وجل فيه مرة واحدة غفر الله له به ومن سبح الله فيه تسيحاً أو هائلة تهينه كتب عند الله من الناكرين الله كثيراً والناكرات ومن ختم فيه القرآن مرة البس هو ووالده كل واحد منهم تاجاً مكللاً باللؤلؤ والمرجان وأمن من فزع يوم القيامة رواه ابن عساکر وقال منكر بمرّة وفي تبين العجب هو موضوع انتهى فهذه احاديث ذكرت فيما حضر عندنا من الكتب ولم يصح منها على ما قالوا شيئاً وغايتها الضعيف وجلها موضوع والله تعالى اعلم ومما اشتهر فيما بين الناس في هذا الشهر ليلة الرغائب وهي اول ليلة جمعة منه وللمشائخ فيها صلوة مشهورة فيما بينهم والمحدثون انكروها اشد الانكار حتى قال الامام محي الدين النورى وهذه عبارته واما صلوة الرغائب و صلوة ليلة النصف من الشعبان فليستنا بسنتين بل هما بدعتان قبيحتان مذمومتان ولا تغتر بدكر ابي طالب المكي لهما في قوت القلوب ولا بدكر حجة الاسلام الغزالي لهما في احياء علوم الدين ولا بالحديث المذكورين هما فان ذلك باطل وقد صنف عبد العزيز بن عبد السلام كتاباً نفيساً في ابطالها فاحسن فيه واجاد واطال الامام المذكور في فتاواه ايضاً مهما تقيحهما وانكارهما فقال وينبغي تركهما والاعراض عنهما والانكار على فاعليهما وعلى ولي الامر وفقه الله سبحانه منع الناس في فعلهما <sup>فانه</sup> راع وكل راع مسؤل عن رعيته وصنف بعض العلماء كتباً في انكارهما وضمهما وتسفيه فاعليهما وقال الشيخ شهاب الدين احمد بن حجر المكي الهيثمي هذا منهننا ومنهننا المملوكية واخرين من الائمة وملهب اكثر علماء الحجاز ومنهن فقهاء المدينة وقد صنف الشيخ المذكور كتاباً في هذا الشأن وفيه حديث من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتي عشرة ركعة وذكر كيفيات ثم اصبح صائمًا ثم ذكر انها الليلة التي بعث فيها محمد ﷺ حديث موضوع وله طرق اخرى فيه زيادة وفي سننها متما ان

بالكذب وفيه حديث رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي وان رجب شهر مخصوص بالمغفرة وحقن الدماء وان من صامه استوجب مغفرة جميع ما سلف الي غير ذلك من الفضائل حديث كذب موضوع مختلف وقد جمع الشيخ فيه كثيراً من الصلوات التي ليست من السنة في شيء بل هي بدع منكرة وزعم العوام انها سنة والاصل المعول عليه في هذا الباب ما صح عنه عليه السلام لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا يوم الجمعة بقيام من بين الايام الا ان يصوم احدكم بوريو امثاله مما يدل على انها بدع منكرة مخالفة لما تقرّر عليه السنة والله تعالى اعلم قال العبد الضعيف اصلح الله حاله وجعل الي كل خير ماله هذا ما ذكره المحدثون على طريقهم في تحقيق الاسانيد ونقل الاحاديث وعجبا منهم ان يبالغوا في هذا الباب هذه المبالغة ويكفيهم ان يقولوا لم يصح ذلك عننا واعجب من الشيخ محي الدين النووي مع سلوكه طريق الانصاف في الابواب الفقيهية وعدم تعصبه مع الحنيفية كما هو داب الشافعية فما نحن فيه اولى بذلك لنسبته الي المشايخ العظام والعلماء الكرام قلس الله اسرارهم هذا وقد ذكر صاحب جامع الاصول في كتابه حديثاً من كتاب رزين مع ان موضوع ذلك الكتاب لجمع احاديث الكتب الستة المسماة بالصحيح السنن واذالم يجد في هذه الكتب حديث في ذلك اوردته من كتاب اخر اسيفاء وتكميلاً وقال عن انس ان رسول الله عليه السلام ذكر صلوة الرغائب وهي اول ليلة جمعة من رجب فصلى فيها بين المغرب والعشاء ثنتي عشر ركعة بست تسليمات كل ركعة بفاتحة الكتاب والقدر ثلثا وقل هو الله احد ثنتي عشرة مرة فاذا فرغ من صلوة قال اللهم صلى على محمد ن النبي الامي وعلى اله بعد ما سلم سبعين مرة ثم سجد سجدة وقال في سجوده سبح قلوس رب الملائكة والروح سبعين مرة ثم رفع رأسه وقال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العلي الاعظم وفي رواية اخرى الاعز الاكرم سبعين مرة ثم سجد وقال مثل ما قال في السجدة الاولى ثم سأل الله وهو ساجد حاجته فان الله لا يرد سائله قال صاحب جامع الاصول وهذا مما وجدته في كتاب رزين ولم اجده في واحد من الكتاب السنة والحديث مطعون فيه وقلو في كتاب بهجة الاسرار ذكر ليلة الرغائب في ذكر سيلنا وشيخنا القطب رباني

والغوث الصمداني الشيخ محي الدين عبدالقادر الحسني الجيلاني قدس سره قال  
اجتمع المشايخ وكانت ليلة الرغائب الى اخر ما ذكر من الحكاية ايضاً انه نقل عن  
الشيخين القلوتين الشيخ عبد الوهاب والشيخ عبد الرزاق انهما قالوا بكرة الشيخ بقابن  
بسطو صيحة يوم الجمعة الخامس من رجب سنة ثلث واربعين وخمس مائة الى  
ملوسة واللنا الشيخ محي الدين عبد القادر وقال لنا الا سالتموني عن سبب بكوري اليوم  
اتي رايت البارحة نوراً اضاءت به الافاق وعم اقطار الوجود رايت اسرار فوي الاسرار  
فمنها ما يتصل به ومنها ما يمنعه مانع من الاتصال وما يتصل به سر الا تضاعف نوره  
فتطلبت ينبوع ذلك النور فاذا هو صادر عن الشيخ عبد القادر فاردت الكشف عن  
حقيقته فاذا هو نور شهود قابل نور قلبه وتقارح هذان النوران وانعكس ضياءهما على مرة  
حاله واتصلت اشعة المتقدمات من محط جمعه الى وصف تفرقه فاشرق بها الكون ولم  
يق ملك نزل تلك الليلة الاتاه وصافحه واسمه عندهم الشاهد والمشهود قالوا فاتيناه  
وقلنا له اصليت الليلة صلوة الرغائب فانشد شعر:

اذ انظرت عيني وجوه جانب!      قتلك صلوتي في ليالي الرغائب  
وجوه اذا ما استبصرت عن جمالها      اضاءت له الاكوان من كل جانب  
ومن لم يوف الحب ما يستحقه      فذلك الذي لم يأت قط بواجب

وذكر في تنزيه الشريعة في الاحاديث والموضوعات حديث انس بن مالك مرفوعاً  
رجب شهر الله وشعبان شهرى ورمضان شهر امتي قيل يا رسول الله ما معنى قولك  
رجب شهر الله قال لانه مخصوص بالمغفرة الحديث وفيه لا تغفلوا عن اول ليلة جمعة  
من رجب فانها ليلة تسمية الملائكة الرغائب وفيه لا تغفلوا عن اول ليلة جمعة من  
رجب فانها ليلة تسمية الملائكة الرغائب وفيه ما من احد يصوم يوم الخميس من  
رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة يعني ليلة الجمعة ثنتي عشرة ركعة وسباق  
الحديث في صفة الصلوة قال وفيه على ابن عبد الله قال ابن الجوزي اتهموه به  
ونسبوه الى الكذب وسمعت شيخنا يقول رجلاً مجهولون ففتشت عنهم جميع  
الكتب فمادونهم وزاد بل لعلمهم يخلقوا قال الحافظ العراقي في اماليه قد تساهل  
الحافظ ابو الفضل محمد بن ناصر السلامي في ايراده هذا الحديث في المجلس الرابع

عشر من امالي ابن حسين وقوله انه حسن غريب حليث انس مرفوعاً من صلى  
المغرب اول ليلة من رجب ثم صلى بعلمها عشرين ركعة الحليث واخره وراز على  
الصراط كالبرق بغير حساب ولا عذاب رواه الجوز قاني وفيه مجاهيل حليث من  
صام يوماً من رجب وصلى فيه ركعتين يقرأ في اول ركعة مائة مرة آية الكرسي وفي  
الركعة الثانية مائة مرة قل هو الله احد لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة قال ابن الجوزي  
فيه مجاهيل ومتروك وحديث من صلى ليلة سبع وعشرين من رجب ثنتي عشرة  
ركعة يقرأ في كل ركعة منها بفتح الكتاب وسورة فاذا فرغ من صلوة قرأ فاتحة  
الكتاب سبع مرات وهو جالس ثم قال سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر  
ولاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اربع مرات ثم اصبح صائماً حط الله عنه ذنوب ستين  
سنة وهي الليلة التي بعث فيها محمد ﷺ هذا الحديث عزاه ابن حجر الى موضوعات  
ابن الجوزي ولا يوجد فيها فعله في بعض المسخ دون بعض وقال الحافظ ابن حجر  
روينا من حليث انس مرفوعاً في رجب ليلة يكتب للعامل فيها حسنات مائة سنة  
وذلك لثلاث بقين من رجب فمن صلى فيها اثنتي عشرة ركعة يقرأ في كل ركعة  
فاتحة الكتاب وسورة من القرآن يتشهل في كل ركعتين ويسلم في اخرهن ثم يقول  
في اخرهن سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مائة مرة ويستغفر مائة مرة  
ويصلي على النبي ﷺ مائة مرة ويدعو بما شاء من امر دنياه ويصبح صائماً فان  
الله يستجيب دعاه كله الا ان يدعو في معصيته رواه البيهقي ومتهمان اعلم انه قد اشهر  
فيما بين الناس بليار العرب ان معراجهم ﷺ كان لسبع وعشرين من رجب وموسم  
الرجبية فيه متعارف بينهم قرياً من موسم الحج يأتون لزيارة النبي ﷺ من البلاد النائية  
ومن كل واد بعيد وفج عميق ويقال ان هذا القول غير صحيح انه كان لسبع عشرة من  
رمضان او من الربيع الاول بمكة في السنة الثانية من البعثة عشر من البعثة ثم اعلم  
انالم نجد في كتاب الاحاديث الاثباتاً ولا نقيماً ما اشهر بينهم من تخصيص  
الخامس عشر من رجب بالتعظيم والصوم والصلوة وتسميته بيوم الاستفتاح  
وتسميته بمريم روزه والله تعالى اعلم. ومما كان ابتداء الاسلام ثم نسخ على  
قول الجمهور والعتيرة بفتح العين المهملة وكسر المشاة الفرقانية على وزن

الكريمة والعتيرة شاة تلبح في شهر رجب وكان في صدر الاسلام ثم نسخ ونقل  
الطبي ان ابن سيرين كان يلبح العتيرة في شهر رجب وهذا شعر بان المنسوخ  
وجوها والله اعلم اخرج البخارى ومسلم عن ابي هريرة عن النبي ﷺ وقال لا فرع  
ولا عتيرة قال الراوى الفرع اول وفي حديث الترمذى و ابي داود والنسائى وابن  
ماجقائى رسول الله ﷺ بعرفة فسمعتة يقول يا ايها الناس ان على كل اهل بيت فى كل  
عام اضحيتة وعتيرة هل تلرون ما المعتبرة هى التى تسمونها الرجبية قال الترمذى هذا  
حديث غريب ضعيف الاسناد وقال ابو داود والعتيرة منسوخة وقد جاءت العتيرة  
بمعنى النبيحة التى تلبح للاصنام والمراد هنا المعنى الاول.



## شهر شعبان

في القاموس شعبان شهراً معروفاً لجمع شعبانات وشعابين من تشعب تفرق  
كانشعب وفي الحديث انما سمي شعبان لانه تشعب فيه خير كثير للصائم فيه  
حتى يدخل الجنة رواه الرافعي في تاريخه عن انس والكلام في هذا الرسالة  
على ثلث مقالات.

### المقالة الأولى

فيما ورد في فضل شهر شعبان والصيام فيه مطلقاً من غير تخصيص بليلة النصف  
منه احاديث الكتب السنة شعبان بين رجب وشهر رمضان يغفل الناس عنه يرفع  
فيه اعمال العباد فاحب ان لا يرفع عملي الا وانا صائم رواه البيهقي في شعب  
الايمان عن اسامة شعبان شهراً ورمضان شهر الله رواه الديلمي في فردوس  
الاجبار عن عائشة وعن انس قال كان رسول الله ﷺ اذا دخل رجب قال اللهم  
بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان رواه ابن عساكر وابن  
النجار وعن عائشة قالت كان رسول الله ﷺ اذا دخل رجب يصوم حتى  
نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم ومارأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام  
شهر قط الا رمضان ومارأيته في شهر اكثر منه صياماً في شعبان وفي رواية  
ابي سلمة قال سئلت عائشة عن صيام رسول الله ﷺ فقالت كان يصوم بيوم  
شعبان الا قليلاً اخرج الاولي البخاري ومسلم والمؤطا وابدوداود واخرج  
الثانية مسلم والنسائي وفي رواية الترمذي قال مارأيت النبي ﷺ في شهر  
اكثر صياماً منه في شعبان كان يصومه الا قليلاً بل كان يصومه كله في رواية  
اخرى لابي داود قالت كان احب الشهور الى رسول الله ﷺ ان يصومه  
شعبان يصله برمضان واخرج النسائي ايضاً رواية الترمذي وابدوداود  
وللنسائي ايضاً قالت كان رسول الله ﷺ يصوم شعبان وفي رواية اخرى له  
كان رسول الله ﷺ يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وكان

يصوم شعبان او عامة شعبان او عامة شعبان وفي رواية اخرى له كان رسول الله ﷺ  
 يصوم حتى نقول الا قليلاً وفي رواية اخرى كان يصوم شعبان كله وفي رواية  
 البخاري ومسلم قالت لم يكن النبي ﷺ يصوم شهر اكثر من شعبان فانه كان  
 يصوم كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى  
 تملوا الحديث وعن ابي هريرة نحوه وقال ابو داود وذا ابو هريرة كان يصومه  
 الا قليلاً بل كان يصومه كله وعن ام سلمة قالت ما رأيت رسول الله ﷺ يصوم  
 شهرين متتابعين الا شعبان ورمضان اخرجه الترمذي وعند ابي داود لم يكن  
 يصوم من السنة شهر قامة الا شعبان كان يصله برمضان واخرج النسائي  
 الروايتين وله في اخرى ما رأته يصوم شهرين متتابعين الا انه كان يصل شعبان  
 برمضان وعن اسامة قالت كنت يا رسول الله لم ارك تصوم من شهر من  
 الشهور ما تصوم من شعبان قال ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب  
 ورمضان وهو شهر يرفع فيه الاعمال الى رب العالمين فاحب ان يرفع عملي  
 وانا صائم اخرجه النسائي احاديث من غيرها من الكتب وفيه احاديث  
 ابو الحسن البكوي شعبان بين رجب ورمضان يغفل الناس عنه برفع اعمال  
 العباد فاحب ان لا يرفع عملي الا وانا صائم رواه البيهقي في شعب الايمان وعن  
 عطاء ابن يسار قال لم يكن رسول الله ﷺ في شهر اكثر صياماً منه وفي  
 شعبان وذلك انه تنسخ فيه اجل من يموت في السنة وعن اسامة شعبان  
 شهري ورمضان شهر الله رواه الديلمي في مسند الفردوس وعن عائشة ان  
 امرأة ذكرت لها انها تصوم رجب فقال ان كنت صائمة شهر لا محالة فعليك  
 بشعبان فان فيه الفضل رواه ابن زنجوية وعنها قالت لم يكن رسول الله ﷺ في  
 شهر اكثر صياماً منه في شعبان لانه تنسخ ارواح الاحياء في الاموات حتى ان  
 الرجل يتزوج وقد وقع اسمه فيمن يموت وان الرجل ليحج وقد وقع فيمن  
 يموت وعنها ان النبي ﷺ كان يصوم شعبان كله فسألته قال ان الله يكتب في  
 شعبان كل نفس ميتة تلك السنة فاحب ان يأتي اجلي وانا صائم والمعنى  
 يأتي كتابة اجلي وفيه ان كتابة اجله اذا كانت في زمن عبادة تلبس بها  
 لمكتوب اجله يرجي الموت على خيرو ان اولي تلك العبادات الصوم

كذا قاله الشيخ الامام ابو الحسن البكري يدل عليه ما روى عنها انها قالت كان رسول الله ﷺ يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهراً تاماً الا شعبان فقلت يا رسول الله ان الشعبان لمن احب الشهور اليك قال يا عائشة انه ليس نفس تموت في سنة الا كتب اجلها في شعبان فاحب ان يكتب اجلي وانا في عبادة ربي وعمل صالح وعنها ايضاً قال النبي ﷺ انه يكتب فيه يعني شعبان لملك الموت من يقبض فاحب ان لا ينسخ اسمي الا وانا صائم وقد روى عن عائشة ان النسخ يكون في ليلة النصف وليس الليل محل الصوم فالمعنى ان الله يعيد بركة على بركة الصوم على وقت الكتابة من الليل ويحتمل ان يكون الكتابة نهاراً أو تسلم الصحيفة للملك ليلاً كما جاء في حديث اخر رواه ابن ابي الدنيا وعن عطاء ابن يسار قال اذا كان ليلة النصف من شعبان دفع الى ملك الموت صحيفة فيقال اقبض من في هذه الصحيفة فان العبد ليفرش الفراش وينكح الزوج وينى البنيان وان اسمه قد نسخ في الموتى وروى الديلمي عن ابي هريرة تقطع الاجال من شعبان الى شعبان حتى ان الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى وروى عن عثمان بن المغيرة بن الاخنس مثله.

### المقالة الثانية

فيما ورد في فضل ليلة النصف من شعبان بخصوصها عن عكرمة في قول الله سبحانه فيها يفرق كل امرٍ حكيم قال في ليلة النصف في شعبان يبرم امر السنة وينسخ الاحياء ويكتب الحاج فلا يزداد فيهم احد ولا ينقص منهم احد رواه ابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم ذهب اكثر اهل العلم الى ان ذلك يكون في ليلة القدر والابتداء فيه يكون من الليلة النصف من شعبان وعن القاسم بن محمد ابي بكر الصديق عن ابيه وعن عمه عن جده ابي بكر الصديق عن النبي ﷺ قال ينزل الله تعالى الى السماء الدنيا ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل شئ الا لرجل مشرك او في قلبه شحناء رواه البيهقي وعن علي عن النبي ﷺ اذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فان الله



ينزل فيها الغروب الشمس الى السماء الدنيا فيقول الامن مُستغفرٍ فاغفر له  
الامن مُسترزقٍ فازقه الامن متبلى فاعافيه الا كذا الا كذا حتى يطع الفجر رواه  
ابن ماجه والبيهقي قال العبد الضعيف نزول الله تعالى الى السماء الدنيا يكون  
في كل ليلة ولكن يختص ذلك بالثلث الاخير وفي ليلة النصف من شعبان  
يكون من غروب الشمس الى الفجر ولا ينحصر ذلك في الثلث الاخير وهذا  
من فضل هذه الليلة وفي الحديث ان الله اعد لعباده في هذه الليلة عطاء  
عظيم ما لم يعلمنا به لقوله ﷺ الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر كذا قالوا وعن نوفل  
البكالي ان عليا خرج ليلة النصف من شعبان فاكثر الخروج فيها ينظر الى  
السماء الدنيا فقال ان داود عليه السلام خرج ليلة في مثل هذه الساعة يظفر  
الى السماء فقال ان هذه الساعة مادعا الله فيها احد الاجابه والاستغفره احد  
في هذه الساعة الاغفر له ما لم يكن عشاراً او ساحراً او كاهناً او عريفاً او شريطياً  
او جابياً او صاحب كوبة او عرطبة قال نوفل الوكبة والعرطبة التبور اللهم رب  
داود اغفر لمن دعاك في هذه الليلة او استغفرك فيها وفيه ان ليلة النصف من  
شعبان معروفة بالفضل في غير هذه الليلة ايضاً ان الله تعالى ليطلع في ليلة  
النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن او قاطع رحم  
رواه ابن ماجه عن ابي موسى مامن ليلة بعد ليلة القدر افضل من ليلة النصف  
من شعبان ينزل الله فيها الى السماء الدنيا فيغفر لعباده كلهم الا لمشرك  
او مشاحن او قاطع رحم رواه سعيد بن منصور عن عطاء بن يسار يطلع الله  
ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن رواه البيهقي  
عن معاذ بن جبل في ليلة النصف من شعبان يوحى الله تعالى الى ملك الموت  
يقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة رواه الدينوري في المجالسة عن  
راشد بن سعد مرسل يفتح الله الخير في اربع ليال ليلة الاضحى والفطر وليلة  
النصف من شعبان تفتح فيها الاجال والارازق ويكتب فيها الحاج في ليلة  
عرفة الى الاذان اتانى جبرئيل فقال هذه ليلة النصف من شعبان والله فيها  
عتقاء من النار بعد وشر غنم كلب رواه البيهقي وعن عائشة قالت فقدت

النبي ﷺ ذات ليلة فخرجت اطلبه فاذا هو بالبقيع رافعاً رأسه الى السماء فقال  
يا عائشة اكنت تخافين ان يحيف الله عليك ورسوله قلت ومالي من ذلك  
ولكني ظننت انك اتيت بعض نسائك فقال ان الله عز وجل ينزل ليلة  
النصف من شعبان الى السماء الدنيا فيغفر لاكثر من عدد شعر غنم كلب رواه  
ابن ابي شيبة والترمذي وابن ماجه والبيهقي قال في جامع الاصول وزاد رزين  
ممن استحق النار وليس فيه حديث في الباب الا هذا وجاء نحوه بطرق متعددة  
اذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله تعالى الى خلقه فيغفر للمؤمنين  
والمؤمنات ويملي للكافرين ويدع اهل الحق بحقدهم حتى يدعوه رواه  
البيهقي وابن قانع عن ابي ثعلبة الخشني لا ينظر الله فيها يعني في ليلة النصف  
من شعبان الى مشرك ولا الى مشاحن ولا الى قاطع رحم ولا الى مسبل ولا الى  
عاق لوالديه ولا الى مدمن خمر رواه البيهقي في شعب الايمان وضعفه عن  
عائشة اذا كان ليلة النصف من شعبان نادى مناد هل من مستغفر فاغفر له هل من  
سائل فاعطيه فلا يسئل احد شيئاً الا واُعطي الا لزانة بفرجها او مشرك رواه  
البيهقي عن عثمان بن العاص وروى عن كعب ان الله تعالى يعث جبرئيل الى  
الجنة ليلة النصف من شعبان ليأمرها ان تزين ويقول ان الله قد اعتق في ليلتك  
هذه عدد نجوم السماء وعدد ايام الدنيا ولياليها وعدد ورق الشجر وعدد  
الجبال وعدد الرمال وعن عطاء ابن يسار اذا كان اول ليلة من شعبان ينسخ  
لملك الموت كل من يقبض روحه في تلك السنة الى مثلها من العام  
المقبلة وان الرجل لينكح الازواج ويهني ويغرس وبظلم ويفجر وماله اسمه  
في الاحياء رواه ابن زنجوية .

### شرح الفاظ

في القاموس الشحناء الشحنة بالكسر العداوة تباحنه باغضه والمشاحن  
المذكور في الحديث صاحب البدعة التارك للجماعت انتهى وفي النهاية يغفر  
الله لكل عبد ما خلا مشركا او مشاحناى معاديا والشحناء العداوة قال الازاعي  
اراد بالمشاحن هنا صاحب بدعة مفارق جماعة وقال الطيبي الشحنة العداوة

والشملة والحقد ولعل المراد ما يقع بين المسلمين من النفس الامارة باللذين  
 كانه يشحن قلبه بغضاله وفي ناظر عين الغريبين شحنت السفينة ملائها وقي  
 القاموس عشر اخذوا احد من عشرة وعشرهم اخذ ثلث اموالهم العشار قابضه  
 وقال في النهاية عشرة ماله وعشرته فانه عاشرو وعشر وعشارا ما اخذ عشرة  
 وفي الحديث ان لقيتم عاشرا فاقتلوه اى ان وجدتم من يأخذ العشر عادة  
 الجاهلية مقيماً على دينه فاقتلوه لكفره او لاستحلاله له ان كان مسلماً واخذه  
 مستحلاله تار كالفرض الله ربع العشر لا من يأخذه على فرض الله كيف وقد  
 عشر جماعة للنبي ﷺ وللخلفاء بعده وسمى عاشرا الاضافة ما يأخذه الى العشر  
 كربع العشر او نصفه كيف يأخذ العشر جميعه فيما سقته السماء وعشر اموال  
 اهل الذمة في التجارات انتهى وقال الطيبي الاساحرا او عشارا استثناء  
 تشديدا عليهما وانهما كالانسين من رحمة والعريف هو العرف والمراد هنا  
 المنجم اما الذى يدعى علم الغيب فى الحديث من اتى عرافا او كاهنا فصدقه  
 بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد كذا فى النهاية قال الطيبي هو قسم من  
 الكهان يستبدل على معرفة المسروق والضالة بكلام او فعل او حالة والكاهن  
 يخبر عن كهائن فى المستقبل والشرطية بالضم واحد الشرط كصرد وهم  
 طائفة من اعوان الولاة وهو شرطى كتركى وجهتى سمو ابذلك لانهم  
 اعلموا انفسهم بعلامات يعرفون بها كذلك فى القاموس النهاية نجة اصحابه  
 الذى يقدمهم على غيرهم من جنده وقيل هم الشرط والنسبة شرطى كذا فى  
 النهاية وقال الكرمانى صاحب الشرط بضم الشين وفتح الراء جمع الشرط  
 وهو اول الجيش ممن يتقدم بين يدي الامير التنقيد او امره انتهى والمراد  
 بالشرطى هنائب الظلمة من هو من اعوانهم والجبابى من الجبابة بالكسر وهو  
 استخراج المال من مطانها كذا وقال النووى وفى القاموس جبي الخراج  
 كرمى سعى جباية وجباوة انتهى فالمراد بالجبابى الساعى عند السلطان والآتى  
 بالاموال المحرمة والكوبة بالضم هى النردا والطبل والبراقوال ذكرها  
 الجزرى فى النهاية وفى الحديث ان الله حرم الجبر والكوبة ومنه

امر نابكسر الكوبة وقي شرح جامع الاصول هو طبل صغير مختصر ذوالراسين  
والعرطبة العود والطنبور او الطبل او طبل جشة كذا في القاموس وقال في  
النهاية حديث يغفر لكل مذنب الا صاحب عرطبة وكوبة هي بالفتح والضم  
العود وقيل الطنبور والمسبل وهو من يطول ثوبه ويرسل الى الارض اذا مشى  
كبرا وقال عياض في مشارق الانوار حديث ثلثة لا يكلمهم الله فذكر المسبل  
ازاره وهو الذي يجره خيلاء يقال اسبل ثوبه وشعره اي ارخاه انتهى وفي  
صحيح مسلم وعن ابي ذر عن النبي ﷺ قال ثلثة لا يكلمهم الله يوم القيامة  
ولا ينظر اليهم ولا يزكهم ولهم عذاب اليم قال فقراها رسول الله ﷺ ثلث  
مرار قال ابو ذر خابوا وخسروا امن هم يا رسول الله قال المسبل والمنان بما  
اعطى والمتفق سلعته بالحلف الكاذب وقال الامام النووي في شرح مسلم  
المسبل ازاره معناه المرخي له الجاز خيلاء طرفه جاء مسفرا في الحديث  
الآخر لا ينظر الله الي من جر ثوبه خيلاء والخيلاء الكبر وهذا التقييد  
بالجو خيلاء مخصص عموم المسبل ويدل على ان المراد بالوعيد من جرّه  
خيلاء وقد رخص النبي ﷺ لابي بكر الصديق في ذلك وقال لست منهم  
اذا كان جرّه خيلاء وقال الامام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري وغيره  
وذكر اسبال الازار وحده لانه كان عامة لباسهم وحكم غيره من القميص وغيره  
وحكمه قلت وقد وجد ذلك ميّنا منصوفا عليه من كلام رسول الله ﷺ من  
رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن النبي ﷺ قال الاسبال في  
الازار والقميص والعمامة من جرّ شيئا خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة رواه  
ابوداؤد والنسائي وابن ماجه باسناد حسن انتهى كلام النووي قلت وقد ورد في اكثر طرق  
الحديث الذي نحن فيه مطلقا وقي بعضها المسبل ازاره ولعله قيده بعض الرواة على  
حسب فهمه من جهة شوع استعمال الازار وشهرته في الازار والله تعالى اعلم.

### المقالة الثالثة

في قيام ليلة النصف من شعبان وصيام يومها او ما ثبت فيها من الادعية  
والاذاكار عن علي بن ابي طالب قال قال رسول الله ﷺ اذا كان ليلة النصف من

شعبان فقوموا ليلها وصوموا يومها الحديث عن عائشة قالت كانت ليلة  
 النصف من شعبان ليلتي وكان رسول الله ﷺ عندي فلما كان في جوف الليل  
 فقدته فاخذني ما يأخذ النساء من الغيرة فتلففت وبمرطى<sup>۱</sup> فطلبت في حجر  
 نسائه فلم أجده فانصرفت الى حجرتي فاذا انا به كالثوب الساقط وهو يقول في  
 سجوده سجد لك خيالي وسوادى وأمن بك فؤادى فهذه يدي ماجنيت بها  
 على نفسي يا عظيم يرجى لكل عظيم. اغفر الذنب العظيم سجد وجهي للذي  
 خلقه وصوره وشق سمعه وبصره ثم رفع رأسه ثم عاد ساجدا فقال  
 اعوذ بربضاك من سخطك واعوذ بعفوك من عقابك منك لا احصى ثناء  
 عليك انت كما اثبت على نفسك اقول كما قال اخي داود اعفرو وجهي<sup>۲</sup> في  
 التراب لسيدى وحق له ان يسجد ثم رفع رأسه فقال اللهم ارزقني قلبا تقيا من  
 الشرك ونقيا لا فاجرا ولا شقيا ثم انصرف ودخل معي في الخميعة ولى نفس  
 عال فقال ما هذه النفس يا حميراء فاخبرته فطفق يمسح بيديه على ركبتي  
 ويقول وليس<sup>۳</sup> هاتان الركبتان مالقينا في هذه الليلة النصف من شعبان ينزل الله  
 فيها الى السماء الدنيا فيغفر لعباده الا لمشرك او لمشاحن رواه البيهقي قال  
 الشيخ الامام العارف بالله ابو الحسن البكري ومن اولي ما يدعى به في هذا  
 الليلة اللهم انك كريم تحب العفو فاعف عني اللهم اني اسألك العفو  
 والعافية والمعافة الدائمة في الدنيا والاخرة لورود ذلك في ليلة القدر وهذه  
 افضل الليالي بعدها كما مر ومن اولي ما يدعى به مارواه جمع بسند لا بأس به  
 عن ابي برزده قال قال رسول الله ﷺ لما هبط آدم الى الارض طاف اسبوعا  
 بالبيت وصلّى خلف المقام ركعتين ثم قال اللهم انك تعلم سرى وعلا نيتي  
 فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سئولى وتعلم ما فى نفسى فاغفر لى  
 ذنوبى اسألك ايما نا يباشر قلبى و يقينا صادقا حتى اعلمه انه لا صيبنى  
 الا ما كتبت لى ورضاتك قسمت لى فاوحى الله اليه يا آدم انك دعوتنى  
 بدعاء فاستجبت لك ولن يدعونى به احد من ذريتك من بعدك الا

۱۔ اولی کبیل

۲۔ غبار آلودہ کرنا

۳۔ مہربانی کرنے اور اپنے بچوں کو بہلانے کے لئے یہ کلمہ ”ویس“ بولتے ہیں۔ از مترجم ۱۲-۱۲-۱۲

ستجبت له و غفرت له ذنبه و فرجت همته و غمته و اتجرت له من وراء تجارة  
 كل تاجر و اثبتته الدنيا و هي راغمة و ان لا يريد ها و اختلف الآثار في احياء هذه  
 الليلة و قال به من التابعين خالد بن معدان و مكحول و لقمان بن عمرو  
 خالف في ذلك عطاء ابن ابي مليكة و غيرهما و عليه اصحاب مالك  
 الشافعي و كان خالد بن معدان و لقمان بن عمرو و اباهما اسحق بن راهويه  
 يحيى هذه الليلة بجماعة في المسجد و كان خالد و لقمان يلبسان فيها احسن  
 الثياب و يكتحلان و يقومان في المسجد تلك الليلة فاذا احياءه الرجل  
 لنفسه فالظاهر ندبه للاحاديث السابقة و مثلها يعمل به في الفضائل و قال  
 به الاوزاعي و روى عن عمر و ابن عبد العزيز انه كتب لعامله بالبصرة  
 عليك باربع ليال من السنة فان الله يفرغ فيه الخير افرغاً اول ليلة من  
 رجب و ليلة النصف من شعبان و ليلة الفطر و ليلة من رجب و ليلة النصف  
 من شعبان و ليلة الفطر و ليلة الاضحى لكن النظر في صحته و قال  
 الشافعي ان الدعاء يستجاب في خمس ليال ليلة الجمعة و العید بن و  
 اول ليلة من رجب و نصف شعبان و لانص للإمامه احمد في احيائها عنه  
 روايتان من احيى ليلة العيد ين انتهى و مما بنت من فعله صلى الله عليه  
 و سلم انه اتى المقبرة ليلة النصف من شعبان ليستغفر للمؤمنين و  
 المؤمنات و الشهداء عن عائشة قال دخل على رسول صلى الله عليه  
 و سلم فوضع عنه ثوبيه ثم لم يستتم ان قامه فلبسهما فاخذتني غيرة  
 شديدة ظننت انه ياتي بعض صوحباتي فخرجت اتبعه فاذا دركته  
 بالبقيع بقيع الفرقد يستغفر للمؤمنين و المؤمنات و الشهداء فقلت  
 بابي انت و امي في حاجة ربك و انا في حاجة الدنيا فانصرفت فدخلت  
 في حجرتي و لى نفس عال لحقني رسول ﷺ فقال ما هذا النفس يا عائشة فقلت  
 بابي انت و امي اتيتني فوضعت ثوبيك ثم لم تستم ان قمت فلبستهما فاخذتني  
 غيرة شديدة و ظننت انك تاتي بعض صوحباتي حتى رايتك بالبقيع تصنع  
 ما تصنع قال يا عائشة اكنت تخافين ان يحيف الله عليك و رسوله بل اتاني

جبرئيل عليه السلام فقال هذه الليلة ليلة النصف من شعبان والله فيها اعتقاء  
 من النار بعدد شعر غنم كلب ولا ينظر الله فيها الى مشرك ولا الى قاطع  
 رحمه ولا الى مسبل ولا الى عاق والديه ولا الى مدمن خمر قالت فوضع  
 ثوبه فقال يا عائشة تأذنين قيامه هذه الليلة فقلت نعم بابي انت وامى فقام  
 فسجد طويلا حتى ظننت انه قبض فقامت التمسسه ووضع يدي على بطن  
 قدميه فتحرك ففرحت وسمعتة يقول فى سجوده اعوذ بعفوك من  
 عقابك واعوذ برضاك من سخطك واعوذ بك منك جل وجهك  
 لا احصى ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك فلما اصبح ذكرتهن  
 ليلة فقال يا عائشة تعلميهن وعلميهن فان جبرئيل عليه السلام علميهن  
 وامرنى ان اردوهن فى السجود رواه البيهقى و عنها قام رسول الله ﷺ من  
 الليل يصلى فاطال السجود حتى ظننت انه قد قبض فلما رأيت ذلك قمت  
 حتى حركت ابهامه فتحرك فرجعت فلما رفع رأسه من السجود وفرغ من  
 صلوة قال يا عائشة اوياحميراء اظنت ان النبى قد خاسر بك فقلت لا والله  
 يا رسول الله ولكنى ظننت انك قبضت لطول سجودك فقال أتدريين اى  
 ليلة هى قلت الله ورسوله اعلم قال هذه ليلة النصف من شعبان ان الله  
 يصلح على عباده فى ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم  
 للمترحمين ويؤخر اهل الحق كما هم رواه البيهقى ومما يروى يروى من  
 الصلوة فى هذه الليلة عن على مرتضى قال رأيت رسول الله ﷺ فى ليلة  
 النصف من شعبان قام فصلّى اربعة عشر ركعة ثم جلس بعد الفراغ فقرأ بام  
 الكتاب اربع عشر مرة وقل هو الله احد اربع عشر مرة وقل اعوذ برب الفلق  
 اربع عشر مرة وقل اعوذ برب الناس اربع عشر مرة واية الكرسي  
 مرة ولقد جاءكم رسول من انفسكم الاية لما فرغ من صلوة سألت  
 عمّاراً من صنعته قال من صنع مثل الذى رأيت كان كعشرين حجة  
 مبرورة وصيام عشرين سنة مقبولة فان اصبح فى ذلك اليوم مما كان  
 له كصيام سنتين سنة ما ضية وسنة مستقبلة رواه البيهقى فى شعب الايمان

وقال يشبه ان يكون هذا الحديث موضوعاً في رواية مجهولين وهو منكر  
واخرجه الجوزقاني في اباطيل وابن الجوزي في الموضوعات وقال  
موضوع واسناده مظلم وفي تنزية الشريعة في الاحاديث للموضوعه  
حديث علي ان النبي ﷺ قال يا علي من صلى مائة ركعة في ليلة النصف  
من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله احد عشر مرات  
الحديث اخر ويأمر الكتابين ان لا يكتبوا علي عبدى سيئة واكتبوا له  
الحسنات الى ان يحول عليه الحول ومن صلى هذه الصلوة فالرب يجعل  
له نصيباً من عنده تلك الليلة قال ابن الجوزي فيه مجاهيل وضعفاء  
حديث من قرأ ليلة النصف من شعبان الف مرة قل هو الله احد في مائة ركعة  
لم يخرج من الدنيا حتى يبعث الله عليه في منامه مائة ملك ثلثون يبشرونه  
بالجنة وثلثون ينسونه من النار وثلثون يعصمون من ان يخطى وعشرة  
يكذبون من عبادة قال ابن الجوزي فيه مجاهيل ومتهمون حديث علي  
رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله ﷺ ليلة النصف من شعبان فصلّى اربع  
عشر ركعة الحديث واسناده مظلم وقال البيهقي يشبه ان يكون موضوعاً  
ومن البدع الشنيعة ما تعارف الناس في اكثر بلاد الهند من ايقاد السرج  
ووضعها على البيوت والجدران وتفأخرهم بذلك واجتماعهم  
اللهو واللعب بالنار واحراق الكبريت فانه مما لا اصل له في الكتب  
الصّحيحة المعتمدة ولم يرو فيها حديث لا ضعيف ولا موضوع ولا يعتاد  
ذلك في غير بلاد الهند من الديار العربية من الحرمين الشريفين زادهما  
الله تعالى تعظيماً وتشريفاً ولا في غيرهما ولا في البلاد العجمية ما عدا بلاد  
الهند بل عسى ان يكون ذلك وهو الظن الغالب اتحاذاً من رسوم الهنود  
في ايقاد السرج للدوالي فان عامة الرسوم البدعية الشنيعة بقيت من ايام  
الكفر في الهند وشاعت في المسلمين بسبب المجاورة والاختلاط واتخاذهم  
السراى والزوجات من النساء الكافرات قال بعض المتأخرين



من العلماء ان استحداث السرج الكثيرة في الليالي المخصوصة مامن  
البدعة الشنيعة فان كثرة الوقيد زيادة على الحاجة لم يرد ما استحبابه  
اثر في الشرع في موضع<sup>١</sup> قال قال علي ابن ابراهيم واول حدوث الوقيد من  
البر امكة وكانوا عبدة النار فلما اسلموا ادخلوا في الاسلام ما يموهون انه من  
سنن الهدى ومقصودهم عبادة النيران حيث سجدوا مع المسلمين الى تلك  
السرج وقد جعلها جهلة ائمة المساجد نحو صلوة الرغائب شيكة لجمع العوام  
وطلب الرياسة والتقدم وملا بذكرها القصاص مجالسهم ثم انه تعالى اقام ائمة  
الهدى في سعي ابطال امثال هذا المنكرات فتلاشى امرها وتكامل ابطالها في  
البلاد المصرية والشامية في اوائل المائة الثانية<sup>٢</sup> قد انكر الطرطوسي  
الاجتماع ليلة الختم ونصب المنابر اختلاط الرجال والنساء والتلاعب بينهم  
حتى يكون ما يكون كذا في التذكرة.



١ اما في ختم التراويح وفي يوم الميلاد ، اتخاذا السروج وايقادها مستحسن عند المتأخرين من الفقهاء  
لا الحنفية وغيرهم ١٢ . ١٢ . ١٢

## شَهْرَ رَمَضَانَ

واما شهر رمضان ففيه صيام وقيام والمراد بالقيام التراويح ونذكر ههنا احكامها والمسائل المتعلقة بها اعلم انه قد اختلف العلماء في التراويح هل تسمى سنة فقال بعضهم لاهى من النوافل وتسمى مستحبة وقال بعضهم تسمى مستحبة وقال بعضهم تسمى سنة وهو الاصح وهى سنة مؤكدة للرجال والنساء توارثها الخلف عن السلف وانقطع الخلاف لرواية الحسن عن ابي حنيفة انها سنة لا ينبغي تركها وهذا لان النبي ﷺ قد اقامها بعض الليالى ثم تركها وبين العذر في ترك المواظبة وهو خشية ان يكتب علينا ثم واظب عليها الخلفاء الراشدون خصوصا امير المؤمنين عمر اجمعين كما جاء في الاحاديث وقد قال النبي ﷺ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى وذكر بعض كتب الفقهية لو ترك اهل البدعة التراويح قاتلهم الامام على ذلك ويروى انه كانت عائشة عنها تقوم خلف زكوان مولى لها وكذلك ام سلمة كانت تقوم بجماعة النساء امتها مولاتها ام الحسن البصرى وبذكر الكلام فيها في عدة فصول.

### الفصل الاول في عدد ركعاتها

فعندنا عشرون ركعة لما روى البيهقي باسناد صحيح انهم كانوا يقومون على عهد عمر بعشرين ركعة وفي عهد عثمان وعلى مثله وروى عن ابن عباس انه رسول الله ﷺ صلى عشر ركعة في رمضان ثم اوتر بعدها بثلاث لكن المحدثين قالوا ان هذا الحديث ضعيف والصحيح ما روته عائشة انه صلى احدى عشرة ركعة كما هو عادته في قيام الليل وروى انه كان بعض السلف في الامر في عهد عمر بن عبدالعزيز يصلون باحدى عشرة ركعة قصد التشبيه

برسول الله ﷺ والذي استقر الامر واشتهر من الصحابة والتابعين ومن بعدهم هو العشرون وما روى انها ثلث وعشرون فله حساب الوتر معها وقال مالك ويروى عن الشافعي ايضا انها ست وثلثون او تسع وثلثون مع الوتر فهو عمل اهل المدينة خاصة وقالوا سبب ذلك ان اهل مكة يطوفون بالبيت اسبوعا ويصلون ركعتي الطواف بين كل ترويحتين واهل المدينة لما بعدوا من ادراك هذا لفضية صلوا بين ذلك اربع ركعات ويسمون بها الست عشرية واستوعادتهم على ذلك انى الآن وقد يروى عن عمر وعلى لكنه غير مشهور عنهما فان صلى غيرهم ايضا لا بأس ويستوى فيه الامام وغيره وينبغي ان يُصلوا فرادى لان التفل بالجماعة والتفل بالجماعة لا يكره عندهم قال الشيخ قال الحنفى من متأخرى علماء مصر التفل بالجماعة مكروه لانه لو كان مستحبا لكانت افضل كما لمكتوبات ولو كانت افضل لكان المتهجدون القائمون بالليل يجتمعون فيصلون جماعة طلبا للفضيلة فلما لم يزود ذلك عن رسول الله ﷺ ولا عن اصحابه علم انه لا فضل فى ذلك .

### الفصل الثاني

المستحب ان يجلس بين كل ترويحتين مقدار ترويحة وكذا بين الخامسة والوتر وهو المروى من ابى حنيفة ولان التراويح مأخوذ من الراحة ففيه تحقيق اسمها هو المروى عن السلف واهل الحرمين كانوا مجتمعين على ذلك اما اهل مكة فانهم يطوفون اسبوعا اهل المدينة يصلون اربعا وكذا هل كل بلد من بلاد المسلمين ثم هو بالخيار ان شاء سبح أو هلل او صلى او قرأ القرآن او سكت ولو ترك الاستراحة بين كل ترويحتين فليل لا بأس به وقيل لا يستحب لانه يخالف عمل اهل الحرمين الشريفين زادهما الله تشريفا وتعظيما قال العبد الضعيف صلح الله حاله واحسن مبداء ماله ان الانتظار بين الترويحتين على ما تعارف بين الحفاظ فى هذه الزمان من تطويل القراءة فى التراويح صعب على المصلين بل يمكن ان يقضى الليل وبهذا يظهر ان تطويل القراءة غير مستحسن لاستلزامه قرات هذا العمل المستحب للتوارث من

السلف ينبغي رعاية الاعتدال في القراءة كما يتيسر الترويحات وسيأتي حكم  
القراءة في التراويح والأستراح مقدار أربع ركعات بقراءة معتدلة دون قدر ماصلي  
الترويح لكفى ان شاء الله ونرجو من الله القبول.

### الفصل الثاني في نية التراويح

فان نوى التراويح او سنة الوقت او قيام الليل في رمضان جاز وان نوى صلوة  
مطلقة او نوى تطوعاً فحسب اختلاف المشائخ فيه حسب اختلافهم في اداء  
السنن الرواتب ذكر بعد المتقدمين ان الاصح ان لا يجوز لانها سنة والسنة  
لا تتأدى بنية مطلق الصلوة كما روى الحسن ابى حنيفة في ركعتي الفجر  
وهذا لانها صلوة مخصوصة كالمكتوبات فيجب مراعات الصفة فلا تتأدى  
بمطلق النية لانها نوافل والنوافل تتأدى بمطلق النية والاحتياط ان ينوى الصلوة  
متابعة لرسول الله ﷺ ليكون ابعد عن الاختلاف ثم قيل هل يحتاج لكل شفيع  
من التراويح عليحدة ان ينوبها او لا يحتاج اذ الكل بمنزلة صلوة واحدة.

### الفصل الرابع في قدر القراءة

#### في التراويح

اختلفوا فيه فقليل يقرأ مقدار ما يقرأ في المغرب لانها اخف من اخف  
المكتوبات وهذا غير سديد لانه لا يقع بهذا القدر الختم في رمضان وقال  
بعضهم يقرأ كما يقرأ في العشاء لانها تبع للعشاء في وقتها وروى الحسن عن  
ابى حنيفة انه يقرأ في كل ركعة عشرايات ونحوها لانه يقع به الختم مرة لان  
عدد ركعات التراويح ست مائة وايات القران ستة الاف فيكون في كل ركعة  
عشرايات تقريبا وبعضهم يقرأ في كل ركعة عشرين الي ثنتين لماروى عن  
عمر بن الخطاب انه دعا ثلثة من الائمة فامر احدهم يقرأ في كل ركعة عشرين  
الي ثلثين اية وامر الثاني ان يقرأ خمسا وعشرين اية وامر الثالث ان يقرأ عشرين  
اية في كل ركعة فما قاله عمر فضيلة وما قاله ابو حنيفة سنة وهذا لانهم  
اتفقوا على ان السنة الختم مرة والفضيلة مرة والفضيلة الختم مرتين  
والافضيلة الختم ثلث مرات والختم يقع مرة بما قاله ابو حنيفة ومرتين او ثلث

مرات بما امر عمر كذا قال او منهم من المستحسن الختم في الليلة السابعة والعشرين رجاء ان ينالوا فضيلة ليلة القدر اذا الاخبار تظاهرت وكثرت على انها هي ليلة القدر ولذا جعل المشائخ بخار القرآن خمس مائة واربعين ركوعا واعلموا المصاحف بها يقع الختم في الليلة السابعة والعشرين ومن المتقدمين من مشائخنا من قال الفضل ان يقرأ في كل ركعة ثلثين آية ويختم في كل عشر ختمة لان كل عشر من الشهر متميز مخصوص وقد جاء في الحديث انه شهر اوله رحمة واوسطه مغفرة واخره عتق من النار وروى عن ابي حنيفة انه كان يختم في شهر رمضان احدى وستين ختمة ثلثين في الليالي وثلثين في الايام وواحدة في التراويح وقدرى في مواهب اللذاتية مثل ذلك وعن الشافعي ثم قالوا الفضل تعديل القرآن بين التسليمات كما روى الحسن عن ابي حنيفة وجاء عن عمرو ان خالف فلا بأس به واما التسليمة الواحدة فانه لا يستحب تطويل القراءة في الثانية بلا خوف كما في سائر الصلوات وان طول القراءة في الاولى على الثانية فلا بأس واما المختار فان يجب ان يكون على الاختلاف عند ابي حنيفة وابي يوسف فان عندهما يكون المختار التسوية بين الركعتين ويكون المختار عند محمد تطويل الركعة الاولى على الثانية كما في الصلوات المفروضة مسألة اذا غلط في التراويح فترك سورة او آية وقرأ ما بعدها فامسح ان يقرأ المتروكة ثم المقرئية ليكون على الترتيب مسألة واذا فسد شفع من التراويح وقد قرأ فيه هل يعيد لان المقصود هو القراءة وقيل يعيد فيكون الختم في الصلوة الصحيح وحكم الفتح على ما عرف في الاخرى من الاختلاف فيه والفتوى على عدم الفساد وقيل لاختلاف في التراويح لمكان الضرورة وقالوا لاختلاف في التراويح لمكان الضرورة وقالوا لا ينبغي للقوم ان يقدموا في التراويح الخوشوان ولكن يقدموا الدرستخوان فان الامام اذا كان يقرأ بصوت حن يشغل عن الخشوع والتلبر والتفكر وكذا اذا كان لحانا لا بأس بان يترك مسجده كذا في سنن الهدى ولو كان الفقيه قاريا فالافضل له ان يصل بقراءة نفسه ولا يقتدى بغيره ولا ينقص تسيحات

الركوع والسجود عن الثلاثة ولا يترك ثناء الاستفتاح والصلوات على النبي  
 ﷺ ايضاً لأنها سنن وقد يذكر في بعض كتب الفقه خلافه والصحيح هو الاول  
 وما باقى الدعوات فان علم من حال القوم ان لا يثقل عليهم يأتى بها  
 والاولا واذا قرأ فى الشفع الاخير فى الركعة الاولى المعوذتين قيل قرأ فى الثانية  
 فاتحة الكتاب وشيئاً من البقرة فيكون حالاً مرتحلاً وقيل يعيد قل اعوذ برب  
 الناس ولا يقرأ شيئاً من البقرة مراعاة للنظم والترتيب والمسنون المعمول عليه  
 فى الحرمين وسائر ديار العرب التكبير عند الختم من والضخى الى اخر  
 القرآن والمختار فيه لا اله الا الله والله اكبر ولو اكتفى بالله اكبر صرح ولولم يكن  
 الامام حافظ القرآن فقيل الافضل ان يقرأ سورة الاخلاص فى كل ركعة وقيل  
 الافضل ان يقرأ فى كل ركعة سورة من القصار وهذا حسن لتلا يشبهه عليه  
 عدد ركعات ولا يشتغل فيه بحفظها فيفرغ للتدبر والتفكر والتعارف فى هذا  
 الزمان الحرمين وديار العرب ان يقرأ فى الركعة الاولى من الشفع الثانى سورة  
 لا يلاف وفى الثانية قل هو الله احد وهكذا حتى يقرأ فى الشفع الثامن قل هو الله  
 احد فى الركعتين وفى التاسع قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وفى العاشر  
 قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق.

## الفصل الخامس فى اداء التراويح

### بجماعة

من ترك التراويح بجماعة وصلاته فى البيت ففيه اختلاف المشايخ منهم من  
 قال يكون تاركاً للسننة وهو مسمى لما روى عن النبي ﷺ انه قرأ من صلى  
 التراويح بالجماعة وهكذا نقل عن اصحابه وعليه اتفاق فقهاء الامصار ومنهم  
 من قال يكون تاركاً للفضيلة ولا بأس به لما روى عن بعض السلف ذلك  
 ولانه النبي ﷺ بعد ما ترك القيام بالقوم تركهم يصلون فى بيوتهم كيف  
 شاؤوا وكان الامر على عهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر هكذائهم  
 استقر الامر على الجماعة وهو افضل قال الشيخ قاسم الحنفى والصحيح ان  
 اقامتها بالجماعة سنة على الكفاية حتى البوتر كاهل المسجد كلهم على

الجماعة فقد تركوا السنة واساء وافى ذلك وان اقيمت التراويح  
 بالجماعة في المسجد فمن تخلف عنها من افراد الناس وصلى في بيته فقد  
 ترك الفضيلة ولم يكن مستيا وان صلوا بالجماعة في البيت اختلف فيه  
 المشائخ والصحيح ان للجماعة فضيلة وللجماعة في المسجد فضيلة  
 اخرى فهذا قد حازا<sup>١</sup> احدي فضيلتين وترك الاخرى وهكذا في  
 المكتوبات انتهى وقيل هي كسائر السنن تصلى فرادى اذ هو اقرب الى  
 الاخلاص وابعد من الرياء وقدور دفي الصحيح افضل صلوة المرأة في بيته  
 ما عد المكتوبة اقول وهذا القول غير مختار لانه انما يكون في غير ما ورد فيه  
 الجماعة والتراويح قدورد فيها الجماعة كما ذكرنا وعن ابي يوسف انه ان  
 امكنه اداءها في بيته مع مراعات سنة القراءة واشباهها فيصلها في بيته الا ان  
 يكون فيها كبيرا يفتدي به ويكثر الجمع بحضرته فلا ينبغي له ترك  
 الجماعة مسألة يكره ان يستأجروا رجلا يؤمهم اذا استجار الامام فاسد  
 مسألة لو اقاموا التراويح بامامين فصلى كل امام بتسليمة فالصحيح انه  
 لا يستحب وانما يستحب ان يصلى كل امام ترويحة وعلى هذا يجوز ان  
 يصلى الفريضة احدهما والاخرة التراويح مسألة لو صلى امام واحد  
 التراويح في مسجدين في كل مسجد على المكان اختلف فيه فليل يجوز  
 لاهل المسجدين كما لو اذن المؤذن واقام وصلى ثم صلى في المسجد  
 اخر وصلى معهم فانه لا يكره.

### الفصل السادس

اذا صلى التراويح قاعدا من غير عذر فالكلام فيه في موضعين في  
 الجواز والاستحباب اما الكلام في الجواز فقد اختلف المشائخ فيه منهم من  
 قال لا يجوز قاعد امن غير عذر لا يجوز<sup>٢</sup> قال هذه سنة تشابهت ركعتي الفجر  
 من قال هذه نافلة لم نختص بزيادة تو كيد مثل سنة الفجر فصارت كسائر السنن

<sup>١</sup> حاز بمعنى جمع كرليا پاليا - ١٢ - <sup>٢</sup> التواريخ.

والنوافل والدلیل<sup>۱</sup> روایۃ ابی سلمان عن ابی حنیفۃ و ابی یوسف و محمد ولم  
 یفصلوا بین العذر و غیر العذر و اما الکلام فی الاستحباب فالصّحیح انه  
 لا یتحب لانه ینخالف المتواتر من عمل السلف و اذا صلی الامام قاعدًا  
 التراویح بعذر او بغير عذر والقوم قیام فالکلام فی هذا الفصل ایضاً فی  
 الموضوعین فی الجواز و الاستحباب اما الکلام فی الجواز فاختلف المشائخ فیہ  
 منهم من قال جاز عند ابی حنیفۃ و ابی یوسف ولم یجز عند محمد اعتباراً  
 بالفرض و قال بعضهم یجوز عندهم جميعاً وهو الصحیح لانهم لو قعدوا جاز  
 فاذا قاموا کان بالجواز اولی و اما الکلام فی الاستحباب فعند ابی حنیفۃ و ابی  
 یوسف رحهما الله تعالی المستحب ان یقوم الالعذر لانه جاز لهم القعود و القیام  
 فالقیام افضل لامحالة و عند محمد المستحب ان یقوم لان هذا الاختلاف  
 معتبر عنده حتی منع الفرض من الجواز فکذا یمنع النفل من الاستحباب  
 مسألة یکره للمقتدی ان یقعد فی التراویح فاذا ارد الامام ان یرکع یقوم  
 لان فیہ اظهار التکاسل فی الصلوة و التشبه بالمنافقین قال الله تعالی  
 و اذا قاموا الی الصلوة قاموا کسالی و کذا اذا غلبه النوم یکره ان یصلی مع النوم  
 بل ینصرف حتی یتیقظ لان فی الصلوة مع النوم تهاونا و غفلة و ترکا  
 للتدبر و کذا لو صلی علی السطح لاجل الجر کذا فی الخلاصة و قد قال الله  
 تعالی قل نار جهنم اشد حراً لو کانو یفقهون.

### الفصل السابع

الافضل<sup>۲</sup> ان یوتر بجماعة فی رمضان فقط و علیہ اجماع المسلمین و اختلفوا  
 فی الفضل فقال بعضهم الافضل الجماعة و قال الآخرون الافضل ان یوتر فی  
 منزلة او هو المختار لان الصحابة لم یجمعوا علی الوتر بجماعة کاجماعهم علی  
 التراویح کذا فی التبیین و شرح الهدایة لابن الهمام و العنایة و فی روایة

۱۔ بغیر عذر بیٹھ کر تراویح پڑھنے کے جواز کی دلیل یہ ہے۔ - ۱۲-۱۲۔ ۲۔ گھر میں تنہا تراویح کرنے کی بہ نسبت ماہ  
 رمضان میں جماعت سے تراویح پڑھنا افضل ہے و الصحیح یجوز کما فی الغرائب - ۱۲-۱۲-۱۲۔



یوتر بعده بجماعة الا ان يكون له التهجد فيجعل الوتر بعده ويجهر الامام في الوتر في رمضان في الثلث والمنفرد بالخيار واختلفوا في ارسال اليدين حال القنوت والاعتماد واختلفوا في المقتدى في الوتر فليل يقنت الى قوله بالكفار ملحق وحينئذ يسكت وقيل يؤمن وقيل هو بالخيار ان شاء امن وان شاء قنت وفي التبيين ويتبع المؤتم فانت الوتر في قنوته ويخفي لانه دعاء وقيل يجهر وقيل عند محمد يقنت الامام دون المؤتم كما لا يقرأ والصحيح الاول **مسئلة** اذ اقامته ترويجة او تر ترويحان وقام الامام في الوتر اختلف فيه فليل يوتر مع الامام ثم يقضى مافاته وقيل بقدوم القضاء **مسئلة** لور كع الامام في الوتر قبل ان يفرغ المقتدى من القنوت فانه يتابعه لان القنوت ليس بموقف ولا مقدر. **مسئلة** المسبوق في الوتر اذ اقامت مع الامام لا يقنت في قضاء مافاته **مسئلة** اذ شكوا انهم صلوا تسع تسليمات او عشر اختلف المشائخ فيه قال بعضهم اعدوا بتسليمة واحدة بالجماعة احتياطا وقال بعضهم لا يزيدون لان الزيادة على التراويح بالشك لا يجوز والصحيح انهم يصلون تسليمة اخرى فرادى حتى يقع الاحتياط في فعل السنة باتمامها ويقع الاحتراز عن اداء النافلة بجماعة غير التراويح **مسئلة** اذا صلى الترويجة الواحدة امامان كل واحد بتسليمة اختلفوا فيه قيل لا بأس به والصحيح انه لا يستحب ذلك ولكن كل ترويجة يؤديها امام واحد وعليه عمل اهل الحرمين وغيرهم ويكون تبديل الامام منزلة الانتظار.

### الفصل الثامن في وقت التراويح

اختلف المشائخ فيه قالت جماعة من اصحابنا الحنفية ومنهم الشيخ اسمعيل الزاهد الليلة كلها الى طلوع الفجر وقت لها قبل العشاء او بعدها وقيل الوتر او بعدها لانها قيام الليل وكان شرطها الليل فحسب فقال عامة مشائخ بخار اوقتها ما بين العشاء والوتر فلو صلها قبل العشاء او بعد الوتر لم يؤديها في وقتها لان الآثار قد وردت هكذا وانما يتبع التراويح الآثار والصحيح ان وقتها ما بعد العشاء الى طلوع الفجر حتى لو صلها بعد الوتر جاز ولو صلها قبل

لعشاء لاتجوز لانها نوافل سنة بعد العشاء فاشبهن التطوع المسنون بعد  
عشاء في غير رمضان وتجوز الصلوة بعد الوتر غايته ان الافضل ان يكون الوتر  
اخر صلوة الليل كما حقوق في موضعه المستحب تاخيرها الى ثلث الليل  
او نصفه وقيل يكره اداءه ابعد النصف تشبيها بتاخير العشاء والصحيح انه  
لا يكره لانها صلوة الليل وبعضهم والافضل فيها اخره وفي فتاوى قاضى خان  
ويستحب تاخير التراويح الى ما بعد نصف الليل وبعضهم قالوا به وهو  
الصحيح وفي الخلاصة الافضل في التراويح استيعاب اكثر الليل بالصلوة  
والانتظار والاستراحة ولو اخرها الى اخر الليل الصحيح انه يجوز من غير  
كراهة . مسألة اذافات التراويح هل تقضى بعد وقتها بالجماعة او بغير  
الجماعة فالجواب لاتقضى بجماعة واما القضاء بغير جماعة فاختلف  
المشائخ فيه قال بعضهم تقضى ما لم يمض شهر رمضان وقال بعضهم  
لاتقضى اصلا وهو الصحيح لانها ليست باكدمن السنة يعد المغرب  
والعشاء وتلك لاتقضى بجماعة بالاجماع ولو كانت تقضى . لقضيت  
كمافات فان قضاها منفردا كان مستحبا كسنة المغرب اذا قضاها كذا قال  
الشيخ قاسم الحنفى ونقل فى السنن الهدى عن الواجبة لو قضاها منفردا  
لكان فعلا حسنا ثم مسائل التراويح .



مسئلة ولوتذكر التسليمة بعد ان صلوة الوتر قال محمد بن الفضل لا يصلونها بجماعة وقال  
الصدر الشهيد يجوز ان يصلوها بجماعة يشتغل بالوتر ان يصلى مافات منه التراويح كما  
لويقتى الشيخ الامام ظهير الدين وكذا فى الخلاصة ولو صلى الوتر مقتد يابمن يصلى مكتوبة  
وترا او نافلة لا يصح الاقتداء به لانه مكروه مخالف له كذا فى الفتاوى علمغيره والحق ان  
صلى الفرض بجماعة يصلى الوتر بجماعة كما هو الحق والعلم عند الملك العزيز .

## شَهْرُ شَوَّالٍ

شهر شریف من اوائل شهر الحج ویسمی شهر الفطر و فیہ یوم العید یوم مغفرة الذنوب و قدورد فی الحدیث<sup>۱</sup> عن انس انه اذا كان یوم العید باهى الله تعالى بعباده الصالحین ملائکته فقال یاملنکتی ماجزاء اجیرو فی عملہ قالوا ربنا جزاءہ ان یوفی اجرہ یاملنکتی عیدی وامائی قضوا فریضتی علیہم ثم خرجوا یعجون<sup>۲</sup> الی الدعاء و عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لاجینہم فیقول ارجعوا قد غفرت لکم و بدلت سیاتکم حسنات قال فیرجعون مغفوراً لهم رواہ البیهقی فی شعب الایمان و من السنۃ فی یوم عید الفطر قبل ان یرج الی المصلی و کان رسول اللہ ﷺ یأکل تمرات و تراہکذا جاء فی روایة البخاری عن انس و روی الحاکم عن عتیبة بن حمید کان یأکل ثلثاً او خمساً او سبعا او اقل او اکثر و قالوا بالحکمة فی استحباب اکل التمر حلاوته و الحلاوته تقوی البصر بضعفه الصوم و ایضاً الحلو یرفق القلب و یوافق مزاج الایمان و لذاورد المؤمن حلوی<sup>۳</sup> رای احد فی منامہ انه کان یأکل حلوا کان تعبیرہ ان یكون له نصیب من لذة الایمان و لهذا کان الافطار بالحلوا افضل کالعسل و التمر مع ما فی التمر من خواص خصوصاً فی تمر المدینة علی ما ذکر فی موضعه ثلثاً او خمساً او سبعا ثم یرج الی المصلی و مما صح فی هذا الشهر صیام ستة ايام فقد روی مسلم فی صحیحہ اتباعه ستة من شوال کان کصیام الدھر و هذا اذا صام مدة عمره و اما اذا صام فی شهر کان کصیام سنة و قدورد فی هذا المعنی ایضاً حدیث ثوبان رواہ ابن ماجة و فی روایة فاتبعه بالقاء و لیس المراد التعقیب الحقیقی لاستلزامه صوم یوم العید فیصح من اول الشهر و بعدو المختار عند الشافعی من اول

۱۔ اول الحدیث عن انس<sup>۳</sup> اذا کان لیلۃ القدر نزل جبرئیل فی کبکبة یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یدکر اللہ تعالیٰ فاذا کان یوم عید ہم باهى اللہ بهم ملائکة فقال یا ملائکتی الحدیث ۱۲۔ مشکوٰۃ شریف ۱۲

۲۔ یعجون بمعنی بہ آواز بلند لیک کہتے ہیں۔ اور تلخیص پڑھتے ہیں۔ ۱۲۔ ۱۲۔ ۱۲

الشهر متتابعة وعندنا اعم وكذا عند احمد بل كانوا يقومون ما عندنا بعد من الكراهة والتشبيه بالنضري وقد حكم الفقهاء بسنة الغسل يوم العيدين وطريق اثباتها قياسه على الجمعة بعلة الاجتماع وقد يروى في ذلك حديث عن فاكهة ابن سعد وكان له صحبة ولم يعرف له سوى هذا الحديث انه قال كان رسول الله ﷺ يغتسل يوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة رواه ابن ماجه في سننه والطبراني في معجمه والبخاري في مسنده كذا قال الشمني وقال الشيخ ابن الهمام هذا الحديث ضعيف كذا ذكر النووي وغيره وفي شرح كتاب الحرابي روى هذا الحديث وقال كان فاكهة بن سعد يامر اهله بالغسل في هذه الايام وقال رواه عبد الله بن احمد في المسند وابن ماجه واوردته السيوطي في جمع الجوامع عن الشعبي عن زياد بن عياض الاشعري قال لقوم رأيت منكم كل فعل رأيت من رسول الله ﷺ الا انكم لا تغتسلون في العيدين رواه ابن مندة وابن عساكر وقال صحيح عن عياض وقوله زياد غير محفوظ وقد حكم بعض المحدثين بضعف هذا الحديث ايضاً ولم يوجد في الكتب الستة حديث في هذا الباب سوى اثر عن ابن عمر انه كان يغتسل يوم الفطر قبل ان يخرج الى الصلوة قالوا وشدة مبالغته في متابعة السنة تقتضي ان يصح الحديث فيه والجهر بالتكبير في طريق المصلّي سنة عند الائمة الثلاثة وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اما ان الخلاف في اصل التكبير وقديروى عن ابي حنيفة فهو سنة في عيد الاضحى دون الفطر والخلاف في الجهر اما ان الخلاف في اصل التكبير وقديروى عن ابي حنيفة الجهر ايضاً كذا في شرح ابن الهمام وتمسك الائمة بحديث رواه الدرر قطنى عن ابن عمر قال كان رسول الله ﷺ يكبر يوم الفطر اذا خرج الى المصلّى وقال الشمني في رفع هذا الحديث كلام والصحيح انه موقوف على ابن عمر وقال الشيخ ابن الهمام هذا الحديث ضعيف من جهة موسى بن محمد بن عطاء احد رواه وايضاً هو لا يدل على الجهر وقول الصحابي لا يعارض عموم الآية ودون الجهر من القول وروى عن ابن عباس انه سمع الناس يكبرون فسأل من كان يقول جملته هل كبر الامام قال لا قال ادره مثل هذا اليوم مع رسول

الله ﷺ ولم يكن احدنا يكبر قبل الامام وقال ابو جعفر لا يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات انتهى ومن السنة ان يخالف في الطريق يوم العيد بان يخرج من طريق ويرجع من اخرى فقد روى البخاري عن جابر قال كان النبي ﷺ اذا كان يوم عيد خالف لطريق وروى الترمذي والدارمي عن ابي هريرة قال كان رسول الله ﷺ اذا خرج يوم العيد من طريق رجع من غيره وقد ذكروا في هذا الفعل نكات واسراراً ذكرناها في شرح سفر السعادة وقد اختلف في انه للامام خاصة او لجميع الناس ومما ينبغي ان ينته عليه بيان حكم الصلوة قبل صلوة العيد وبعده روى البخاري ومسلم وابوداؤدو الترمذي والنسائي عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ خرج يوم العيد فصلى ركعتين ولم يصل قبله ولا بعده الحديث وقال الترمذي عن عبد الله ابن عمر وابي سعيد والعمل على هذا عند بعض اهل من اصحاب النبي ﷺ ومن بعدهم وجوز طائفة من اهل العلم الصلوة قبل صلوة العيد وبعدها والاول اصح انتهى وقال في شرح كتاب الحربى في مذهب الامام احمد بن حنبل استخلف على ابا مسعود الأنصارى على الناس فخرج يوم العيد وقال ايها الناس ليس من السنة ان يصلى قبل الامام رواه النسائي وروى ابن مسعود وحذيفة قاما ونهيا الناس ان يصلوا يوم العيد قبل خروج الامام الى المصلى رواه سعيد وقال الزهري ما سمعت من علمائنا ان احداً من اسلاف هذه الامة صلى قبل صلوة العيد او بعدها والخلاف في ان هذا مخصوص بالمصلى او شامل للمصلى والبيت فقال بعضهم ان صلى في غير المصلى فلا بأس به وروى عن ابي سعيد خدرى ان رسول الله ﷺ كان لا يصلى قبل صلوة العيد فاذا رجع الى بيته صلى ركعتين رواه ابن ماجه واحمد وقال في الهداية ولا يتفل في المصلى قبل صلوة العيد فالكراهة في المصلى خاصة وفي شرح هذا النفي باطلاقه يتناول الامام والقوم جميعاً وقال الشافعى كره للامام دون القوم وقيل المراد من هذا النفي انها غير مسنونة لانها مكروهة وقال في فتح البارى المنع عن الصلوة العيد وبعدها يحتمل ان يكون المراد به منع التفل او منع الراتبة وعلى المنع عن التفل اما ان يكون لكراهة في الوقت

او اعم منها وعلى كل تقدير مخصوصة بالمصلي او شاملة للمصلي والبيت  
 واختلف السلف في الجميع فالكوفيون يقولون يصلي بعده لاقبله وهو  
 مذهب الاوزاعي والثوري والحنيفة وقال البصريون يصلي قبله لابعده وهو  
 مذهب الحسن البصري وجماعة اخرى وقال اهل المدينة لا يصلي قبله  
 ولا بعده وهو مذهب الزهري وابن الجريج واحمد ونقل بعض المالكية  
 الاجماع على عدم التنفل للامام في المصلي ومن جوز قال انه وقت لمطلق  
 الصلوة لا كراهة فيه ومن منع قال لم يصل رسول الله ﷺ ومن اقتدى فقد  
 اهتدى والحاصل انه لم يثبت الصلوة العيد سنة لاقبله ولا بعده الا عند البعض  
 قياساً على الجماعة واما مطلق التنفل فلم يثبت المنع عنها بدليل خاص الا في  
 وقت الكراهة انتهى ثم اعلم انهم اختلفوا في صلوة العيد بعد مافات وظاهراً  
 لمذهب عند الحنيفة انه لا قضاء لصلوة العيد لان هذا لصلوة لم تثبت الا بهذه  
 الخصوصية في بعض شروح الهداية ان شاء صلى ركعتين او اربع ركعات مثل  
 الضحى كما يصلي في سائر الايام ونقل عن المحيط وفتاوى قاضي خان ان  
 من جاء المصلي ولم يدرك الصلوة مع الامام ان شاء يرجع الى بيته وان شاء  
 صلى ثم انصرف والافضل ان يصلي اربع ركعات ليكون له صلوة الضحى  
 كما نقل عن ابن مسعود باسناد صحيح انه قال من فات عنه صلوة العيد صلى  
 اربع ركعات كذا في فتح الباري وقرأ فيها في الركعة الاولى سبح اسم ربك  
 الاعلى وفي الثانية والشمس وضخها وروى ابن مسعود في هذا من  
 رسول الله ﷺ وعد اجمياً واجزياً وجاء مثل هذا في مذهب  
 احمد وذكروا هذا الاثر عن ابن مسعود وقال احمد ويقوى هذا ما جاء  
 عن علي انه امر رجلاً ان يصلي بضعفاء القوم اربع ركعات بلا تكبير وخطبة  
 وذكر البخاري في ترجمة باب ان انس جمع اهله وولده في زاوية موضع  
 على فرسخين من البصرة وصلى صلوة العيد مع الامام قال مالك والشافعي  
 رحمهما الله تعالى يصلي ركعتين وقال احمد اربع ركعات وخير عند ابي  
 حنيفة ان شاء صلى وان شالم يصلي وعلى تقدير ان يصلي خير الركعتين واربع  
 ركعات والله تعالى اعلم .

## شهر ذی الحجّة

عن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من عشر ذى الحجّة قال العلماء لو نذر احد صيام افضل ايام السنة انصرف الى هذه الايام نذر الصوم يوم افضل من سائر الايام فالى يوم عرفة وان نذر يوم من الاسبوع فالى يوم الجمعة والمختار ان ايام هذه العشرة افضل وقد جاء في صيام عشر ذى الحجّة وفضيلته وانتحبابه ايضا احاديث اى فى تسعة ايام منه فقد روى ابو داؤد والنسائي عن بعض ازواج النبی ﷺ انه يصوم تسعة فى ايام ذى الحجّة ويوم عاشوراء وثلاثة ايام من كل شهر ومن اول الاثنين فيه ومن اول خميس فيه وفى رواية اخرى كان يصوم يوم العشر وثلاثة ايام من كل شهر وماروى مسلم والترمذى وابوداؤد وعن عائشة قالت ما رأيت رسول الله ﷺ صائما فى العشر قط فلا ينافيه لانها انما اخبرت عن عدم رؤيتها فلعلها لم تطلع على صيام رسول الله ﷺ او كان له مانع منه من مرض او سفر او غيرهما هذا ويلزم مما ورد فى فضل مطلق عمل الصالح فى هذه العشرة فضل الصوم ايضا ومن السنن التى تركها الناس ان من اراد ان يضحى فرضا كان او نفلا فلا ينبغي ان يأخذ من شعره وظفره حتى يضحى فقد روى مسلم عن ام سلمة انها قالت قال رسول الله ﷺ اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحى فلا يمس من شعره وبشره شيئا وفى رواية فلأيا خذن شعرا ولا يقلمن ظفرا وفى رواية من رأى هلال ذى الحجّة واراد ان يضحى فلأيا خذ من شعره ولا من اظفاره وفى جامع الاصول من حديث مسلم عن عمرو بن مسلم بن عماد الليثى قال كنافى الحمام قريبا من يوم الاضحى فطللاء يعنى تنور جماعة فقال بعض اهل الحمام قد يمنعون من هذا ثم لقيت سعيد بن المسيّب فذكرت له قول

حمامي فقال يا ابن اخي هذا حديث نسيه الناس وتركوه حدثني ام سلمة  
 حج النبي ﷺ من رأى هلال ذى الحجة الحديث واما يوم عرفة اختلف في  
 افضل ايام او يوم الجمعة فقيل عرفة افضل ايام السنة والجمعة افضل ايام  
 اسبوع والدلائل باسرها مذكورة في كتاب سفر السعادة في باب الجمعة  
 صوم يوم عرفة والجمهور على انه سنة وقيل سنة لغير الواقفين بعرفة وعن ام  
 لفضل بنت الحارث ان ناسا تماروا عند ما يوم عرفة في صيام رسول الله ﷺ  
 قال بعضهم وهو واقف على بعيره فشربة متفق عليه وقدروى نحو هذا  
 حديث عن ميمونة وقال الترمذي وفي الباب عن ابي هريرة وابن عمر  
 قدروى عن ابن عمر قال حججت مع النبي ﷺ فلم يصمه يعني يوم عرفة  
 ومع ابي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه وانا لا اصومه ولا امر به ولا انهي  
 عنه والعمل على هذا اكثر اهل العلم انهم يستحبون الافطار بعرفة ليتقوى به  
 الرجل على الدعاء وقد صام بعض اهل العلم يوم عرفة انتهى وقد ورد في  
 فضل يوم عرفة انه يكف السنة التي بعده والتي قبله فالمختار ان صوم عرفة  
 مستحب لالحاج اذ لم يقوموا على الدعاء والاجتهاد فيه والله تعالى اعلم  
 ومما ينبغي ان ينبه عليه بيان حكم التعريف الذي يفعله بعض الناس في البلاد  
 فاعلم انه قد ذكر بعض علمائنا الحنفية التعريف وهو ان يجتمع الناس يوم عرفة  
 في بعض المواضع تشبها بالواقفين بعرفة ليس بشئ وعن ابي يوسف ومحمد  
 في غير رواية الاصول انه لا يكره لما روى عن ابن عباس انه فعل ذلك  
 بالبصرة كذا في التبيين ومن الجامع الصغير البرهاني ان قولهم التعريف الذي  
 يصنعه الناس ليس بشئ لم يرد به نفى الشرعية لانه دعاء وتسبيح وتضرع  
 الى الله تعالى وانما ارادوا به نفى وجوبه ونفى كونه سنة كذا في فتاوى نجم  
 الدين البلخي وفي الجامع الصغير والتعريف الذي يصنع الناس ليس بشئ  
 وذاك ان جمع الصلحاء والعارفين يجتمعون في يوم عرفة في كل بلدة  
 ويهللن ويكبرون شبه الحاج في عرفات فذلك ليس بشئ يعني ليس بشئ  
 من السنة ولكن هو في نفسه من جملة الديانات والخيرات واستباق الخيرات



وذكر في الكافي وقيل يستحب لانه تشبه باهل الطاعة فيكون لهم ثوابهم  
هكذا نقل في سنن الهدي ولا يخفى ان الذكر والتسبيح والتهليل والدعاء  
لاباس به لانها مشروعة في كل الامكنة والازمان ولكن الكلام في لباس  
الاحرام وتلبية وسائر اداب الحج التي يفعل الواقفون في ذلك المقام فان  
الظاهر اختصاصها بهم والله تعالى اعلم بحقيقة المرام هذا واما سائر العبادات  
والادعية والاحكام فمذكورة في كتب الفقه ورسائل المناسك فليطلب ثم  
ولكن هذا اخر ما قصدنا ايراده في هذه الرسالة واخر دعوانا ان الحمد لله رب  
العالمين وامام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد وآله واصحابه واتباعه هداة  
طريق الحق ومحى علوم الدين الى يوم الدين .

امين . امين ثم امين ط

**تمت بالخير**

ہر قسم کی دینی کتابوں کا واحد مرکز

دارُ الأُشاعت

متصل اردو بازار۔ کراچی نمبر ۱

# مؤمن کے ماہ و سال

اردو ترجمہ محمد رفیع عثمانی

ماہنامہ "السکة" کی ایک ملاحزہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات کی روشنی میں ہر مسلمان کے لئے  
اعمال و اشغال، نماز و روزہ، دعا و استغفار کا ایک مکمل دستور العمل

عارف باللہ شیخ محمد رفیع عثمانی

دارالاشاعت کراچی